

الْقَوْلُ
الْمَعْرُوفُ

Kanzul Imaan

ROMAN URDU TRANSLITERATION

SAB^īYA
VIRTUAL PUBLICATION

Kanzul Imaan

ROMAN URDU TRANSLITERATION

IMAME AHLE SUNNAT, AALA HAZRAT
IMAM AHMAD RAZA KHAN BARELVI
RAHIMAHULLAHU TA'ALA

SABĪYA
VIRTUAL PUBLICATION

DETAILS

NAME
KANZUL IMAAN

MUTARJIM
IMAME AHLE SUNNAT, AALA HAZRAT
IMAM AHMAD RAZA KHAN BARELVI

ROMAN transliteration
ABDE MUSTAFA OFFICIAL TRANSLATION DEPARTMENT

SANA ISHA'AT
RAMAZAN 1444H
APRIL 2023

TOTAL PAGES
1207

OUR DESIGNING PARTNER



PURE SUNNI
GRAPHICS

PUBLISHER

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

AMO

POWERED BY ABDE MUSTAFA OFFICIAL

✉ info@abdemustafa.com

© 2023 All Rights Reserved.

A decorative border in a reddish-brown color, featuring a repeating geometric pattern of interlocking lines that form a frame around the central text.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ALLAH KE NAAM SE SHURU
JO NIHAYAT MEHARBAAN, RAHMAT WAALA HAI

Fehrist

Peshe Lafz	7
Pehla Paarah	9
Suratul Fatiha	9
Suratul Baqarah.....	10
Dusra Paarah	46
Teesra Paarah.....	81
Surah Aale Imran	94
Chautha Paarah.....	116
Suratun Nisa.....	143
Paanchwa Paarah.....	152
Chhata Paarah	186
Suratul Maaidah	194
Saatwa Paarah	220
Suratul Anaam	231
Aathwa Paarah	258
Suratul Aaraaf	273
Nawaa Paarah	294
Suratul Anfaal	321
Duswa Paarah.....	330
Surah Tauba	339
Gyarahwa Paarah.....	364
Surah Yunus	374
Surah Hood	399
Baarahwa Paarah	401

Kanzul Imaan

Surah Yusuf	427
Terahwa Paarah	439
Surah Raad	452
Surah Ibrahim	463
Surah Hijr.....	476
Chaudhwa Paara	476
Surah Nahl.....	488
Pandrahwa Paarah.....	514
Surah Bani Israyeel (Al Asra)	514
Surah Kahaf.....	537
Solahwa Paarah.....	554
Surah Maryam	560
Surah Taha	575
Satrahwa Paarah	597
Surah Ambiya.....	597
Surah Hajj	615
Attharahwa Paarah	633
Surah Mominoon.....	633
Surah Noor	650
Surah Furqan	668
Unniswa Paarah	672
Surah Shuara	682
Surah Naml.....	708
Beeswa Paarah	719
Surah Qasas	725
Surah Ankaboot.....	745
Ikkiswa Paarah.....	755

Kanzul Imaan

Surah Room.....	760
Surah Luqman	772
Surah Sajda	779
Surah Ahzaab.....	785
Baaiswa Paarah	793
Surah Saba	804
Surah Fatir	816
Surah Yaseen	827
Teiswa Paarah.....	830
Surah Saffaat.....	839
Surah Saad	859
Surah Zumar	871
Chaubiswa Paarah	879
Surah Momin (Al Ghafir).....	888
Surah Haa Meem Sajda (Fussilat).....	905
Pachchiswa Paarah	915
Surah Shoora	917
Surah Zukhruf.....	929
Surah Dukhaan	942
Surah Jaasiya.....	949
Chhabiswa Paarah	957
Surah Ahqaaf	957
Surah Muhammad	965
Surah Fateh.....	974
Surah Hujuraat	982
Surah Qaaf	987
Surah Zariyaat.....	993

Sattaiswa Paarah	997
Surah Toor	1001
Surah Najm.....	1007
Surah Qamar.....	1014
Surah Rahman	1021
Surah Waqiya	1029
Surah Hadeed	1038
Atthaiswa Paarah	1047
Surah Mujadila.....	1047
Surah Hashr	1053
Surah Mumtahina.....	1059
Surah Saff	1064
Surah Jumuah	1067
Surah Munafiqoon	1070
Surah Taghabun	1073
Surah Talaq	1077
Surah Tehreem	1081
Untiswa Paarah	1084
Surah Mulk	1084
Surah Qalam	1090
Surah Haaqah	1096
Surah Ma'aarij.....	1102
Surah Nooh	1107
Surah Jinn	1111
Surah Muzammil	1115
Surah Muddassir	1119
Surah Qiyamah	1125

Kanzul Imaan

Surah Dahr (Al Insan)	1129
Surah Mursalaat	1133
Teeswa Paarah	1138
Surah An Naba	1138
Surah Naziaat.....	1143
Surah Abas	1147
Surah Takweer	1151
Surah Infitar	1154
Surah Mutaffifeen	1156
Surah Inshiqaq.....	1160
Surah Burooj.....	1163
Surah Tariq.....	1165
Surah Aala	1167
Surah Ghashiyah	1169
Surah Fajr	1172
Surah Balad	1175
Surah Shams	1177
Surah Lail.....	1179
Surah Ad Duha.....	1181
Surah Alam Nashrah.....	1182
Surah Teen	1183
Surah Alaq	1184
Surah Al Qadr.....	1186
Surah Bayyinah	1187
Surah Zilzaal.....	1189
Surah Aadiyaat.....	1190
Surah Qaariah.....	1191

Kanzul Imaan

Surah Takasur	1192
Surah Asr	1193
Surah Humaza	1194
Surah Feel.....	1195
Surah Quresh.....	1195
Surah Maaoon	1196
Surah Kausar.....	1197
Surah Kafiroon.....	1197
Surah Nasr.....	1198
Surah Lahab	1199
Surah Ikhlaas.....	1199
Surah Falaq	1200
Surah Naas.....	1201

Peshe Lafz

Kanzul Imaan Qurane Kareem Ka Urdu Tarjuma Hai Jo Imame Ahle Sunnat, Aala Hazrat, Imam Ahmad Raza Khan Barelvi Rahimahullahu Ta'ala Ne Kiya Hai, Agar Ye Kaha Jaaye Ke Ye Dunya Mein Sabse Behtareen Tarjuma Hai To Bilkul Sahih Hoga Kyunki Jitne Bhi Urdu Tarjume Hain Unse Iska Mawazna Kiya Ja Chuka Hai Lekin Koi Ek Bhi Iske Muqable Ka Nahin, Kai Aayato Mein Tarjuma Karne Waalo Ne Badi Badi Ghalatiya Ki Hain Lekin Is Mein Har Maqam Par Har Kisi Ke Maqam Ka Khayaal Rakhte Hue Alfaaz Ka Intekhab Kiya Gaya Hai Aur Ye Imame Ahle Sunnat, Aala Hazrat Ka Hi Khassa Hai

Urdu Zubaan Mein To Is Par Kaafi Kaam Ho Chuka Hai, Kai Formats Mein Files Ba Aasani Mil Jaati Hain Lekin Roman Urdu Jo Ke Daure Haazir Ki Zaroorat Ban Chuki Hai, Mein Is Is Par Kaam Ki Kami Mahsoos Hui Aur Isi Kami Ko Poora Karne Ke Liye Humne Is Par Kaam Karne Ka Irada Kiya Aur Taqreeban Do Mahine Ki Musalsal Mehnat Ke Baad Ise Tayyar Kiya Gaya

Is Mein Aayato Ko Copy Karna Asal Mas'ala Tha Aur Wo Is Tarah Ke Alamaate Waqf Ko Waazeh Karna Zaroori Tha Jiski Humne Kaafi Hadd Tak Koshish To Ki Hai Lekin Kamiyo'n Ke Paaye Jaane Ka Imkaan Bahar

Haal Baaqi Hai, Aap Jahan Bhi Paayein Humein Ittela Dein Aur Apne Mashwaro Ko Bhi Hum Tak Zaroor Pahunchayein Taaki Hum Aainda Mazeed Behtari La Sakein

Humne Is Nuskhe Par Kuchh Is Tarah Kaam Kiya Hai Ke :

(A) Ek Ek Aayat Aur Uske Niche Tarjuma Rakha Hai Aur Bahut Hi Standard Style Ko Select Kiya Gaya Hai Taaki Padhne Mein Aasani Ho

(2) Fehrist Mein Surato Aur Paaro Ko Shamil Kiya Gaya Hai Jis Mein Hyperlink Bhi Maujood Hai Yaani Ek Click Ke Zariye Aap Matlooba Safhe Tak Pahunch Sakte Hain

(3) Aayato Aur Tarjume Ka Rang Alag Alag Rakha Gaya Hai

(4) PDF Format Ke Ilawa EPUB Format Bhi Tayyar Kiya Gaya Hai

(5) PDF Format Mein Fonts Ka Size Chhota Nahin Rakha Gaya Hai Taaki Readers Ko Aasani Ho

Abde Mustafa

Muhammad Sabir Qadri

Founder, CEO | Abde Mustafa Official

Pehla Paarah

Suratul Fatiha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharbaan rahmat
wala

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

sab khoobiya'n allah ko jo maalik saare jahaan waalo
ka (1)

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

bahut meharbaan rahmat wala (2)

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝

roze jazaa ka maalik (3)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

hum tujhi ko poojein aur tujhi se madad chahein (4)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

hum ko seedha raasta chala (6)

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝

raasta un ka jin par tu ne ehsaan kiya

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

na unka jin par ghazab hua, na behke huo'n ka (7)

Suratul Baqarah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

allah ke naam se shuru jo bahut meharbaan rahmat
waala

اَلَمْ

alif laam meem (1)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۗ فِيْهِ ۗ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝۱

wo buland rutba kitab (quran) koi shak ki jagah nahin,
is mein hidayat hai dar waalo ko (2)

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝۲

wo jo be dekhe imaan laayein aur namaz qaaim
rakhein aur humari di hui rozi mein se humari raah
mein uthayein (3)

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ

يُوقِنُوْنَ ۝۳

aur wo ke imaan laayein us par jo aur mahboob
tumhari taraf utra aur jo tum se pehle utra aur
aakhirat par yaqeen rakhein (4)

اُولٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۴

wahi log apne rab ki taraf se hidayat par hain aur wahi
muraad ko pahunchne waale hain (5)

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۵

beshak wo jin ki qismat mein kufr hai unhein barabar
hai chahe tum unhein darao ya na darao wo imaan
laane ke nahin (6)

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿٦﴾

allah ne unke dilo par aur kaano par muhar kar di aur
un ki aankho par ghata top hai aur un ke liye bada
azaab (7)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

aur kuchh log kehte hain ke hum allah aur pichhle din
par imaan laaye aur wo imaan waale nahin (8)

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

fareb diya chahte hain allah aur iman waalo ko aur
haqeeqat mein fareb nahin dete magar apni jaano ko
aur unhein shuoor nahin (9)

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

un ke dilo mein beemari hai to allah ne unki beemari
badhaai aur unke liye dardnak azaab hai badla unke
jhoot ka (10)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

aur jo unse kaha jaaye zameen mein fasaad na karo to
kehte hain hum to sanwaarne waale hain (11)

إِنَّمَا أَنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

sunta hai wahi fasadi hain magar unhein shuoor nahin

(12)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا
إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٢﴾

aur jab unse kaha jaaye iman laao jaise aur log imaan laaye hain to kahein kya hum ahmaq ki tarah imaan le aayein? sunta hai! wahi ahmaq hain magar jaante nahin (13)

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَا إِلَىٰ شَٰئِطِنَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٣﴾

aur jab imaan waalo se milein to kahein hum imaan laaye aur jab shaitano ke paas akele ho'n to kahein hum tumhare saath hain hum to yun hi hansi karte hain (14)

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٤﴾

allah in se istehza farmata hai (jaisa us ki shaan ke laaiq hai) aur inhein dheel deta hai ke apni sarkashi mein bhatakte rahein (15)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ۖ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٥﴾

ye wo log hain jinhone hidayat ke badle gumrahi khareedi to in ka sauda kuchh nafa na laaya aur wo saude ki raah jaante hi na the (16)

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۖ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ
تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّا يَبْصُرُونَ ﴿١٦﴾

un ki kahawat is tarah hai jis ne aag raushan ki to jab usse aas paas sab jagmaga utha allah un ka noor le gaya aur unhein andheriyo mein chhod diya ke kuchh nahin soojhta (17)

صُمُّ بَكْمٌ عُمَىٰ فَهَمْ لَا يَزْجَعُونَ ﴿١٧﴾

behre goonge andhe to wo phir aane waale nahin (18)

أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ ۚ يُجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ
مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

ya jaise aasman se utarta paani ke us mein andheriya hain aur garaj aur chamak apne kaano mein ungliya thoons rahe hain kadak ke sabab maut ke dar se aur allah kafiro ko ghere hue hai (19)

يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ ۗ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ ۗ وَإِذَا أَظْلَمَ
عَلَيْهِمْ قَامُوا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩﴾

bijli yun maloom hoti hai ke unki nigahein uchak le jayegi jab chamak hui us mein chalne lage aur jab andhera hua khade reh gaye aur allah chahta to unki kaan aur aankhein le jaata beshak allah sab kuchh kar sakta hai (20)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿٢٠﴾

aye logon apne rab ko pujo jis ne tumhein aur tum se aglo ko paida kiya ye ummeed karte hue ke tumhein

parhezgari mile (21)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشِّمَارَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

aur jisne tumhare liye zameen ko bichhauna aur
aasman ko imarat banaya aur aasman se paani utara
to usse kuchh phal nikaale tumhare khane ko to allah
ke liye jaan boojh kar barabar waale na thehrao (22)

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾

aur agar tumhein kuchh shak ho is mein jo humne
apne khaas bande par utara to is jaisi ek soorat to le
aao aur allah ke siwa apne sab himayatiyo ko bula lo
agar tum sachhe ho (23)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
ۗ أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٣﴾

phir agar na la sako aur hum farmaye dete hain ke
hargiz na la sakoge to daro us aag se jis ka indhan
aadmi aur patthar hain tayyar rakhi hai kafiro ke liye
(24)

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ۖ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ
مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٤﴾

aur khushkhabri de unhein jo imaan laaye aur achhe
kaam kiye ke un ke liye baagh hain jin ke niche nehrein

rawaan jab unhein in baagho se koi phal khane ko diya jayega soorat dekh kar kahenge ye to wahi rizq hai jo humein pehle mila tha aur wo soorat mein milta julta unhein diya gaya aur unke liye in baagho mein suthri bibiya'n hain aur wo in mein humesha rahenge (25)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

beshak allah usse haya nahin farmata ke misaal samjhane ko kaisi hi cheez ka zikr farmaye machhar ho ya usse badh kar to wo jo imaan laaye wo to jaante hain ke ye unke rab ki taraf se haq hai rahe kafir wo kehte hain aisi kahawat mein allah ka kya maqsood hai allah bahutero ko isse gumrah karta hai aur bahutero ko hidayat farmata hai aur isse unhein gumrah karta hai jo be hukm hain (26)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ۗ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ۖ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٢٦﴾

wo jo allah ke ahad ko tod dete hain pakka hone ke baad aur kaat'te hain us cheez ko jis ke jodne ka khuda ne hukm diya aur zameen mein fasad phailate hain wahi nuqsan mein hain (27)

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٧﴾

bhala tum kyunkar khuda ke munkir hoge halanki tum murda the usne tumhein jilaya phir tumhein maarega phir tumhein jilayega phir usi ki taraf palat kar jaoge (28)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

wahi hai jisne banaya tumhare liye jo kuchh zameen mein hai phir aasman ki taraf istiwa (qasd) farmaya to theek aasman banaye aur wo sab kuchh janta hai (29)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

aur yaad karo jab tumhare rab ne firishto se farmaya zameen mein apna naaib banane waala hoon bole kya aise ko naaib karega jo is mein fasaad phailaye aur khunreziya kare aur hum sarahte hue teri tasbeeh karte aur teri paaki bolte hain farmaya mujhe maloom hai jo tum nahin jaante (30)

وَاعْلَمَ أَدْمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰٓؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰٓدِقِينَ ﴿٣١﴾

aur allah ta'ala ne adam ko tamam ash'ya ke naam sikhaye phir sab ash'ya malaika par pesh kar ke farmaya sachhe ho to inke naam to batao (31)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٣٢﴾

bole paaki hai tujhe humein kuchh ilm nahin magar
jitna tune humein sikhaya hai beshak tu hi ilmo hikmat
wala hai (32)

قَالَ يَا اٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ بِاسْمَائِهِمْ ۗ فَلَمَّا اَنْبَاَهُمْ بِاسْمَائِهِمْ ۗ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي

اَعْلَمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿٣٣﴾

farmaya aye adam bata de inhein sab ash'ya ke naam
jab adam ne inhein sab ke naam bata diye farmaya
main na kehta tha ke main jaanta hoon aasmano aur
zameen ki sab chhupi cheezein aur main jaanta hoon
jo kuchh tum zaahir karte aur jo kuchh tum chhupate
ho (33)

وَ اذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلٰیْسَ ۗ اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ ۗ وَكَانَ

مِّنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٤﴾

aur yaad karo jab hum ne firishto ko hukm diya ke
adam ko sajda karo to sab ne sajda kiya siwaye iblees
ke munkir hua aur ghuroor kiya aur kafir ho gaya (34)

وَ قُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۗ وَلَا

تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴿٣٥﴾

aur humne farmaya aye adam tu aur teri bibi is jannat
mein raho aur khao is mein se be rok tok jahan
tumhara jee chahe magar us ped ke paas na jaana ke
hadd se badhne walo mein ho jaaoge (35)

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۗ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

to shaitan ne jannat se unhein laghzish di aur jahan rehte the wahan se unhein alag kar diya aur humne farmaya niche utro aapas mein ek tumhara dusre ka dushman aur tumhein ek waqt tak zameen mein thearna aur baratna hai (36)

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

phir seekh liye adam ne apne rab se kuchh kalime to allah ne uski tauba qabool ki beshak wahi hai bahut tauba qabool karne waala meharban (37)

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ تَّبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾

humne farmaya tum sab jannat se utar jao phir agar tumhare paas meri taraf se koi hidayat aaye to jo meri hidayat ka pairu hua use na koi andesha na kuchh gham (38)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾

aur wo jo kufr karein aur meri aayatein jhutlayenge wo dozakh wale hain unko humesha us mein rehna (39)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۗ وَاَوْفُوا بِعَهْدِيْٓ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۗ وَاِيَّايْ فَارْهَبُوْنَ ﴿٤٠﴾

aye yaqoob ki awlaad yaad karo mera wo ehsaan jo maine tum par kiya aur mera ahad poora karo main tumhara ahad poora karunga aur khaas mera hi dar

rakho (40)

وَأْمِنُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا
بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ وَإِيَّاي فَاتَّقُونَ ﴿٤٠﴾

aur imaan laao us par jo maine utara uski tasdeeq karta hua jo tumhare saath hai aur sabse pehle iske munkir na bano aur meri aayato ke badle thode daam na lo aur mujhi se daro (41)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

aur haq se batil ko na milao aur deeda wa danista haq na chhupao (42)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾

aur namaz qaaim rakho aur zakaat do aur ruku karne waalo ke saath ruku karo (43)

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

kya logon ko bhalai ka hukm dete ho aur apni jaano ko bhoolte ho halanki tum kitab padhte ho to kya tumhein aql nahin (44)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۗ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٤﴾

aur sabr aur namaz se madad chaho aur beshak namaz zaroor bhari hai magar un par jo dil se meri taraf jhukte hain (45)

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبَّهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٤٥﴾

jinhein yaqeen hai ke unhein apne rab se milna hai aur

usi ki taraf phirna (46)

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى

الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

aye awlaade yaqoob yaad karo mera wo ehsaan jo
maine tum par kiya aur ye ke is saare zamane par
tumhein bada di (47)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ

مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

aur daro us din se jis din koi jaan dusre ka badla na ho
sakegi aur na kafir ke liye koi sifarish maani jaaye aur
na kuchh le kar uski jaan chhodi jaaye aur na unki
madad ho (48)

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ

يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

aur yaad karo jab humne tum ko firaun waalo se najaat
bakhshi ke tum par bura azaab karte the tumhare beto
ko zibah karte aur tumhari betiyo ko zinda rakhte aur
is mein tumhare rab ki taraf se badi bala thi ya bada
inaam (49)

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَاعْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾

aur jab humne tumhare liye darya phaad diya to
tumhein bacha liya aur firaun waalo ko tumhari
aankho ke saamne dubo diya (50)

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

aur jab humne moosa se chalees raat ka waada farmaya phir uske pichhe tumne bachhde ki pooja shuru kar di aur tum zalim the (51)

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥١﴾

phir uske baad humne tumhein muaafi di ke kahin tum ehsaan maano (52)

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٢﴾

aur jab humne moosa ko kitab ata ki aur haqqo batil mein tameez kar dena ke kahin tum raah par aao (53)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ إِنَّمَا ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَنُتُوًّا إِلَىٰ بَارِكُمْ فَأَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِكُمْ ۖ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

aur jab moosa ne apni qaum se kaha aye meri qaum tumne bachhda bana kar apni jaano par zulm kiya to apne paida karne waale ki taraf ruju laao to aapas mein ek dusre ko qatl karo ye tumhare paida karne waale ke nazdeek tumhare liye behtar hai to usne tumhari tauba qabool ki beshak wahi hai bahut tauba qabool karne waala meharbaan (54)

وَإِذْ قُلْتُمْ يُمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٤﴾

aur jab tumne kaha aye moosa hum hargiz tumhara yaqeen na layenge jab tak alaniya khuda ko na dekh lein to tumhein kadak ne aa liya aur tum dekh rahe the

(55)

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٥﴾

phir mere pichhe humne tumhein zinda kiya ke kahin
tum ehsaan maano (56)

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا

رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٦﴾

aur humne abr ko tumhare saibaan kiya aur tum par
mann aur salwa utara khao humari di hui suthri
cheezein aur unhone kuchh humara na bigada haan
apni hi jaano ka bigaad karte the (57)

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ

سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۗ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾

aur jab humne farmaya is basti mein jaao phir is mein
jahan chaho be rok tok khao aur darwaza mein sajda
karte dakhil ho aur kaho humare gunah muaaf ho hum
tumhari khatayein bakhsh denge aur qareeb hai ke
neki waalo ko aur zyada dein (58)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا

مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٨﴾

to zalimo ne aur baat badal di jo farmai gai thi uske
siwa to humne aasman se un par azaab utara badla
unki be hukmi ka (59)

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا

تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

aur jab moosa ne apni qaum ke liye paani maanga to humne farmaya is patthar par apna asaa maaro fauran us mein se baarah chashme beh nikle har giroh ne apna ghaat pehchan liya khao aur piyo khuda ka diya aur zameen mein fasaad uthate na phiro (60)

وَإِذْ قُلْتُمْ يُوسَىٰ لَنْ نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصِلِهَا ۗ قَالَ آتَسْتَبِدُّونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۗ إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ۗ وَبَاءَ وَبِغَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّاتِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

aur jab tumne kaha aye moosa humse to ek khane par hargiz sabr na hoga to apne rab se dua kijiye ke zameen ki ugai hui cheezein humare liye nikaale kuchh saag aur kakdi aur gehu aur masoor aur pyaaz farmaya kya adna cheez ko behtar ke badle mangte ho achha misr ya kisi shehar mein utro wahan tumhein milega jo tumne maanga aur un par muqarrar kar di gai khwaari aur nadaari aur khuda ke ghazab mein laute ye badla tha is ka ke wo allah ki aayato ka inkaar karte aur ambiya ko nahaq shaheed karte ye badla tha unki nafarmaniyo aur hadd se badhne ka (61)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَىٰ وَالصُّبْيَانَ ۗ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

beshak imaan waale neez yahoodiyo aur nasraniyo aur sitara parasto mein se wo ke sachhe dil se allah aur pichhle din par imaan laayein aur nek kaam karein unka sawaab unke rab ke paas hai aur na unhein kuchh andesha ho aur na kuchh gham (62)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ طُحُّدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

aur jab humne tumse ahad liya aur tum par toor ko ooncha kiya lo jo kuchh hum tum ko dete hain zor se aur iske mazmoon ko yaad karo is ummeed par ke tumhein parhezgari mile (63)

ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۖ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾

phir uske baad tum phir gaye to agar allah ka fazl aur uski rahmat tum par na hoti to tum toote waalo mein ho jaate (64)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا قِرْدَةً ۚ خَسِبِينَ ﴿٦٥﴾

aur beshak zaroor tumhein maloom hai tum mein ke wo jinhone hafta mein sarkashi ki to humne unse farmaya ke ho jao bandar dhutkare hue (65)

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

to humne (us basti ka) ye waqiya uske aage aur pichhe

waalo ke liye ibrat kar diya aur parhezgaro ke liye naseehat (66)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُرُوجًا ۗ
قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

aur jab moosa ne apni qaum se farmaya khuda tumhein hukm deta hai ke ek gaaye zibah karo bole ke aap humein maskhara banate hain farmaya khuda ki panah ke main jahilo se hon (67)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ ۗ
عَوَانَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ فافعلوا ما تؤمرون ۝

bole apne rab se dua kijiye ke wo humein bata de gaaye kaisi kaha wo farmata hai ke wo ek gaaye hai na boodhi aur na awsar balki in dono ke beech mein to karo jis ka tumhein hukm hota hai (68)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ۗ فَاقْعِ
لَوْهَا تَسُرُّ النُّظُرِينَ ۝

bole apne rab se dua kijiye humein bata de uska rang kya hai kaha wo farmata hai wo ek peeli gaaye hai jiski rangat duhdhati dekhne waalo ko khushi deti (69)

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۗ إِنَّ الْبَقَرَ تَشْبَهُ عَلَيْنَا ۗ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
لَمُهتدون ۝

bole apne rab se dua kijiye ke humare liye saaf bayaan kare wo gaaye kaisi hai beshak gaayo mein hum ko shubha pad gaya aur allah chahe to hum raah pa

jayenge (70)

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لَا
شِيَةَ فِيهَا ۗ قَالُوا لَنْ جَعْتِ بِالْحَقِّ قَدْ بَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ۝

kaha wo farmata hai ke wo ek gaaye hai jis se khidmat nahin li jaati ke zameen jote aur na kheti ko paani de be aib hai jis mein koi daagh nahin bole ab aap theek baat laaye to use zibah kiya aur zibah karte maloom na hote the (71)

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝

aur jab tum ne ek khoon kiya to ek dusre par uski tohmat daalne lage aur allah ko zaahir karna jo tum chhupate the (72)

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضَهَا ۗ كَذَلِكَ يُعَذِّبُ اللَّهُ الْمُؤْتِي ۗ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ۝

to humne farmaya us maqtool ko gaaye ka ek tukda maaro allah yun hi murde jilaayega aur tumhein apni nishaniya dikhata hai ke kahin tumhein aql ho (73)

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَإِنْ مِنَ
الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۗ وَ
إِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝

phir uske baad tumhare dil sakht ho gaye to wo pattharo ki misl hain balki unse bhi zyada kade aur pattharo mein to kuchh wo hain ke allah ke dar se gir padte hain aur allah tumhare kotko se bekhbar nahin

(74)

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٤﴾

to aye musalmano kya tumhein ye tama hai ke ye yahoodi tumhara yaqeen layenge aur un mein ka to ek giroh wo tha ke allah ka kalaam sunte phir samajhne ke baad use danista badal dete (75)

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا
أُتِحَّ دِينُهُمْ بِهِ فَأَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٧٥﴾

aur jab musalmano se milein to kahein hum imaan laaye aur jab aapas mein akele ho'n to kahein wo ilm jo allah ne tum par khola musalmano se bayaan kiye dete ho ke isse tumhare rab ke yahan tumhi par hujjat laayein kya tumhein aql nahin (76)

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

kya nahin jaante ke allah jaanta hai jo kuchh wo chhupate hain aur jo kuchh zaahir karte hain (77)

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٍّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٧٧﴾

aur un mein kuchh anpadh hain ke jo kitab ko nahin jaante magar zubani padh lena ya kuchh apni man ghadat aur wo nire gumaan mein hain (78)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ۗ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
يَكْسِبُونَ ﴿٧٨﴾

to kharabi hai un ke liye jo kitab apne haatho se likhein phir keh dein ye khuda ke paas se hai ke iske iwaz thode daam haasil karein to kharabi hai un ke liye un ke haatho ke likhe se aur kharabi un ke liye us kamai se (79)

وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧٩﴾

aur bole humein to aag na chhuyegi magar ginti ke din tum farma do kya khuda se tum ne koi ahad le rakha hai jab to allah hargiz apna ahad khilaf na karega ya khuda par wo baat kehte ho jis ka tumhein ilm nahin (80)

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾

haan kyun nahin jo gunah kamaye aur uski khata use gher le wo dozakh waalo mein hai unhein humesha us mein rehna (81)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾
aur jo imaan laaye aur achhe kaam kiye wo jannat waale hain unhein humesha us mein rehna (82)
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٢﴾

aur jab humne bani israyeel se ahad liya ke allah ke

siwa kisi ko na pujo aur maa baap ke saath bhalai karo aur rishtedaro aur yateemo aur miskeeno se aur logon se achhi baat kaho aur namaz qaaim rakho aur zakaat do phir tum phir gaye magar tum mein ke thode aur tum ru gardaa'n ho (83)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٣﴾

aur jab humne tumse ahad liya ke apno ka khoon na karna aur apno ko apni bastiyo se na nikaalna phir tum ne is ka iqrar kiya aur tum gawah ho (84)

ثُمَّ أَنْتُمْ هُمْ لِآءٍ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَإِن يَأْتُواكُمْ أُسْرَىٰ فَتْدُوهُمْ ۗ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۗ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءٌ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

phir ye jo ho tum apno ko qatl karne lage aur apne mein ek giroh ko unke watan se nikaalte ho un par madad dete ho (unke mukhalif ko) gunah aur zyadati mein aur agar wo qaidi ho kar tumhare paas aayein to badla de kar chhuda lete ho aur un ka nikaalna tum par haraam hai to kya khuda ke kuchh hukmo par imaan laate aur kuchh se inkaar karte ho to jo tum mein aisa kare uska badla kya hai magar ye ke dunya mein ruswa ho aur qiyamat mein sakht tar azaab ki

taraf phere jayenge aur allah tumhare kotko se be khabar nahin (85)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٥﴾

ye hain wo log jinhone aakhirat ke badle dunya ki zindagi mol li to na un par se azaab halka aur na un ki madad ki jaaye (86)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ ۖ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٦﴾

aur beshak humne moosa ko kitab ata ki aur uske baad pai dar pai rasool bheje aur humne eisa bin maryam ko khuli nishaniya ata farmai aur paak rooh se uski madad ki to kya jab tumhare paas koi rasool wo le kar aaye jo tumhare nafs ki khwahish nahin takabbur karte ho to un mein ek giroh ko tum jhutlate aur ek giroh ko shaheed karte ho (87)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۖ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٧﴾

aur yahoodi bole humare dilo par parde pade hain balki allah ne un par lanat ki unke kufr ke sabab to un mein thode imaan laate hain (88)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ۖ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكُفْرِينَ ﴿٨٨﴾

aur jab unke paas allah ki wo kitab (quran) aai jo unke saath waali kitab (taurait) ki tasdeeq farmati hai aur isse pehle wo isi nabi ke waseele se kafiro par fatah mangte the to jab tashreef laaya unke paas wo jaana pehchana usse munkir ho baithe to allah ki lanat munkiro par (89)

بِسْمَا اسْتَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزَّلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ؕ فَبَاءُ وَبِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٨٩﴾

kis bade molo'n unhone apni jaano ko khareeda ke allah ke utaare se munkir ho'n is ki jalan se ke allah apne fazl se apne jis bande par chahe wahi utaare to ghazab par ghazab ke sazawaar hue aur kafiro ke liye zillat ka azaab hai (90)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا اِنَّا نُوْمِنُ بِمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا وَنَكْفُرُ بِمَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ قَبْلُ وَرَاۗءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

aur jab unse kaha jaaye ke allah ke utare par imaan laao to kehte hain wo jo hum par utra us par imaan laate hain aur baaqi se munkir hote hain halanki wo haq hai un ke paas waale ki tadeeq farmata hua tum farmao ke phir agle ambiya ko kyun shaheed kiya agar tumhein apni kitab par imaan tha (91)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْۢ بَعْدِهَا وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ﴿٩١﴾

aur beshak tumhare paas moosa khuli nishaniya le kar
tashreef laaya phir tum ne us ke baad bachhde ko
mabood bana liya aur tum zalim the (92)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْعُوا
قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ۗ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ۗ قُلْ بِئْسَمَا
يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيْمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٢﴾

aur yaad karo jab humne tumse paimaan liya aur kohe
toor ko tumhare sar par buland kiya, lo jo hum
tumhein dete hain zor se suno bole humne suna aur
na maana aur un ke dilo mein bachhda rach raha tha
un ke kufr ke sabab tum farma do kya bura hukm deta
hai tum ko tumhara imaan agar imaan rakhte ho (93)

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا
المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

tum farmao agar pichhla ghar allah ke nazdeek khali
tumhare liye ho na auro ke liye to bhala maut ki aarzoo
to karo agar sachhe ho (94)

وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾

aur hargiz kabhi iski aarzoo na karenge un bad
aamaliyo ke sabab jo aage kar chuke aur allah khoob
jaanta hai zalimo ko (95)

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ ۖ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ
لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ وَمَا هُوَ بِمُرْحَزٍ حَزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

aur beshak tum zaroor unhein paoge ke sab logon se zyada jeene ki hawas rakhte hain aur mushriko se ek ko tamanna hai ke kahin hazaar baras jiyे aur wo ise azaab se door na karega itni umr diya jaana aur allah unhein kotak dekh raha hai (96)

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٦﴾

tum farma do jo koi jibreel ka dushman ho to usne to tumhare dil par allah ke hukm se ye quran utara agli kitabo ki tasdeeq farmata aur hidayat wa basharat musalmano ko (97)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿٩٧﴾

jo koi dushman ho allah aur uske firishto aur uske rasoolo aur jibreel aur mikayeel ka to allah dushman hai kafiro ka (98)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴿٩٨﴾

aur beshak humne tumhari taraf raushan aayatein utaari aur inke munkir na honge magar fasiq log (99)

أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدُوا عَهْدًا نَبَدَّاهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

aur kya jab kabhi koi ahad karte hain un mein ek fareeq use phenk deta hai balki un mein bahutero ko imaan nahin (100)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَدَّ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ۗ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَهُمْ ظُهُورَهُمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾

aur jab un ke paas tashreef laaya allah ke yahan se ek rasool unki kitabo ki tasdeeq farmata to kitab waalo se ek giroh ne allah ki kitab peeth pichhe phenk di goya wo kuchh ilm hi nahin rakhte (101)

وَ اتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلٰكِنَّ
الشَّيْطَانِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۖ وَ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ
هَارُوتَ وَ مَا رُوتَ ۖ وَ مَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۗ
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ ۖ وَ مَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَ لَقَدْ عَلِمُوا الْمَن
اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ۖ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

aur uske pairu hue jo shaitan padha karte the saltanate suleman ke zamane mein aur suleman ne kufir na kiya haan shaitan kafir hue logon ko jaadu sikhate hain aur wo (jaadu) jo babil mein do firishto haaroot wa maaroot par utra aur wo dono kisi ko kuchh na sikhate jab tak ye na keh lete ke hum to niri aazmaish hain to apna imaan na kho to un se seekhte wo jisse judai daalein mard aur uski aurat mein aur usse zarar nahin pahuncha sakte kisi ko magar khuda ke hukm se aur wo seekhte hain jo unhein nuqsan dega nafa na dega aur beshak zaroor unhein maloom hai ke jisne ye sauda liya aakhirat mein us ka kuchh hissa nahin aur beshak kya buri cheez hai wo jiske

badle unhone apni jaanein bechi kisi tarah unhein ilm
hota (102)

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوُا الْمَثُوبَةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

aur agar wo imaan laate aur parhezgari karte to allah
ke yahan ka sawaab bahut achha hai kisi tarah unhein
ilm hota (103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

aye imaan waalo! raaina na kaho aur yun arz karo ke
huzoor hum par nazar rakhein aur pehle se hi baghaur
suno aur kafiro ke liye dardnaak azaab hai (104)

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٤﴾

wo jo kafir hain kitabi ya mushrik wo nahin chahte ke
tum par koi bhalai utre tumhare rab ke paas se aur
allah apni rahmat se khaas karta hai jise chahe aur
allah bade fazl waala hai (105)

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٥﴾

jab koi aayat hum mansookh farmayein ya bhula dein
to usse behtar ya us jaisi le aayenge kya tujhe khabar
nahin ke allah sab kuchh kar sakta hai (106)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ
لَا نَصِيرٍ ﴿١٠٦﴾

kya tujhe khabar nahin ke allah hi ke liye hai aasmano aur zameen ki baadshahi aur allah ke siwa tumhara na koi himayati na madadgaar (107)

أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ
الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٧﴾

kya ye chahte ho ke apne rasool se waisa sawal karo jo pehle moosa se hua tha aur jo imaan ke badle kufr le wo theek rasta behak gaya (108)

وَدَكْثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُّدُّوكُم مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفْرًا ۚ حَسَدًا مِّنْ
عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا ۚ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ
بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

bahut kitabiyo ne chaha kaash tumhein imaan ke baad kufr ki taraf pher dein apne dilo ki jalan se baad iske ke haq un par khoob zaahir ho chuka hai to tum chhodo aur darguzar karo yahan tak ke allah apna hukm laaye beshak allah har cheez par qadir hai (109)

وَاقِيْبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

aur namaz qaaim rakho aur zakaat do aur apni jaano ke liye jo bhalai aage bhejoge use allah ke yahan paaoge beshak allah tumhare kaam dekh raha hai (110)

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا
بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

aur ahle kitab bole, hargiz jannat mein na jayega magar wo jo yahoodi wa nasrani ho ye un ki khayaal bandiyaa'n hain tum farmao laao apni daleel agar sachhe ho (111)

بَلَىٰ مَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١١﴾

haan kyun nahin jis ne apna moonh jhukaya allah ke liye aur wo nikokaar hai to uska neg uske rab ke paas hai aur unhein na kuchh andesha ho aur na kuchh gham (112)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾

aur yahoodi bole nasrani kuchh nahin aur nasrani bole yahoodi kuchh nahin halanki wo kitab padhte hain isi tarah jahilo ne un ki si baat kahi to allah qiyamat ke din un mein faisla kar dega jis baat mein jhagad rahe hain (113)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۗ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَلَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾

aur us se badh kar zaalim kaun jo allah ki masjid ko roke un mein naame khuda liye jaane se aur un ki veerani mein koshish kare un ko na pahunchta tha ke

masjido mein jaayein magar darte hue un ke liye dunya mein ruswai hai aur un ke liye aakhirat ka bada azaab (114)

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

aur purab pachhim sab allah hi ka hai to tum jidhar moonh karo udhar wajhullah (khuda ki rahmat tumhari taraf mutawajje) hai beshak allah wusat waala ilm waala hai (115)

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ كُلُّ لَّهُ قٰنِیْنٌ ﴿١١٥﴾

aur bole khuda ne apne liye awlaad rakhi paaki hai use balki usi ki milk hai jo kuchh aasmano aur zameen mein hai sab uske huzoor gardan daale hain (116)

بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَهُ كُنْ فِیْكُوْنُ ﴿١١٦﴾

naya paida karne waala aasmano aur zameen ka aur jab kisi baat ka hukm farmaye to us se yahi farmata hai ke ho ja wo fauran ho jaati hai (117)

وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ لَوْ لَا یُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِنَا اٰیَةٌ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِیْنَ مِنْ

قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ قَدْ یَبِیِّنَا الْاٰیٰتِ لِقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ ﴿١١٧﴾

aur jahil bole allah hum se kyun nahin kalaam karta ya humein koi nishani mile unse aglo ne bhi aisi hi kahi un ki si baat in ke unke dil ek se hain beshak hum ne nishaniya khol di yaqeen waalo ke liye (118)

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِیْرًا وَّاَنْذِیْرًا ۗ وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِیْمِ ﴿١١٨﴾

beshak hum ne tumhein haq ke saath bheja
khushkhabri deta aur dar sunata aur tum se dozakh
waalo ka sawal na hoga (119)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ
الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ
مِنْ وَّالٍ ۖ وَلَا نَصِيرٌ ﴿١١٩﴾

aur hargiz tumse yahood aur nasara raazi na honge jab
tak tum un ke deen ki pairwi na karo tum farma do
allah ki hi hidayat hidayat hai (aur aye sunne waale kise
bashad) agar tu un ki khwahisho ka pairu hua baad
iske ke tujhe ilm aa chuka to allah se tera koi bachane
waala na hoga aur na madadgaar (120)

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٢٠﴾

jinhein hum ne kitab di hai wo jaisi chahiye us ki tilawat
karte hain wahi is par imaan rakhte hain aur jo is ke
munkir ho'n to wahi ziya'n kaar hain (121)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا نِعْمَتِ اللّٰهِ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ كُنْتُمْ كٰفِرًا
الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢١﴾

aye awlaade yaqoob yaad karo mera ehsaan jo maine
tum par kiya aur wo jo maine us zamana ke sab logon
par tumhein badai di (122)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيٰ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا
شَفَاعَةٌ ۗ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿١٢٢﴾

aur daro us din se ke koi jaan dusre ka badla na hogi aur na usko kuchh le kar chhodein aur na kafir ko koi sifarish nafa de aur na un ki madad ho (123)

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَتْهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَ
مِن دُزِيِّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٣﴾

aur jab ibrahim ko us ke rab ne kuchh baato se aazmaya to us ne wo poori kar dikhai farmaya main tumhein logo ka peshwa banane waala hoon arz ki aur meri awlaad se farmaya mera ahad zalimo ko nahin pahunchta (124)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ۗ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ
عَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ۚ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

aur yaad karo jab hum ne us ghar ko logon ke liye marja aur amaan banaya aur ibrahim ke khade hone ki jagah ko namaz ka maqam banao aur hum ne takeed farmai ibrahim wa ismayeel ko ke mera ghar khoob suthra karo tawaf waalo aur etikaf waalo aur ruku wa sujud waalo ke liye (125)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ۖ مَنْ آمَنَ
مِنْهُمْ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ
النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

aur jab arz ki ibrahim ne ke aye rab mere is shehar ko amaan waala kar de aur is ke rehne waalo ko tarah

tarah ke phalo se rozi de jo in mein se allah aur pichhle din par imaan laayein farmaya aur jo kafir hua thoda baratne ko use bhi doonga phir use azaabe dozakh ki taraf majboor karunga aur wo bahut buri jagah hai palatne ki (126)

وَإِذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٦﴾

aur jab uthata tha ibrahim us ghar ki niwein aur ismayeel ye kehte hue ke aye rab humare hum se qabool farma beshak tu hi hai sunta jaanta (127)

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

aye rab humare aur kar humein tere huzoor gardan rakhne waale aur humari awlaad mein se ek ummat teri farmanbardar aur humein humare ibadat ke qaaide bata aur hum par apni rahmat ke saath ruju farma beshak tu hi hai bahut tauba qabool karne waala meharban (128)

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾

aye rab humare aur bhej un mein ek rasool unhi mein se ek un par teri aayatein tilawat farmaye aur unhein teri kitab aur pukhta ilm sikhaye aur unhein khoob suthra farmawe beshak tu hi hai ghalib hikmat waala (129)

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۗ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا ۗ
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

aur ibrahim ke deen se kaun moonh phere siwa us ke jo dil ka ahmaq hai aur beshak zaroor humne dunya mein use chun liya aur beshak wo aakhirat mein humare khaas qurb ki qabiliyat waalo mein hai (130)

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾

jabke us se uske rab ne farmaya gardan rakh arz ki maine gardan rakhi uske liye jo rab hai saare jahaan ka (131)

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يُبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ
إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

aur isi deen ki wasiyat ki ibrahim ne apne beto ko aur yaqoob ne ke aye mere beto beshak allah ne ye deen tumhare liye chun liya to na marna magar musalman (132)

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن
بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالِاهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالِهَآ وَآجِدًا
وَأَنْحُنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

balki tum mein ke khud maujood the jab yaqoob ko maut aai jabki usne apne beto se farmaya mere baad kis ki puja karoge bole hum pujenge use jo khuda hai aap ka aur aap ke walido ibrahim wa ismayeel wa is'haaq ka ek khuda aur hum us ke huzoor gardan

rakhe hain (133)

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُنْصَلُونَ عَمَّا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿١٣٣﴾

ye ek ummat hai ke guzar chuki un ke liye hai jo unhone kamaya aur tumhare liye hai jo tum kamao aur un ke kaamo ki tum se pursish na hogi (134)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٤﴾

aur kitabi bole yahoodi ya nasrani ho jao raah paoge tum farmao balki hum to ibrahim ka deen lete hain jo har batil se juda the aur mushriko se na the (135)

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ

يَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ لَا

نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٥﴾

yun kaho ke hum imaan laaye allah par aur us par jo humari taraf utra aur jo utara gaya ibrahim wa ismayeel wa is'haaq wa yaqoob aur un ki awlaad par aur jo ata kiye gaye moosa wa eisa aur jo ata kiye gaye baaqi ambiya apne rab ke paas se hum un mein kisi par imaan mein farq nahin karte aur hum allah ke huzoor gardan rakhe hain (136)

فَإِنْ آمَنُوا بِبِئْسَلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٦﴾

phir agar wo bhi yun hi imaan laaye jaisa tum laaye jab

to wo hidayat pa gaye aur agar moonh pherein to wo niri zidd mein hain to aye mahboob anqareeb allah un ki taraf se tumhein kifayat karega aur wahi hai sunta jaanta (137)

صِبْغَةَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ۚ وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ ﴿٣٧﴾

hum ne allah ki reeni li aur allah se behtar kisi ki reeni aur hum usi ko pujte hain (138)

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿٣٨﴾

tum farmao kya allah ke baare mein hum se jhagadte ho halanki wo humara bhi malik aur tumhara bhi aur humari karni humare saath aur tumhari karni tumhare saath aur hum nire usi ke hain (139)

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ ۗ قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

balki tum to yun kehte ho ke ibrahim wa ismayeel wa is'haaq wa yaqoob aur un ke bete yahoodi ya nasrani the, tum farmao kya tumhein ilm zyada hai ya allah ko aur us se badh kar zalim kaun jis ke paas allah ki taraf ki gawahi ho aur wo use chhupaye aur khuda tumhare kotako se be khabar nahin (140)

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

wo ek giroh hai ke guzar gaya un ke liye un ki kamai
aur tumhare liye tumhari kamai aur un ke kaamo ki
tum se pursish na hogi (141)

Dusra Paarah

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يُهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

ab kahenge bewuqoof log kis ne pher diya musalmano ko un ke us qibla se jis par the? tum farma do ke purab pachhim sab allah hi ka hai jise chahe seedhi raah chalata hai (142)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ
عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَ مَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ
الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ
وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

aur baat yun hi hai ke humne tumhein kiya sab ummato mein afzal ke tum logon par gawah ho aur ye rasool tumhare nighban wa gawah aur aye mahboob tum pehle jis qibla par the hum ne wo isiliye muqarrar kiya tha ke dekhein kaun rasool ki pairwi karta hai aur kaun ulte paaon phir jaata hai aur beshak ye bhaari thi magar un par jinhein allah ne hidayat ki aur allah ki shaan nahin ke tumhara imaan akarat kare, beshak allah aadmiyo par bahut meharban, muhar waala hai (143)

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ۚ قَوْلٍ وَجْهِكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ

أَوْتُوا الْكِتَابَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

hum dekh rahe hain baar baar tumhara aasman ki taraf moonh karna to zaroor hum tumhein pher denge us qibla ki taraf jis mein tumhari khushi hai abhi apna moonh pher do masjide haraam ki taraf aur aye musalmano tum jahan kahin ho apna moonh usi ki taraf karo aur wo jinhein kitab mili hai zaroor jaante hain ke ye un ke rab ki taraf se haq hai aur allah un ke kotko se bekhbar nahin (144)

وَلِئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ۚ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ وَلِئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٥﴾

aur agar tum un kitabiyo ke paas har nishani le kar aao wo tumhare qibla ki pairwi na karenge aur na tum unke qibla ki pairwi karo aur wo aapas mein bhi ek dusre ke qibla ke taabe nahin aur (aye sunne waale kise bashad) agar tu un ki khwahisho par chala baar iske ke tujhe ilm mil chuka to us waqt tu zaroor sitamgaar hoga (145)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

jinhein humne kitab ata farmai wo is nabi ko aisa pehchante hain jaise aadmi apne beto ko pehchanta hai aur beshak un mein ek giroh jaan boojh kar haq chhupate hain (146)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧﴾

(aye sunne waale) ye haq hai tere rab ki taraf se (ya haq wahi hai jo tere rab ki taraf se ho) to khabardaar to beshak na karna (147)

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّبُهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ

جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

aur har ek ke liye tawajjo ki ek simt hai ke wo usi taraf moonh karta hai to ye chaho ke nekiyo mein auro se aage nikal jaayein tum kahin ho allah tum sab ko ikattha le aayega beshak allah jo chahe kare (148)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ

رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

aur jahan se aao apna moonh masjid haraam ki taraf karo aur wo zaroor tumhare rab ki taraf se haq hai aur allah tumhare kaamo se ghafil nahin (149)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَمِنْ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۚ إِلَّا الَّذِينَ

ظَلَمُوا مِنْهُمْ ۗ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَا تَمْرُوعْتِي عَلَيْكُمْ ۗ وَعَلَّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

aur aye mahboob tum jahan se aao apna moonh masjid haraam ki taraf karo aur aye musalmano! tum jahan kahin ho apna moonh isi ki taraf karo ke logon ko tum par koi hujjat na rahe magar jo in mein na insafi karein to un se na daro aur mujh se daro aur ye

isliye hai ke main apni nemat tum par poori karoon aur
kisi tarah tum hidayat paao (150)

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمُ الْآيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۝

jaise hum ne bheja tum mein ek rasool tum mein se ke
tum par humari aayatein tilawat farmata hai aur
tumhein paak karta aur kitab aur pukhta ilm sikhata
hai aur tumhein wo taleem farmata hai jis ka tumhein
ilm na tha (151)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝

to meri yaad karo main tumhara charcha karunga aur
mera haq maano aur meri na shukri na karo (152)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

aye imaan waalo sabr aur namaz se madad chaho
beshak allah sabiro ke saath hai (153)

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۝

aur jo khuda ki raah mein maare jaayein unhein murda
na kaho balki wo zinda hain tumhein khabar nahin
(154)

وَلَنَبْؤُنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ

الشَّمَاتِ ۖ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝

aur zaroor hum tumhein aazmayenge kuchh dar aur
bhook se aur kuchh maalo aur jaano aur phalo ki kami
se aur khushkhabri suna in sabr waalo ko (155)

الَّذِينَ إِذَا أَصَابْتَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿٥٦﴾

ke jab in par koi musibat pade to kahein hum allah ke maal hain aur hum ko usi ki taraf phirna (156)

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿٥٧﴾

ye log hain jin par un ke rab ki duroodein hain aur rahmat aur yahi log raah par hain (157)

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۖ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

beshak safa aur marwa allah ke nishano se hain to jo is ghar ka hajj ya umra kare us par kuchh gunah nahin ke in dono ke phere kare aur jo koi bhali baat apni taraf se kare to allah neki ka sila dene waala khabardar hai (158)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي

الْكِتَابِ ۚ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعُونَ ﴿٥٩﴾

wo jo humari utari hui raushan baato aur hidayat ko chhupate hain baad iske ke logon ke liye hum use kitab mein waazeh farma chuke un par allah ki lanat hai aur lanat karne waalo ki lanat (159)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنَا التَّوَّابُ

الرَّحِيمُ ﴿٦٠﴾

magar wo jo tauba karein aur sanwarein aur zaahir kar dein to main un ki tauba qabool farmaunga aur main hi bada tauba qabool karne waala meharbaan (160)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾

beshak wo jinhone kufri kiya aur kafir hi mare un par lanat hai allah aur firishto aur aadmiyo sab ki (161)

خُلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾

humesha rahenge us mein na un par se azaab halka ho aur na unhein mohlat di jaaye (162)

وَالهُكْمُ لِلَّهِ وَالْإِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

aur tumhara mabood ek mabood hai us ke siwa koi mabood nahin magar wahi badi rahmat waala meharban (163)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

beshak aasmano aur zameen ki paidaish aur raat wa dil ka badalte aana aur kashti ke darya mein logon ke faide le kar chalti hai aur wo jo allah ne aasman se paani utar kar murda zameen ko us se jila diya aur zameen mein har qism ke janwar phailaye aur hawao ki gardish aur wo badal ke aasman wa zameen ke beech mein hukm ka baandha hai un sab mein aqlmando ke liye zaroor nishaniya hain (164)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ

أَمِنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ ۖ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا ۖ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾

aur kuchh log allah ke siwa aur mabood bana lete hain ke unhein allah ki tarah mahboob rakhte hain aur imaan waalo ko allah ke barabar kisi ki muhabbat nahin aur kaisi ho agar dekhein zalim wo waqt jab ke azaab un ki aankho ke samne aayega is liye ke saara zor khuda ko hai aur is liye ke allah ka azaab bahut sakht hai (165)

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾

jab bezaar honge peshwa apne pairuon se aur dekhenge azaab kat jaayengi un ki sab dorein (166)

وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُمْ لَسَخَّطْنَا لَهُمْ أَمْوَالَنَا وَهَدَمْنَا
بِهِمُ الْمَدِينَةَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنْهُمُ اتَّبَعُوا مِنْهُم مَّطَرًا ۚ وَكَذَلِكَ
يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُمْ بِخُرْجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾

aur kahenge pairu kaash humein laut kar jaana hota (dunya mein) to hum unse tod dete jaise unhone hum se tod di yun hi allah unhein dikhayega un ke kaam un par hasratein ho kar aur wo dozakh se nikalne waale nahin (167)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّهُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبَاتٍ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

aye logon khao jo kuchh zameen mein halaal pakeeza hai aur shaitan ke qadam par qadam na rakho, beshak

wo tumhara khula dushman hai (168)

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾

wo tumhein yahi hukm dega badi aur behayai ka aur ye ke allah par wo baat jodo jis ki tumhein khabar nahin (169)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

aur jab unse kaha jaaye allah ke uttare par chalo to kahein balki hum to us par challenge jis par apne baap dada ko paaya agarche un ke baap dada na kuchh aql rakhte ho'n na hidayat (170)

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۗ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

aur kafiro ki kahawat uski si hai jo pukare aise ko ke khali cheekh pukaar ke siwa kuchh na sune, behre gunge andhe to unhein samajh nahin (171)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

aye imaan waalo khao humari di hui suthri cheezin aur allah ka ehsaan maano agar tum usi ko poojte ho (172)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمِنَ الْأَضْطَرِّ غَيْرِ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

us ne yahi tum par haraam kiye hain murdaar aur khoon aur suwar ka gosht aur wo janwar jo ghaire khuda ka naam le kar zibah kiya gaya to jo nachaar ho na yun ke khwahish se khaye aur na yun ke zaroorat se aage badhe to us par gunah nahin beshak allah bakhshne waala meharban hai (173)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

wo jo chhupate hain allah ki utari kitab aur uske badle zaleel qeemat le lete hain wo apne pet mein aag hi bharte hain aur allah qiyamat ke din unse baat na karega aur na unhein suthra kare aur unke liye dardnak azaab hai (174)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿٥٧﴾

wo log hain jinhone hidayat ke badle gumrahi mol li aur bakhshish ke badle azaab, to kis darja unhein aag ki suhaar hai (175)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اٰخْتَلَفُوْا فِي الْكِتٰبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿٥٨﴾

ye isliye ke allah ne kitab haq ke saath utari aur beshak jo log kitab mein ikhtelaf daalne lage wo zaroor parle sire ke jhagdalu hain (176)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانَ ۖ وَالصَّالِحِينَ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

kuchh asal neki ye nahin ke moonh mashriq ya maghrib ki taraf karo haan asal neki ye ke imaan laaye allah aur qiyamat aur firishto aur kitab aur paighambark par aur allah ki muhabbat mein apna azeez maal de rishta daaro aur yateemo aur miskeeno aur raahgeer aur saailo ko aur gardanein chhudwane mein aur namaz qaaim rakhe aur zakaat de aur apna gaul poora karne waale jab ahad karein aur sabr waale museebat aur sakhti mein aur jihad ke waqt yahi hain jinhone apni baat sachhi ki aur yahi parhezgar hain
 (177)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ أَلْحُرُّ بِأَلْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ
 إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

aye imaan waalo! tum par farz hai ke jo nahaq maare jaayein un ke khoon ka badla lo aazad ke badle aazad aur ghulam ke badle ghulam aur aurat ke badle aurat

to jis ke liye us ke bhai ki taraf se kuchh muaafi hui to bhalai se taqaza ho aur achhi tarah ada ye tumhare rab ki taraf se tumhara bojh halka karna hai aur tum par rahmat to us ke baad jo zyadati kare us ke liye dardnaak azaab hai (178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٨﴾

aur khoon ka badla lene mein tumhari zindagi hai aye aqlmando ke tum kahin bacho (179)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ

الْأَقْرَبِينَ بِمَا عَرَفْتُمْ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

tum par farz hua ke jab tum mein kisi ko maut aaye agar kuchh maal chhode to wasiyat kar jaaye apne maa baap aur qareeb ke rishtedaro ke liye mawafiq dastoor ye wajib hai parhezgaro par (180)

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

to jo wasiyat ko sun suna kar badal de us ka gunah unhein badalne waalo par hai beshak allah sunta jaanta hai (181)

فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

phir jise andesha hua ke wasiyat karne waale ne kuchh be insafi ya gunah kiya to usne un mein sulah kara di is par kuchh gunah nahin beshak allah bakhshne waala

meharbaan hai (182)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٢﴾

aye imaan waalo tum par roze farz kiye gaye jaise aglo
par farz hue the ke kahin tumhein parhezgari mile

(183)

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٣﴾

ginti ke din hain to tum mein jo koi beemar ya safar
mein ho to itne roze aur dino mein aur jinhein is ki
taaqat na ho wo badla dein ek miskeen ka khana phir
jo apni taraf se neki zyada kare to wo uske liye behtar
hai aur roza rakhna tumhare liye zyada bhala hai agar
tum jaano (184)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
الْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۗ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٤﴾

ramazan ka mahina jis mein quran utra logon ke liye
hidayat aur rahnumai aur faisla ki raushan baatein to
tum mein jo koi ye mahina paaye zaroor iske roze
rakhe aur jo beemar ya safar mein ho to itne roze aur
dino mein, allah tum par aasani chahta hai aur tum par

dushwari nahin chahta aur isliye ke tum ginti पूरी karo aur allah ki badai bolo is par ke unse tumhein hidayat ki aur kahin tum haq guzaar ho (185)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٥﴾

aur aye mahboob jab tum se mere bande mujhe puchhein to main nazdeek hoon dua qabool karta hoon pukarne waale ki jab mujhe pukare to unhein chahiye mera hukm maanein aur mujh par imaan laayein ke kahin raah paayein (186)

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ
فَالَّذِينَ بَشِرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ
الْحَبِطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَبِطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ ۗ وَ
لَا تَبَاشِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٦﴾

rozo ki raato mein apni aurato ke paas jaana tumhare liye halaal hua wo tumhari libaas hain aur tum un ke libaas, allah ne jaana ke tum apni jaano ko khayanat mein daalte the to usne tumhari tauba qabool ki aur tumhein muaaf farmaya to ab unse sohbat karo aur talab karo jo allah ne tumhare naseeb mein likha hua aur khao aur piyo yahan tak ke tumhare liye zaahir ho jaaye safedi ka dora siyahi ke dore se pophat kar phir

raat aane tak roze poore karo aur aurato ko haath na lagao jab tum masjidon mein etikaf se ho ye allah ki hadein hain unke paas na jao allah yun hi bayaan karta hai apni aayatein ke kahin unhein parhezgari mile (187)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

aur aapas mein ek dusre ka maal na haq na khao aur na hakimo ke paas un ka muqaddima pahunchao ke logon ka kuchh maal najaiz taur par kha lo jaan bujh kar (188)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْآيَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

tum se naye chand ko puchhte hain tum farma do waqt ki alamatein hain logon aur hajj ke liye aur kuchh bhalai nahin ke gharo mein pachhet tod kar aao haan bhalai to parhezgari hai, aur gharo mein darwazo se aak aur allah se darte raho is ummeed par ke falaah paao (189)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

aur allah ki raah mein lado un se jo tum se ladte hain aur had se na badho allah pasand nahin rakhta hadd

se badhne waalo ko (190)

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ
مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تَقْتُلُواهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِنْ
قُتِلُوا كُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩٠﴾

aur kafiro ko jahan paaoo maaro aur unhein nikaal do
jahan se unhone tumhein nikala tha aur un ka fasaad
to qatl se bhi sakht hai aur masjid-e haraam ke paas un
se na lado jab tak wo tum se wahan ma ladein aur agar
tum se ladein to unhein qatl karo kafiro ki yahi saza hai

(191)

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩١﴾

phir agar wo baaz rahein to beshak allah bakhshne
waala meharbaan hai (192)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا
عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٢﴾

aur un se lado yahan tak ke koi fitna na rahe aur ek
allah ki puja ho phir agar wo baaz aayein to zyadati
nahin magar zalimo par (193)

الشَّهْرَ الْحَرَامِ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٣﴾

maahe haraam ke badle maahe haraam aur adab ke
badla adab hai jo tum par zyadati kare us par zyadati

karo itni hi jitni usne ki aur allah se darte raho aur jaan rakho ke allah dar waalo ke saath hai (194)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٥﴾

aur allah ki raah mein kharch karo aur apne haatho halakat mein na pado aur bhalai waale ho jaao beshak bhalai waale allah ke mahboob hain (195)

وَأْتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٦﴾

aur hajj aur umra allah ke liye poora karo phir agar tum roke jaao to qurbani bhejo jo muyassar aaye aur apne sar na mundao jab tak qurbani apne thikana na pahunch jaaye phir jo tum mein beemar ho ya us ke sar mein kuchh takleef hai to badla de roze ya khairat ya qurbani phir jab tum itmenan se ho to jo hajj se umra milane ka faida uthaye us par qurbani hai jaisi muyassar aaye phir jise maqdoor na ho to teen roze hajj ke dino mein rakhe aur saat jab apne ghar palat kar jaao ye poore dus hue ye hukm us ke liye hai jo makka ka rehne waala na ho aur allah se darte raho

aur jaan rakho ke allah ka azaab sakht hai (196)

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ
التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢٤﴾

hajj ke kai mahina hain jaane hue to jo in mein hajj ki niyyat kare to na aurato ke samne sohbat ka tazkira ho na koi gunah, na kisi se jhagda hajj ke waqt tak aur tum bhalai karo allah use jaanta hai aur tosha saath lo ke sab se behtar tosha parhezgari hai aur mujhse darte raho aye aql waalo (197)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَيْتُمْ ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿٢٥﴾

tum par kuchh gunaah nahin ke apne rab ka fazl talash karo to jab arafat se palto to allah ki yaad karo mas'are haraam ke paas aur is ka zikr karo jaise us ne tumhein hidayat farmai aur beshak tum isse pehle behke hue the (198)

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٦﴾

phir baat ye hai ke aye qureshiyo tum bhi wahin se palto jahan se log palat'te hain aur allah se muaafi maango, beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (199)

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنْ

النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝

phir jab apne hajj ke kaam poore kar chuko to allah ka zikr karo jaise apne baap dada ka zikr karte the balki usse zyada aur koi aadmi yun kehta hai ke aye rab humare humein dunya mein de aur aakhirat mein uska kuchh hissa nahin (200)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ۝

aur koi yun kehta hai ke aye rab humare humein dunya mein bhalai de aur humein aakhirat mein bhalai de aur humein azaabe dozakh se bacha (201)

أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

aiso ko unki kamai se bhaag hai aur allah jald hisab karne waala hai (202)

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ

تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

aur allah ki yaad karo gine hue dino mein to jaldi kar ke do din mein chala jaaye us par kuchh gunah nahin aur jo rah jaaye to us par gunah nahin parhezgar ke liye aur allah se darte raho aur jaan rakho ke tumhein usi ki taraf uthna hai (203)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۗ

هُوَ الَّذِي الْخَصَّامُ ۝

aur baaz aadmi wo hai ke dunya ki zindagi mein uski

baat tujhe bhali lage aur apne dil ki baat par allah ko gawaah laaye aur wo sab se bada jhagdalua hai (204)

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝

aur jab peeth phere to zameen mein fasaad daalta phire aur kheti aur jaanein tabaah kare aur allah fasaad se raazi nahin (205)

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ لَهُ جَهَنَّمُ ۗ وَكَبُرَ سَبْحُ الْعِبَادِ ۝

aur jab us se kaha jaaye ke allah se dar to use aur zidd chadhe gunah ki aise ko dozakh kaafi hai aur wo zaroor bahut bura bichhona hai (206)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝

aur koi aadmi apni jaan bechta hai allah ki marzi chahne mein aur allah bando par meharban hai (207)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

aye imaan waalo islam mein poore dakhil ho aur shaitan ke qadmo par na chalo beshak wo tumhara khula dushman hai (208)

فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَاغْلَبُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

aur agar is ke baad bhi bachlo ke tumhare paas raushan hukm aa chuke to jaan lo ke allah zabardast hikmat waala hai (209)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْبَلْبَكَةِ وَفُضِي الْأَمْرُ ۗ

إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾

kaahe ke intezar mein hain magar yahi ke allah ka azaab aaye chhaye hue badalo mein aur firishte utrein aur kaam ho chuke aur sab kaamo ki ruju allah hi ki taraf hai (210)

سَلِّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ ۖ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١١﴾

bani israyeel se puchho hum ne kitni raushan nishaniya unhein di aur jo allah ki aai hui nemat ko badal de to beshak allah ka azaab sakht hai (211)

زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

kafiro ki nighah mein dunya ki zindagi aarasta ki gai aur musalmano se hanste hain aur dar waale un se upar honge qiyamat ke din aur khuda jise chahe be ginti de (212)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

log ek deen par the phir allah ne ambiya bheje khushkhabri dete aur dar sunate aur un ke saath

sachhi kitab utari ke wo logon mein un ke ikhtelafo ka faisla kar de aur kitab mein ikhtelaf unhi ne daala jin ko di gai thi baad uske ke un ke paas raushan hukm aa chuke aapas ki sarkashi se to allah ne imaan waalo ko wo haq baat sujha di jis mein jhagad rahe the apne hukm se, aur allah jise chahe seedhi raah dikhaye (213)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ
مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ
مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٣﴾

kya is gumaan mein ho ke jannat mein chale jaoge aur abhi tum par aglo ki si roodaad na aai, pahunchi unhein sakhti aur shiddat aur hila hila daale gaye yahan tak ke keh utha rasool aur uske saath ke imaan waale kab aayegi allah ki madad sun lo beshak allah ki madad qareeb hai (214)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٢١٤﴾

tum se poochhte hain kya kharch karein, tum farmao jo kuchh maal neki mein kharch karo to wo maa baap aur qareeb ke rishtedaro aur yateemo aur mohtajo aur rahgeer ke liye hai aur jo bhalai karo beshak allah use jaanta hai (215)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

tum par farz hua khuda ki raah mein ladna aur wo tumhein nagawar hai aur qareeb hai ke koi baat tumhein buri lage aur wo tumhare haq mein behtar ho aur qareeb hai ke koi baat tumhein pasand aaye aur wo tumhare haq mein buri ho aur allah jaanta hai aur tum nahin jaante (216)

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يَقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا لِي بِهِ مِنْ عَمَلٍ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

tumse puchhte hain maahe haraam mein ladne ka hukm to farmao is mein ladna bada gunah hai aur allah ki raah se rokna aur us par imaan na laana aur masjid haraam se rokna aur iske basne waalo ko nikaal dena allah ke nazdeek ye gunah isse bhi bade hain aur inka fasaad qatl se sakht tar hai aur humesha tum se ladte rahenge yahan tak ke tumhein tumhare deen se pher dein agar ban pade aur tum mein jo koi apne deen se phire phir kafir ho kar mare to un logon ka kiya akaray gaya dunya mein aur aakhirat mein aur wo dozakh waale hain unhein us mein humesha rehna (217)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَتَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢١٨﴾

wo jo imaan laaye aur wo jinhone allah ke liye apne
ghar baar chhode aur allah ki raah mein lade wo
rahmate ilaahi ke ummeedwar hain aur allah
bakhshne waala meharbaan hai (218)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخُبْرِ وَالْبَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا آثَمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ الْعَفْوُ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

tum se sharab aur jue ka hukm puchhte hain tum
farma do ke in dono mein bada gunah hai aur logon ke
kuchh duniyawi nafa bhi aur inka gunah inke nafa se
bada hai aur tum se puchhte hain kya kharch karein
tum farmao jo fasil bache isi tarah allah tumse
aayatein bayaan farmata hai ke kahin tum ghauro fikr
karo (219)

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۗ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۗ وَإِنْ
تُخَالَطُوهُمْ فَآخِزُوا نَفْسَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْتَبْتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

dunya wa akhirat ke kaam soch kar karo aur tum se
yateemo ka mas'ala puchhte hain tum farmao un ka
bhala karna behtar hai aur agar apna un ka kharch
mila lo to wo tumhare bhai hain aur khuda khoob
jaanta hai bigadne waale ko sanwarne waale se aur

allah chahta to tumhein mashaqqat mein daalta,
beshak allah zabardast hikmat waala hai (220)

وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۗ وَلَا مَهْمُهُمُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْجَبْتُمْ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۗ وَاعْبُدْهُم مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبْكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢٠﴾

aur shirk waali aurato se nikah na karo jab tak
musalman na ho jaayein aur beshak musalman laundi
mushrika se achhi agarche wo tumhein bhaati ho aur
mushriko ke nikaah mein na do jab tak wo imaan na
laayein aur beshak musalman ghulam mushrik se
achha agarche wo tumhein bhaata ho, wo dozakh ki
taraf bulate hain aur allah jannat aur bakhshish ki taraf
bulata hai apne hukm se aur apni aayatein logon ke
liye bayaan karta hai ke kahin wo naseehat maanein
(221)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ ۚ فَاغْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢١﴾

aur tum se puchhte hain haiz ka hukm tum farmao wo
napaaki hai to aurato se alag raho haiz ke dino aur un
se nazdeeki na karo jab tak paak na ho lein phir jab
paak ho jaayein to un ke paas jaao jahan se tumhein
allah ne hukm diya beshak allah pasand rakhta hai

bahut tauba karne waalo ko aur pasand rakhta hai
suthro ko (222)

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ مَفَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾

tumhari auratein tumhare liye khetiya hain, to aao apni
kheti mein jis tarah chaho aur apne bhale ka kaam
pehle karo aur allah se darte raho aur jaan rakho ke
tumhein us se milna hai aur aye mahboob basharat do
imaan waalo ko (223)

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَبِيحٌ عَلَيْهِمُ ﴿٣٧﴾

aur allah ko apni qasamo ka nishana na bana lo ke
ehsaan parhezgari aur logon mein sulah ki qasam kar
lo aur allah sunta jaanta hai (224)

لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٨﴾

allah tumhein nahin pakadta un qasamo mein jo be
irada zubaan se nikal jaaye haan is par giraft farmata
hai jo kaam tumhare dil ne kiye aur allah bakhshne
waala hilm waala hai (225)

لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٣٨﴾

wo jo qasam kha baithe apni aurato ke paas jaane ki
unhein chaar mahine ki muhlat hai, pas agar is muddat

mein phir aaye to allah bakhshne waala meharbaan hai (226)

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

aur agar chhod dene ka irada pakka kar liya to allah sunta jaanta hai (227)

وَالْبَطْلَقَةُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

aur talaq waaliya apni jaano ko roke rahein teen haiz tak aur unhein halaal nahin ke chhupayein wo jo allah ne un ke pet mein paida kiya agar allah aur qiyamat par imaan rakhti hain aur un ke shauharo ko is muddat ke andar unke pher lene ka haq pahunchta hai agar milaap chahein aur auraton ka bhi haq aisa hi hai jaisa un par hai shara ke mawafiq aur mardo ko un par fazeelat hai aur allah ghalib hikmat waala hai (228)

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَهُمْ هُنَّ أَيْخَانًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقْبِلَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقْبِلَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٨﴾

ye talaq do baar tak hai phir bhalai ke saath rok lena hai ya nikoi ke saath chhod dena hai aur tumhein rawa

nahin ke jo kuchh aurato ko diya us mein se kuchh wapas lo magar jab dono ko andesha ho ke allah ki hadein qaaim na karenge phir agar tumhein khauf ho ke wo dono theek inhi hado par na rahenge to un par kuchh gunah nahin is mein jo badla de kar aurat chhutti le ye allah ki hadein hain in se aage na badho aur jo allah ki hado se aage badhe to wahi log zaalim hain (229)

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٩﴾

phir agar teesri talaq use di to ab wo aurat use halaal na hogi jab tak dusre khawind ke paas na rahe phir wo dusra agar use talaq de de to un dono par gunah nahin ke phir aapas mein mil jaayein agar samajhte ho ke allah ki hadein banayenge, aur ye allah ki hadein hain jinhein bayaan karta hai danishmando ke liye (230)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تَنْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَلتَّعْتُدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣٠﴾

aur jab tum aurato ko talaq do aur unki miyaad aa lage to us waqt tak ya bhalai ke saath rok lo ya nikoi ke saath chhod do aur unhein zarar dene ke liye rokna na

ho ke hadd se badho aur jo aisa kare wo apna hi nuqsan karta hai aur allah ki aayato ko thatta na bana lo aur yaad karo allah ka ehsan jo tum par hai aur wo jo tum par kitabo hikmat utaari tumhein naseehat dene ko aur allah se darte raho aur jaan rakho ke allah sab kuchh jaanta hai (231)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْوَاجُكُمْ لِكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣١﴾

aur jab tum aurato ko talaq do aur unki miyaad पूरी ho jaaye to aye aurato ke waaliyo unhein na roko isse ke apne shauharo se nikah kar lein jab ke aapas mein mawafiqe shara razamand ho jaayein ye naseehat use di jaati hai jo tum mein se allah aur qiyamat par imaan rakhta ho ye tumhare liye zyada suthra aur pakeeza hai aur allah jaanta hai aur tum nahin jaante (232)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٢﴾

aur maayein doodh pilayein apne bachho ko poore do baras uske liye jo doodh ki muddat पूरी karni chahe

aur jis ka bachha hai us par aurato ka khana pehanna hai hasbe dastoor kisi jaan par bojh na rakha jayega magar uske maqdoor bhar maa ko zarar na diya jaaye uske bachhe se aur na awlaad waale ko uski awlaad se ya maa zarar na de apne bachha ko aur na awlaad waala apni awlaad ko aur jo baap ka qaaim maqaam hai us par bhi aisa hi wajib hai phir agar maa baap dono aapas ki raza aur mashware se doodh chhudana chahein to un par gunah nahin aur agar tum chaho ke daaiyo se apne bachho ko doodh pilwao to bhi tum par muzaiqa nahin jab ke jo dena thehra tha bhalai ke saath unhein ada kar do, aur allah se darte raho aur jaan rakho ke allah tumhare kaam dekh raha hai (233)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٣﴾

aur tum mein jo marein aur bibiya chbodein wo chaar mahine dus din apne aap ko roke rahein to jab un ki iddat poori ho jaaye to aye waaliyo tum par mawakhiza nahin us kaam mein jo auratein apne muamle mein mawafiqe shara karein aur allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (234)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوَعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

aur tum par gunaah nahin is baat mein jo parda rakh kar tum aurato ke nikah ka payaam do ya apne dil mein chhupa rakho allah jaanta hai ke ab tum un ki yaad karoge haan un se khufya waada na rakho magar ye ke itni hi baat kaho jo shara mein maroof hai aur nikah ki girah pakki na karo jab tak likha hua hukm apni miyaad ko na pahunch le aur jaan lo ke allah tumhare dil ki jaanta hai to us se daro aur jaan lo ke allah bakhshne waala hilm waala hai (235)

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَ
مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسَعَّرِ قَدَرَهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

tum par kuchh mutalba nahin agar tum aurato ko talaq do jab tak tum ne un ko haath na lagaya ho ya koi mehar muqarrar kar liya ho aur un ko kuchh baratne ko do maqdoor waale par uske laaiq aur tangdast par uske laaiq hasbe dastoor kuchh baratne ki cheez ye wajib hai bhalai waalo par (236)

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَرَضْتُمْ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بَيْنَهُ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى ۗ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

aur agar tum ne aurato ko be chhue talaq de di aur unke liye kuchh mehar muqarrar kar chuke the to jitna

thehra tha uska aadha wajib hai magar ye ke auratein kuchh chhod dein ya wo zyada de jis ke haath mein nikah ki girah hai aur aye mardo tumhara zyada dena parhezgari se nazdeek tar hai aur aapas mein ek dusre par ehsan ko bhula na do beshak allah tumhare kaam dekh raha hai (237)

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ ۖ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَنِينًا ﴿٢٣٧﴾

nigehbani karo sab namazo aur beech ki namaz ki aur khade ho allah ke huzoor adab se (238)

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدِّكُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

phir agar khauf mein ho to pyada ya sawaar jaise ban pade phir jab itmenan se ho to allah ki yaad karo jaisa usne sikhaya jo tum na jaante the (239)

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ۖ وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

aur jo tum mein marein aur bibiya chhod jaayein wo apni aurato ke liye wasiyat kar jaayein saal bhar tak naan wa nafqa dene ki be nikale phir agar wo khud nikal jaayein to tum par is ka mawakhiza nahin jo unhone apne muamla mein munasib taur par kiya aur allah ghalib hikmat waala hai (240)

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

aur talaq waaliyo ke liye bhi munasib taur par naan wa nafqa hai, ye wajib hai parhezgaro par (241)

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣٧﴾

allah yun hi bayaan karta hai tumhare liye apni aayatein ke kahin tumhein samajh ho (242)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾

aye mahboob kya tum ne na dekha tha unhein jo apne gharo se nikle aur wo hazaro the maut ke dar se to allah ne unse farmaya mar jao phir unhein zinda farma diya, beshak allah logon par fazl karne waala hai magar aksar log nashukre hain (243)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

aur lado allah ki raah mein jaan lo ke allah sunta jaanta hai (244)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾

hai koi jo allah ko qarze hasan de to allah ke liye bahut guna badha de aur allah tangi aur kashaish karta hai aur tumhein usi ki taraf phir jaana (245)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِكِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذِ قَالَ لِلنَّبِيِّ لَهُمْ ائْتِنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا

تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَ
أَبْنَائِنَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٣٦﴾

aye mahboob kya tum ne na dekha bani israyeel ke ek giroh ko jo moosa ke baad hua jab apne ek paighambar se bole humare liye khada kar do ek badshah ke hum khuda ki raah mein ladein, nabi ne farmaya kya tumhare andaz aise hain ke tum par jihad farz kiya jaaye to phir na karo bole humein kya hua ke hum allah ki raah mein na ladein halanki hum nikale gaye hain apne watan aur apni awlaad se to phir jab un par jihad farz kiya gaya moonh pher gaye magar un mein ke thode aur allah khoob jaanta hai zalimo ko
(246)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٧﴾

aur un se un ke nabi ne farmaya beshak allah ne taalut ko tumhara badshah bana kar bheja hai bole use hum par badshahi kyunkar hogi aur hum us se zyada saltanat ke mustahiq hain aur use maal mein bhi wus'at nahin di gai farmaya use allah ne tum par chun liya aur use ilm aur jism mein kushadgi zyada di aur

allah apna mulk jise chahe de aur allah wus'at ilm
waala hai (247)

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَ
بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٧﴾

aur un se un ke nabi ne farmaya is ki badshahi ki
nishani ye hai ke aaye tumhare paas taboot jis mein
tumhare rab ki taraf se dilo ka chain hai aur kuchh
bachi hui cheezein muazzaz moosa aur muazzaz
haroon ke tarka ki uthate layenge use firishte, beshak
is mein badi nishani hai tumhare liye agar imaan
rakhte ho (248)

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ ۖ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ ۖ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ
فَلَيْسَ مِنِّي ۖ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۖ فَشَرِبُوا
مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا
الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلِقُوا اللَّهَ ۖ كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ
قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَهُ كَثِيرَةً يَأْذِنُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٨﴾

fir jab taloot lashkaron ko le kar shehar se judaa hua
bola beshak allah tumhen ek nahar se aazmane wala
hai to jo uska pani piye wo mera nahi aur jo na piye wo
mera hai magar wah jo ek chullu apne hath se le le to
sabne uss piya magar thodon ne phir jab taloot aur
uske sath ke musalman nahar ke paar gaye bole hun
me aaj taqat nahi jaloot aur uske lashkaron ki bole wo

jinhen allah se milne ka yaqeen tha ke baaraha kam jama'at ghalib aayi hai zyada giroh par allah ke hukm se aur allah sabiron ke sath hai (249)

وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَخْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَ
انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٠﴾

fir jab saamne aaye jaloot aur uske lashkaron ke, arz ki ay rabb hamare hum par sabr undel de aur hamare paanw jame rakh kafir logon par hamari madad kar(250)

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ
مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمُ بَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ
ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾

to unhone unko bhagaa diya allah ke hukm se aur qatl kiya dawood ne jaloot ko aur allah ne use saltanat aur hikmat aur use jo chaha sikhaya aur agar allah logon me baaz se baaz ko daf'a na kare to zaroor zameen tabaah ho jaye magar allah sare jahaan par fazl karne wala hai (251)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾

ye allah ki aayatein hain ki hum aye mehboob tum par theek theek padhte hain aur tum beshak rasoolon me ho (252)

Teesra Paarah

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ
اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا
فَإِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ۗ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
مَا يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾

ye rasool hain ke hum ne in mein ek ko dusre par afzal kiya in mein kisi se allah ne kalaam farmaya aur koi wo hai jise sab par darjo buland kiya aur hum ne maryam ke bete eisa ko khuli nishaniya di aur pakiza rooh se uski madad ki aur allah chahta to un ke baad waale apas mein na ladte baad iske ke un ke paas khuli nishaniya aa chuki lekin wo to mukhtalif ho gaye un mein koi imaan par raha aur koi kafir ho gaya aur allah chahta to wo na ladte magar allah jo chahe kare (253)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا
خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

aye imaan waalo allah ki raah mein humare diye mein se kharch karo wo din aane se pehle jis mein na khareed farokht hai, na kafiro ke liye dosti, na shafa'at aur kafir khud hi zalim hain (254)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا

فِي الْأَرْضِ طَمَنَ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا يَأْذَنُ بِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ ؕ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ؕ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْ
الْأَرْضَ ؕ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ؕ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

allah hai jis ke siwa koi mabood nahin wo aap zinda aur auron ka qaaim rakhne waala use na aungh aaye na neend usi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein wo kaun hai jo us ke yahan sifarish kare be uske hukm ke jaanta hai jo kuchh un ke aage hai aur jo kuchh un ke piche aur wo nahin paate uske ilm mein se magar jitna wo chahe, uski kursi mein samaye hue hain aasman aur zameen aur use bhari nahin unki nighbani aur wahi hai bulandi badai waala (255)

لَا كِرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۚ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

kuchh zabardasti nahin deen mein beshak khoob juda ho gai hai nek raah gumrahi se to jo shaitan ko na maane aur allah par imaan laaye usne badi muhkam girah thaami jise kabhi khulna nahin aur allah sunta jaanta hainIn(256)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أُولَئِكَ لَهُمُ الطَّاغُوتُ ۚ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

allah waali hai musalmano ka unhein andheriyo se

noor ki taraf nikalta hai aur kafiro ke himayati shaitan hain wo unhein noor se andheriyo ki taraf nikaalte hain yahi log dozakh waale hain unhein humesha us mein rehna (257)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّي
الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ
مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٥٧﴾

aye mahboob kya tum ne na dekha tha use jo ibrahim se jhagda uske rab ke baare mein is par ke allah ne use badshahi di jabki ibrahim ne kaha ke mera rab wo hai ke jilata aur maarta hai bola main jilata aur maarta hoon ibrahim ne farmaya to allah suraj ko laata hai purab se to us ko pachhim se le aa to hosh ud gaye kafir ke aur allah raah nahin dikhata zalimo ko (258)

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ۚ قَالَ أَنَّى يُغِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ
مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۖ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ۖ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۗ وَ
انظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ
نَكْسُوهَا لحمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۖ قَالَ أَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٨﴾

ya uski tarah jo guzra ek basti par aur wo dhai padi thi apni chhato par, bola use kyunkar jilayega allah uski maut ke baad to allah ne use murda rakha sau baras

phir zinda kar diya, farmaya tu yahan kitna thehra arz ki din bhar thehra honga ya kuchh kam, farmaya nahin balki tujhe sau baras guzar gaye aur apne khane aur paani ko dekh ke ab tak boo na laaya aur apne gadhe ko dekh (ke jis ki haddiya tak salammat na rahi) aur ye isliye ke tujhe hum logon ke wasite nishani karein aur in haddiyo ko dekh kyunkar hum inhein uthaan dete phir inhein gosht pehnate hain jab ye muamla us par zaahir ho gaya bola khoob jaanta hoon ke allah sab kuchh kar sakta hai (259)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٥٩﴾

aur jab arz ki ibrahim ne aye rab mere mujhe dikha de tu kyunkar murde ko jilayega, farmaya kya tujhe yaqeen nahin, arz ki yaqeen kyun nahin magar ye chahta hoon ke mere dil ko qaraar aa jaaye farmaya achha chaar parinde le kar apne saath hila le phir un ka ek ek tukda har pahaad par rakh de phir unhein bula wo tere paas chale aayenge paaon se daudte aur jaan rakh ke allah ghalib hikmat waala hai (260)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

un ki kahawat jo apne maal allah ki raah mein kharch karte hain us daana ki tarah jis ne ugaai saat baalein

har baal mein sau daane aur allah usse bhi zyada badhaye jis ke liye chahe aur allah wus'at waala ilm waala hai (261)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦١﴾

wo jo apne maal allah ki raah mein kharch karte hain phir diye pichhe na ehsaan rakhein na takleef dein unka neg unke rab ke paas hai aur unhein na kuchh andesha ho na kuchh gham (262)

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا أَذًى ۖ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

achhi baat kehna aur dar guzar karna us khairat se behtar hai jiske baad satana ho aur allah be parwah hilm waala hai (263)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۖ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَرَّكَهُ صِلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

aye imaan waalo apne sadqe batil na ka do ehshan rakh kar aur iza de kar us ki tarah jo apna maal logon ke dikhawe ke liye kharch kare aur allah aur qiyamat par imaan na laaye, to us ki kahawat aisi hai jaise ek chattan ke us par mitti hai ab us par zor ka paani pada jis ne use nira patthar kar chhoda apni kamai se kisi cheez par qaabu na payenge aur allah kafiro ko raah

nahin deta (264)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۗ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۗ^ط
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٤﴾

aur un ki kahawat jo apne maal allah ki raza chahne mein kharch karte hain aur apne maal dil jamane ko us baagh ki si hai jo bhod par ho us par zor ka paani pada to doone mewe laaya phir agar zor ka meenh use na pahunche to oas kaafi hai aur allah tumhare kaam dekh raha hai (265)

أَيُّوُدٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن تَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ ۗ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ
فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٥﴾

kya tum mein koi ise pasand rakhega ke uske paas ek baagh ho khajooro aur angooro ka jis ke niche nadiya behti uske liye us mein har qism ke phalo se hai aur use budhapa aaya aur uske natawa bachhe hain to aaya us par ek bagola jis mein aag thi to jal gaya aisa hi bayaan karta hai allah tum se apni aayatein ke kahin tum dhyaan lagao (266)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَسَّبُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْرِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٦﴾

aye imaan waalo apni paak kamaiyo mein se kuchh do aur us mein se jo humne tumhare liye zameen se nikala aur khaas naqis ka irada na karo ke do to us mein se aur tumhein mile to na loge jab tak us mein chashm poshi na karo aur jaan rakho ke allah be parwah saraha gaya hai (267)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَ
فَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٧﴾

shaitan tumhein andesha dilata hai muhtaji ka aur hukm deta hai be hayai ka aur allah tum se waada farmata hai bakhshish aur fazl ka aur allah wus'at waala ilm waala hai (268)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ
إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

allah hikmat deta hai jise chahe aur jise hikmat mili use bahut bhalai mili aur naseehat nahin maante magar aql waale (269)

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذْرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِّنْ
أَنْصَارٍ ﴿٢٧٠﴾

aur tum kharch karo ya mannat maano allah ko uski khabar hai aur zalimo ka koi madadgaar nahin (270)

إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

agar khairat alaniya do to wo kya hi achhi baat hai aur

agar chhupa kar faqero ko do ye tumhare liye sab se behtar hai aur is mein tumhare kuchh gunah ghatenge aur allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (271)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ﴿٢٧١﴾

unhein raah dena tumhare zimma laazim nahin haan allah raah deta hai jise chahta hai aur tum jo achhi cheez do tumhara hi bhala hai aur tumhein kharch karna munasib nahin magar allah ki marzi chahne ke liye aur jo maal do tumhein poora milega aur nuqsan na diye jaoge (272)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْلِهِمْ ۚ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْحَافَا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٢﴾

aur faqero ke liye jo raah khuda mein roke gaye zameen mein chal nahin sakte nadaan unhein tawangar samjhe bachne ke sabab to unhein un ki soorat se pehchan lega logon se sawal nahin karte ke gidgidana pade aur tum jo khairat karo allah use jaanta hai (273)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٣﴾

wo jo apne maal khairat karte hain raat mein aur din

mein chhupe aur zaahir unke unka neg hai unke rab ke paas unko na kuchh andesha ho na kuchh gham (274)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
السِّسِّ تُذَلِّكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَائِعُونَ مِثْلَ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ طَمَنَ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ ۗ طَوْمَنَ
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٤﴾

wo jo sood khate hain qiyamat ke din na khade honge magar jaise khada hota hai wo jise aaseb ne chhu kar makhboot bana diya ho ye isliye ke unhone kaha bay bhi to sood hi ke manind hai aur allah ne halaal kiya bay aur haraam kiya sood to jise uske rab ke paas se naseehat aai aur wo baaz raha to use halaal hai jo pehle le chuka aur uska kaam khuda ke sipurd hai aur jo ab aisi harkat karega to wo dozakhi hai wo us mein muddato rahenge (275)

يَبْحَثُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٥﴾

allah halaak karta hai sood ko aur badhata hai khairat ko aur allah ko pasand nahin aata koi nashukra bada gunahgar (276)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٦﴾

beshak wo jo imaan laaye aur achhe kaam kiye aur namaz qaaim ki aur zakaat di unka neg unke rab ke paas hai aur na unhein kuchh andesha ho na kuchh

gham (277)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٧﴾

aye imaan waalo allah se daro aur chhod do baaqi rah gaya sood agar musalman ho (278)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِکُمْ ۗ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

phir agar aisa na karo to yaqeen kar lo allah aur allah ke rasool se ladai ka aur agar tum tauba kar lo to apna asl maal le lo na tum kisi ko nuqsan pahunchao na tumhein nuqsan ho (279)

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

aur agar qarzdar tangi waala hai to use mohlat do aasani tak aur qarz us par bilkul chhod dena tumhare liye aur bhala hai agar jaano (280)

وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

aur daro us din se jis mein allah ki taraf phiroge aur har jaan ko uski kamai पूरी भर di jayegi aur un par zulm na hoga (281)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِي فَاكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ

الْحَقُّ سَفِيهَاً أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ هُوَ فَلْيُبَيِّنْ وَلِيَّهِ بِالْعَدْلِ ۖ وَ
 اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ
 مِنْ تَرَضُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا
 يَأْبَ الشَّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۖ
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۖ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٠﴾

aye imaan waalo jab tum ek muqarrar muddat tak kisi deen ka len den karo to use likh lo aur chahiye ke tumhare darmiyan koi likhne waala theek theek likhe aur likhne waala likhne se inkaar na kare jaisa ke use allah ne sikhaya hai to use likh dena chahiye aur jis par haq aata hai wo likhata jaaye aur allah se dare jo us ka rab hai aur haq mein se kuchh rakh na chhode phir jis par haq aata hai agar be aql ya natawa ho ya likha na sake to us ka wali insaf se likhaye, aur do gawah kar lo apne mardo mein se phir agar do mard na ho to ek mard aur do auratein aise gawah jin ko pasand karo ke kahin un mein ek aurat bhoole to us ek ko dusri yaad dilawe aur gawah jab bulaye jaayein to aane se inkaar na karein aur ise bhaari na jaano ke dain chhota ho ya bada uski miyaad tak likhat kar lo ye allah ke nazdeek zyada insaf ki baat hai aur is mein gawahi khoob theek

rahegi aur ye is se qareen hai ke tumhein shubha na pade magar ye ke koi sare dast ka sauda dast badast ho to uske na likhne ka tum par gunah nahin aur jab khareedo farokht karo to gawah kar lo aur na kisi likhne waale ko zarar diya jaaye, na gawah ko (ya, na likhne waala zarar de na gawah) aur jo aisa karo to ye tumhara fisq hoga aur allah se daro aur allah tumhein sikhata hai, aur allah sab kuchh jaanta hai (282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

aur agar tum safar mein ho aur likhne waala na pao to giraw ho qabza mein diya hua aur agar tum mein ek ko dusre par itmenan ho to wo jise us ne ameen samjha tha apni amanat ada kare aur allah se dare jo us ka rab hai aur gawahi na chhupao aur jo gawahi chhupayega to andar se us ka dil gunahgar hai aur allah tumhare kaamo ko jaanta hai (283)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَآفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْکُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٣﴾

allah hi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein hai aur agar tum zaahir karo jo kuchh tumhare jee mein hai ya chhupao allah tum se us ka hisab lega to jise chahe bakhshega aur jise chahega

saza dega aur allah har cheez par qadir hai (284)

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلِكِهِ وَ
 كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ
 غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٤﴾

rasool imaan laaya us par jo us ke rab ke paas se us par utra aur imaan waale, sab ne maana allah aur uske firishto aur uski kitabo aur uske rasoolo ko ye kehte hue ke hum uske kisi rasool par imaan laane mein farq nahin karte aur arz ki ke hum ne suna aur maana teri muaafi ho aye rab humare aur teri hi taraf phirna hai (285)

لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
 تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَ
 ارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٥﴾

allah kisi jaan par boj naahin daalta magar uski taaqat bhar uska faida hai jo achha kamaya aur uska nuqsan hai jo burai kamai aye rab humare humein na pakad agar hum bhoolein ya chookein aye rab humare aur hum par bhaari boj na rakh jaisa tu ne humse aglo par rakha tha aye rab humare aur hum par wo boj na daal jiski humein sahaar na ho aur humein muaaf farma de aur bakhsh de aur hum par muhar kar tu humara maula hai to kafiro par humein madad de (286)

Surah Aale Imran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

اَلَمْ

alif laam meem (1)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

allah hai jis ke siwa kisi ki pooja nahin aap zinda auro
ka qaaim rakhne waala (2)

us ne tum par ye sachhi kitab utari agli kitabo ki
tasdeeq farmati aur usne isse pehle taurait aur injeel
utaari (3)

مَنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

logon ko raah dikhati aur faisla utara beshak wo jo
allah ki aayato se munkar hue unke liye sakht azaab
hai aur allah ghalib badla dene waala hai (4)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۗ

allah par kuchh chhupa nahin zameen mein na
aasman mein (5)

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

wahi hai ke tumhari tasweer banata hai maaon ke pet
mein jaisi chahe uske siwa kisi ki ibadat nahin izzat

waala hikmat waala (6)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ
مُتَشَبِهَاتٌ طَفَّامًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ رِيعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ۗ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

wahi hai jisne tum par ye kitab utari uski kuchh
aayatein saaf maana rakhti hain wo kitab ki asl hain
aur dusri wo hain jin ke maana mein ishtebah hai wo
jin ke dilo mein kuji hai wo ishtebah waali ke pichhe
padte hain gumrahi chahne aur us ka pahlu dhundne
ko aur uska theek pahlu allah ho ki maloom hai aur
pukhta ilm waale kehte hain hum us par imaan laaye
sab humare rab ke paas hai aur naseehat nahin
manate magar aql waale (7)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ۝

aye rab humare dil tedhe na kar baad iske ke tune
humein hidayat di aur humein apne paas se rahmat
ata kar beshak tu hai bada dene waala (8)

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَلَّيْبٍ فِيهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ ۝

aye rab humare beshak tu sab logon ko jama karne
waala hai us din ke liye jis mein koi shubha nahin
beshak allah ka waada nahin badalta (9)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ وَ

أَوْلِيَاكَ هُمْ وَقَوْمُ النَّارِ ۝

beshak wo jo kafir hue unke maal aur unki awlaad
allah se unhein kuchh na bacha sakege aur wahi
dozakh ke indhan hain (10)

كُذِّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

jaise firaun waalo aur unse aglo ka tariqa, unhone
humari aayatein jhutlai to allah ne un ke gunaho par
unke pakda aur allah ka azaab sakht hai (11)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْرٌ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ وَيَسَّ السُّبْحُ ۝

farma do kafiro se koi dum jaata hai ke tum maghloob
hoge aur dozakh ki taraf haanke jaoge aur wo bahut hi
bura bichhona (12)

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِي الثَّقَاتِ ۖ فَمَثَلُوا بِرَبِّي كَمَا فَعَلُوا
بِرَبِّهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

beshak tumhare liye nishani thi do giroho mein jo
aapas mein bhid pade ek jattha allah ki raah mein
ladta aur dusra kafir ke unhein aankho dekha apne se
doona samjhein aur allah apni madad se zor deta hai
jise chahta hai beshak is mein aqlmando ke liye zaroor
dekh kar seekhna hai (13)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ﴿١٤﴾

logon ke liye aarasta ki gai khwahisho ki muhabbat auratein aur bete aur tale upar sone chandi ke dher aur nishan kiye hue ghode aur chaupaye aur kheti ye jeeti dunya ki punji hai aur allah hai jis ke paas achha thikana (14)

قُلْ أَوْبَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

tum farmao kya main tumhein is se behtar cheez bata doon parhezgaro ke liye unke rab ke paas jannatein hain jin ke niche nehrein rawaan humesha un mein rahenge aur suthri bibiya aur allah ki khushnudi aur allah bando ko dekhta hai (15)

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

wo jo kehte hain aye rab humare hum imaan laaye to humare gunaah muaaf kar aur humein dozakh ke azaab se bacha le (16)

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقُنُوتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَرِ ﴿١٧﴾

sabr waale aur sachhe aur adab waale aur raahe khuda mein kharchne waale aur pichhle pehre muaafi mangne waale (17)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ وَالْمَلِكُ ۗ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

allah ne gawahi di ke uske siwa koi mabood nahin aur firishto ne aur aalimo ne insaf se qaaim ho kar uske siwa kisi ki ibadat nahin izzat waala hikmat waala (18)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٨﴾

beshak allah ke yahan islam hi deen hai aur phoot mein na pade kitabi magar baad iske ke unhein ilm aa chuka apne dilon ki jalan se aur jo allah ki aayato ka munkir ho to beshak allah jald hisab lene waala hai (19)

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةِ ۗ أَسْلَمْتُمْ ۗ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصَيْرُورَتِكُمْ بِالْعِبَادِ ﴿١٩﴾

phir aye mahboob agar wo tum se hujjat karein to farma do main apna moonh allah ke huzoor jhukaye hoon aur jo mere pairu hue aur kitabiyo aur anpadho se farmao kya tum ne gardan rakhi pas agar wo gardan rakhein jab to raah pa gaye aur agar moonh pherein to tum par to yahi hukm pahuncha dena hai aur allah bando ko dekh raha hai (20)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ
يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ ۗ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٠﴾

wo jo allah ki aayato se munkir hote aur paighambaro ko na haq shaheed karte aur insaf ka hukm karne waalo ko qatl karte hain unhein khushkhabri do

dardnak azaab ki (21)

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢١﴾

ye hain wo jin ke aamaal akarat gaye dunya wa aakhirat mein aur inka koi madadgar nahin (22)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكَمَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ يَتَوَلَّوْا فَرِيقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾

kya tum ne unhein na dekha jinhein kitab ka ek hissa mila kitabullah ki taraf bulaye jaate hain ke wo un ka faisla kare phir un mein ka ek giroh isse rugardaan ho kar phir jaata hai (23)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَمْسَنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۗ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا

كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٣﴾

ye jurrat unhein isliye hui ke wo kehte hain hargiz humein aag na chhuyegi magar ginti ke dino aur unke deen mein unhein fareb diya us jhoot ne jo bandhte hain (24)

فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

to kaisi hogi jab hum unhein ikattha karenge us din ke liye jis mein shak nahin aur har jaan ko us ki kamai poori bhar di jayegi aur un par zulm na hoga (25)

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِئُ

مَن تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَن تَشَاءُ ۗ طِبِّدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥﴾

yun arz kar aye allah mulk ke malik tu jise chahe saltanat de aur jis se chahe saltanat chheen le, aur jise chahe izzat de aur jise chahe zillat de, saari bhalai tere hi haath hai beshak tu sab kuchh kar sakta hai (26)

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٦﴾

to raat ka hissa din mein daale aur din ka hissa raat mein daale aur murda se zinda nikaale aur zinda se murda nikaale aur jise chahe be ginti de (27)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٢٧﴾

musalman kafiro ko apna dost na bana lein musulmano ke siwa aur jo aisa karega use allah se kuchh ilaqa na raha magar ye ke tum un se kuchh daro aur allah tumhein apne ghazab se darata hai aur allah hi ki taraf phirna hai (28)

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعْلَمَهُ اللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّيُّوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨﴾

tum farma do ke agar tum apne jee ki baat chhupao ya zahir karo allah ko sab maloom hai, aur jaanta hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein hai aur har cheez par allah ka qabu hain (29)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ ۖ تَوَدُّ

لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۖ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَعُوفٌ

بِالْعِبَادِ ۝

jis din har jaan ne jo bhala kaam kiya haaziri payegi aur jo bura kaam kiya ummeed karegi kaash mujh mein aur us mein door ka fasila hota aur allah tumhein apne azaab se darata hai, aur allah bando par meharban hai

(30)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ

عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

aye mahboob tum farma do ke logo agar tum allah ko dost rakhte ho to mere farmanbardar ho jao allah tumhein dost rakhega aur tumhare gunah bakhsh dega aur allah bakhshne waala meharbaan hai (31)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ۝

tum farma do ke hukm maano allah aur rasool ka phir agar wo moonh pherein to allah ko khush nahin aate kafir (32)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝

beshak allah ne chun liya adam aur nooh aur ibrahim ki aal aur imran ki aal ko saare jahaan ke liye (33)

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

ye ek nasl hai ek dusre se aur allah sunta jaanta hai

(34)

اِذْ قَالَتِ امْرٰتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ۖ فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۗ اِنَّكَ

أَنْتَ السَّبِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾

jab imran ki bibi ne arz ki aye mere rab main tere liye
mannat maanti hoon jo mere pet mein hai ke khalis
teri hi khidmat mein rahe to tu mujhse qabool kar le
beshak tu hi sunta jaanta (35)

فَكَيْفًا وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۖ وَلَيْسَ
الدَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَبَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

phir jab use jana boli aye mere rab ye to maine ladki
jani aur allah ko khoob maloom hai jo kuchh wo jani,
aur wo ladka jo usne maanga us ladki sa nahin aur
maine us ka naam maryam rakha aur main use aur us
ki awlaad ko teri panah mein deti hoon raande hue
shaitan se (36)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ۖ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ
عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْبِحَرَابِ ۖ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۖ قَالَ لِمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكَ هَذَا ۖ قَالَتْ هُوَ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾

to use uske rab ne achhi tarah qabool kiya aur use
achha parwaan chadhaya aur use zakariya ki nigezbani
mein diya jab zakariya uske paas uske namaz padhne
ki jagah jaate uske paas naya rizq paate kaha aye
maryam ye tere paas kahan se aaya, boli wo allah ke
paas se hai beshak allah jise chahe be ginti de (37)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ

الدُّعَاءُ ٣٨

yahan pukara zakariya apne rab ko bola aye rab mere mujhe apne paas se de suthri awlaad beshak tu hi hai
dua sunne waala (38)

فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْبِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا
بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَأَحْسَبًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ٣٨

to firishto ne use aawaz di aur wo apni namaz ki jagah
khada namaz padh raha tha beshak allah aap ko
muzda deta hai yahya ka jo allah ki taraf se ek kalima ki
tasdeeq karega aur sardar aur humesha ke liye aurato
se bachne waala aur nabi humare khaaso mein se (39)

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٣٩

bola aye mere rab mere ladka kahan se hoga mujhe to
pahunch gaya budhapa aur meri aurat baanjh farmaya
allah yun hi karta hai jo chahe (40)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا ۗ وَادْكُرْ
رَبَّكَ كَثِيرًا ۗ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ٤٠

arz ki aye mere rab mere liye koi nishani kar de
farmaya teri nishani ye hai ke teen din tu logon se baat
na kare magar ishara se aur apne rab ki bahut yaad kar
aur kuchh din rahe aur tadke uski paaki bol (41)

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لَئِمْرَتُهُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
الْعَالَمِينَ ٤١

aur jab firishto ne kaha, aye maryam beshak allah ne
tujhe chun liya aur khoob suthra kiya aur aaj saare
jahaan ki aurato se tujhe pasand kiya (42)

يُمَرِّمُ اقْنِئْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾

aye maryam apne rab ke huzoor adab se khadi ho aur
uske liye sajda kar aur ruku waalo ke saath ruku kar
(43)

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُونَ أَفَلَا مَعَهُمْ
إِيَّهُمْ يَكْفُلُ مَرِيَمَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٣﴾

ye ghaib ki khabrein hain ke hum khufya taur par
tumhein batate hain aur tum un ke paas na the jab wo
apni qalamon se qurra daalte the ke maryam kis ki
parwarish mein rahi aur tum un ke paas na the jab wo
jhagad rahe the (44)

إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِمَرِيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ۖ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٤﴾

aur yaad karo jab firishto ne maryam se kaha, aye
maryam allah tujhe bisharat deta hai apne paas se ek
kalima ki jis ka naam hai maseeh eisa maryam ka beta
roodar hoga dunya aur aakhirat mein aur qurb waala
(45)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٥﴾

aur logon se baat karega paalne mein aur pakki umr
mein aur khaaso mein hoga (46)

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا

يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٧﴾

boli aye mere rab mere bachha kahan se hoga mujhe to kisi shakhs ne haath na lagaya, farmaya allah yun hi paida karta hai jo chahe, jab kisi kaam ka hukm farmaye to usse yahi kehta hai ke ho jaa wo fauran ho jaata hai (47)

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٥٨﴾

aur allah use sikhayega kitab aur hikmat aur taurait aur injeel (48)

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ إِنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِّنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٩﴾

aur rasool hoga bani israyeel ki taraf ye farmata hua ke main tumhare paas ek nishani laaya hoon tumhare rab ki taraf se ke main tumhare liye mitti se parind ki si moorat banata hoon phir us mein phoonk maarta hoon to wo fauran parind ho jaati hai allah ke hukm se aur main shifa deta hoon madarzaad andhe aur supaid daagh waale ko aur main murde jilata hoon allah ke hukm se aur tumhein batata hoon jo tum khate ho aur jo apne gharo mein jama kar ke rakhte ho beshak in baato mein tumhare liye badi nishani hai agar tum imaan rakhte ho (49)

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِلَّا حَلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ

جُئْتُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝٥٠

aur tasdeeq karta aaya hoon apne se pehli kitab taurait ki aur isliye ke halaal karoon tumhare liye kuchh wo cheezein jo tum par haraam thi aur main tumhare paas tumhare rab ki taraf se nishani laaya hoon, to allah se daro aur mera hukm maano (50)

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۖ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٥١

beshak mera tumhara sab ka rab allah hai to usi ko pujo, ye hai seedha rasta (51)

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۚ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ۖ آمَنَّا بِاللَّهِ ۚ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ۝٥٢

phir jab eisa ne un se kufr paaya bola kaun mere madadgar hote hain allah ki taraf, hawariyo ne kaha hum deene khuda ke madadgaar hain hum allah par imaan laaye, aur aap gawah ho jaayein ke hum musalman hain (52)

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ۝٥٣

aye rab humare hum us par imaan laaye jo tune utara aur rasool ke taabe hue to humein haq par gawahi dene waalo mein likh le (53)

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينَ ۝٥٤

aur kafiro ne makar kiya aur allah ne unke halaak ki khufya tadbeer farmai aur allah sab se behtar chhupi tadbeer waala hai (54)

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَ

جَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ
فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

yaad karo jab allah ne farmaya aye eisa main tujhe
poori umr tak pahunchaunga aur tujhe apni taraf utha
lunga aur tujhe kafiro se paak kar dunga aur tere
pairuo ko qiyamat tak tere munkiro par ghalaba dunga
phir tum sab meri taraf palat kar aaoge to main tum
mein faisla farmaunga jis baat mein jhagadte ho (55)

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَا لَهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ
نَاصِرِينَ ﴿٥٦﴾

to wo jo kafir hue main unhein dunya wa aakhirat mein
sakht azaab karunga aur unka koi madadgar na hoga
(56)

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

aur wo jo imaan laaye aur achhe kaam kiye allah unka
neg unhein bharpoor dega aur zalim allah ko nahin
bhaate (57)

ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿٥٨﴾

ye hum tum par padhte hain kuchh aayatein aur
hikmat waali naseehat (58)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾

eisa ki kahawat allah ke nazdeek adam ki tarah hai use
mitti se banaya phir farmaya ho jaa wo fauran ho jaata

hai (59)

الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُبْتَرِينَ ﴿٥٩﴾

aye sunne waale ye tere rab ki taraf se haq hai to shak
waalo mein na hoga (60)

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَ
أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ۗ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ ﴿٦٠﴾

phir aye mahboob jo tum se eisa ke baare mein hujjat
karein baad iske ke tumhein ilm aa chuka to unse
farma do aao hum tum bulayein apne bete aur
tumhare bete aur apni auratein aur tumhari auratein
aur apni jaanein aur tumhari jaanein phir mubahila
karein to jhooto par allah ki lanat daalein (61)

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٦١﴾

yahi beshak sachha bayaan hai aur allah ke siwa koi
mabood nahin aur beshak allah hi ghalib hai hikmat
waala (62)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٢﴾

phir agar wo moonh pherein to allah fasadiyo ko
jaanta hai (63)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا
اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٣﴾

tum farmao aye kitabiyo aise kalima ki taraf aao jo hum mein tum mein yaksaan hai ye ke ibadat na karein magar khuda ki aur us ka shareek kisi ko na karein aur hum mein koi ek dusre ko rab na bana le allah ke siwa phir agar wo na maanein to keh do tum gawah raho ke hum musalman hain (64)

يَا هَلْ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾

aye kitab waalo ibrahim ke baare mein kyun jhagadte ho taurait wa injeel to na utri magar unke baad to kya tumhein aql nahin (65)

هَآأَنْتُمْ هُوَآءِ حَآجَّجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؕ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

sunte ho ye jo tum ho is mein jhagde jis ka tumhein ilm tha to is mein mujhse kyun jhagadate ho jis ka tumhein ilm hi nahin aur allah jaanta hai aur tum nahin jaante (66)

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٦﴾

ibrahim na yahoodi the na nasrani balki har batil se juda musalman the aur mushriko se na the (67)

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهُدَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ؕ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

beshak sab logon se ibrahim ke zyada haqdar wo the

jo unke pairu hue aur ye nabi aur imaan waale aur imaan waalo ka waali allah hai (68)

وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ ۖ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٨﴾

kitabiyo ka ek giroh dil se chahta hai ke kisi tarah tumhein gumrah kar dein aur wo apne hi aap ko gumrah karte hain aur unhein shuoor nahin (69)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٦٩﴾

aye kitabiyo allah ki aayato se kyun kufr karte ho halanki tum khud gawah ho (70)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

aye kitabiyo haq mein batil kyun milate ho aur haq kyun chhupate ho halanki tumhein khabar hai (71)

وَقَالَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا وَآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧١﴾

aur kitabiyo ka ek giroh bola wo jo imaan waalo par utra subah ko us par imaan laao aur shaam ko munkir ho jao shayad wo phir jaayein (72)

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۖ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ۖ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾

aur yaqeen na laao magar us ka jo tumhare deen ka pairu hai tum farma do ke allah ki hidayat hi hidayat hai (yaqeen kaahe ka na laao) us ka ke kisi ko mile jaisa

tumhein mila ya koi tum par hujjat la sake tumhare rab ke paas, tum farma do ke fazl to allah hi ke haath hai jise chahe de aur allah wus'at waala ilm waala hai (73)

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

pni rahmat se khaas karta hai jise chahe aur allah bade fazl waala hai (74)

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ ۗ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

aur kitabiyo mein koi wo hai ke agar tu us ke paas ek dher amanat rakhe to wo tujhe ada kar dega aur un mein koi wo hai ke agar ek ashrafi us ke paas amanat rakhe to wo tujhe pher kar na dega magar jab tak tu us ke sar par khada rahe ye isliye ke wo kehte hain ke anpadho ke muamla mein hum par koi mawakhiza nahin aur allah par jaan boojh kar jhoot bandhte hain (75)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

haan kyun nahin jisne apna ahad poora kiya aur parhezgari ki aur beshak parhezgar allah ko khush aate hain (76)

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

wo jo allah ke ahad aur apni qasmo ke badle zaleel daam lete hain aakhirat mein un ka kuchh hissa nahin aur allah na un se baat kare na un ki taraf nazar farmaye qiyamat ke din aur na unhein paak kare aur un ke liye dardnak azaab hai (77)

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ السِّتْرَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ
الْكِتَابِ ۗ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾

aur un mein kuchh wo hain jo zubaan pher kar kitab mein mel karte hain ke tum samjho ye bhi kitab mein hai aur wo kitab mein nahin, aur kehte hain ye allah ke paas se hai aur wo allah ke paas se nahin aur allah par deeda wa danista jhoot bandhte hain (78)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا
عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا
كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٨﴾

kisi aadmi ka ye haq nahin ke allah use kitab wa hikam wa paighambari de phir wo logon se kahe ke allah ko chhod kar mere bande ho jao haan ye kahega ke allah waale ho jao us sabab se ke tum kitab sikhate ho aur usse ke tum dars karte ho (79)

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالِيكَةَ وَالنَّبِيْنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٧٩﴾

aur na tumhein ye hukm dega ke firishto aur

paighambaro ko khuda thehra lo kya tumhein kufr ka hukm dega baad iske ke tum musalman ho liye (80)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ طَقَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي طَقَالُوا أَقْرَرْنَا طَقَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٠﴾

aur yaad karo jab allah ne paighambaron se unka ahad liya jo mai tum ko kitab aur hikmat doon phir tashreef laye tumhare pas wo rasool ki tumhari kitabon ki tasdeeq farmayen to tum zaroor zaroor us par iman lana aur zaroor zaroor uski madad karna farmaya kyun tumne inkar kiya aur us par mera bhari zimma liya sab ne arz ki humne iqrar kiya farmaya to ek dure ke gawah ho jao aur mai aap tumhare sath gawahon me hun (81)

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾

to jo koi is ke baad phire to wahi log fasiq hain (82)

أَفْغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

to kya allah ke deen ke siwa aur deen chahte hain aur usi ke huzoor gardan rakhe hain jo koi aasmano aur zameen me hain khushi se aur majboori se aur usi ki taraf phirenge (83)

قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ط لَا نُنْفِرُ

بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ۖ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾

yun kaho ke hum imaan laye allah par aur us par jo hamari taraf utra aur jo utra ibraheem aur ismaeel aur ishaq aur yaqoob aur unke beton par aur jo kuchh mila moosa aur eisa aur ambiya ko unke rabb se, hum unme kisi par imaan me farq nahi karte aur hum usi ke huzoor gardan jhukate hain (84)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾

aur jo islam ke siwa koi deen chahega wo hargiz usse qabool na kiya jayega aur wo aakherat me ziyakaron se hai (85)

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ

الْبَيِّنَاتُ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

kyunkar allah aisi qaum ki hidayat chahe jo imaan la kar kafir ho gaye aur gawahi de chuke the ki rasool saccha hai aur unhe khuki nishani aa chuki thin aur allah zalimon ko hidayat nahi karta (86)

أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنْ عَلَيهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٧﴾

unka badla ye hai ki un par laanat hai allah aur firishto aur aadmiyon ki sab ki (87)

خُلْدِينَ فِيهَا ۗ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٨﴾

hamesha usme rahen na un par se azaab halka ho aur na unhe mohlat di jaye (88)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٨٩﴾

magar jinhone uske baad tauba ki aur aapa sambhala to zaroor allah bakhshane wala meharban hai (89)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الضَّالُّونَ ﴿٩٠﴾

beshak wo jo iman la kar kafir hue phir aur kufr me badhe unki tauba hargiz qabool na hogi aur wahi hain behke hue (90)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۗ فَلَنْ يُوَفَّىٰ عَنْهُمْ مِلَّةَ الْآرِضِ ذَهَبًا

وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٩١﴾

wo jo kafir hue aur kafir hi mare unme kisi se zameen bhar sona hargiz qabool na kiya jayega agarche apni khalasi ko de unke liye dardnak azaab hai aur unka koi yaar nahin (91)

Chautha Paarah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

tum hargiz bhalai ko na pahunchoge jab tak raahe khuda mein apni pyaari cheez na kharch karo aur tum jo kuchh kharch karo allah ko maloom hai (92)

كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ ۗ طُغِيَ فَاتُّوهُ بِالتَّوْرَةِ فَآتَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٣﴾

sab khane bani israyeel ko halaal the magar wo jo yaqoob ne apne upar haraam kar liya tha taurait utarne se pehle tum farmao taurait la kar padho agar sachhe ho (93)

فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩٤﴾

to us ke baad jo allah par jhoot baandhe to wahi zalim hain (94)

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ ۖ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

tum farmao allah sachha hai to ibrahim ke deen par chalo jo har batil se juda the aur shirk waalo mein na the (95)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

beshak sab se pehla ghar jo logon ki ibadat ko muqarrar hua wo hai jo makka mein hai barkat waala aur saare jahaan ka rahnuma (96)

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

is mein khuli nishaniya hain ibrahim ke khade hone ki jagah aur jo us mein aaye amaan mein ho aur allah ke liye logon par us ghar ka hajj karna hai jo us tak chal sake aur jo munkir ho to allah saare jahaan se be parwah hai (97)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٨﴾

tum farmao aye kitabiyo allah ki aayatein kyun nahin maante aur tumhare kaam allah ke saamne hain (98)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ
شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

tum farmao aye kitabiyo allah ki raah se rokne ho use jo imaan laaye use tedha kiye chahte ho aur tum khud is par gawah ho aur allah tumhare kotako se bekhabar nahin (99)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ
إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿١٠٠﴾

aye imaan waalo agar tum kuchh kitabiyo ke kahe par chale to wo tumhare imaan ke baad tumhein kafir kar chhodenge (100)

وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ۚ وَأَنْتُمْ تُنْفِلُونَ عَلَيْنَا آيَاتِ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۗ وَمَنْ يَعْتَصِمْ
بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾

aur tum kyunkar kufir karoge tum par to allah ki

aayatein padhi jaati hain aur tum mein us ka rasool tashreef farma hai aur jis ne allah ka sahara liya to zaroor wo seedhi raah dikhaya gaya (101)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠١﴾

aye imaan waalo allah se daro jaisa ke darne ka haq hai aur hargiz na marna magar musalman (102)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ

أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ۗ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ

مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

aur allah ki rassi mazboot thaam lo sab mil kar aapas mein phat na jaana (firqo mein na bat jaana) aur allah ka ehsan apne upar yaad karo jab tum mein ber tha us ne tumhare dilo mein milaap kar diya to us ke fazl se tum aapas mein bhai ho gaye aur tum ek ghaar dozakh ke kinare par the to us ne tumhein us se bacha diya allah tum se yun hi apni aayatein bayaan farmata hai ke kahin tum hidayat pao (103)

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

aur tum mein ek giroh aisa hona chahiye ke bhalai ki taraf bulayein aur achhi baat ka hukm dein aur buri se mana karein aur yahi log muraad ko pahunchein (104)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

aur un jaise na hona jo aapas mein phat gaye aur un mein phoot pad gai baad iske ke raushan nishaniya unhein aa chuki thi aur un ke liye bada azaab hai (105)

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ۗ كَفَرْتُمْ بَعْدَ
إِيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٥﴾

jis din kuchh moonh kaale to wo jin ke moonh kaale hue kya tum imaan la kar kafir hue to ab azaab chakho apne kufr ka badla (106)

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٦﴾

aur wo jin ke moonh unjale (raushan) hue wo allah ki rahmat mein hain humesha us mein rahenge (107)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

ye allah ki aayatein hain ke hum theek theek tum par padhte hain aur allah jahaan waalo par zulm nahin chahta (108)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ ﴿١٠٩﴾

aur allah hi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein aur allah hi ki taraf sab kaamo ki ruju hai (109)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعُرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ
اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

tum behtar ho un sab ummato mein jo logon mein zaahir hui bhalai ka hukm dete ho aur burai se mana

karte ho aur allah par imaan rakhte ho aur agar kitabi imaan laate to un ka bhala tha un mein kuchh musalman hain aur zyada kafir (110)

لَنْ يُضْرَبُوا كُمْ إِلَّا آذَىٰ ۖ وَإِنْ يُقَاتِلُوا كُمْ يُوَلُّوْكُمْ إِلَّا دَبَّارًا ۗ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١٠﴾

wo tumhara kuchh na bigadenge magar yahi satana aur agar tum se ladein to tumhare samne se peeth pher jayenge phir un ki madad na hogi (111)

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةُ آيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا إِحْبَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَحُبُّ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَبِغْضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

un par jama di gai khwari jahan ho amaan na payenge magar allah ki dor aur aadmiyo ki dor se aur ghazabe ilahi ke sazawaar hue aur un par jama di gai mohtaji ye isliye ke wo allah ki aayato se kufr karte aur paighambaro ko nahaq shaheed karte ye isliye ke nafarmanbardar aur sarkash the (112)

لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ يَّتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

sab ek se nahin kitabiyo mein kuchh wo hain ke haq par qaaim hain allah ki aayatein padhte hain raat ki ghadiyo mein aur sajda karte hain (113)

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

allah aur pichhle din par imaan laate hain aur bhalai ka

hukm dete aur burai se mana karte hain aur nek kaamo par daudte hain aur ye log laaiq hain (114)

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٤﴾

aur wo jo bhalai karein un ka haq na maara jayega aur allah ko maloom hain dar waale (115)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَ

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١٥﴾

wo jo kafir hue un ke maal aur awlaad un ko allah se kuchh na bachayenge aur wo jahannami hain un ko humesha us mein rehna (116)

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتَهُ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٦﴾

kahawat uski jo is dunya ki zindagi mein kharch karte hain us hawa ki si hai jis mein paala ho wo ek aisi qaum ki kheti padi jo apna hi bura karte the to use bilkul maar gai aur allah ne un par zulm na kiya haan wo khud apni jaan par zulm karte hain (117)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۗ وَذُومًا

عَنْتُمْ ۗ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۗ قَدْ بَيَّنَّا

لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٧﴾

aye imaan waalo ghairo ko apna razdaar na banao wo tumhari burai mein gai nahin karte unki aarzu hai jitni iza tumhein pahunche bair unki baato se jhalak utha aur wo jo seene mein chhupaye hain aur bada hai

humne nishaniya tumhein khol kar suna di agar
tumhein aql ho (118)

هَأَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۗ وَإِذَا الْقُورُ
قَالُوا آمَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ طَقَلُ مَوْتُوا
بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١١٨﴾

sunte ho ye jo tum ho tum to unhein chahte ho aur wo
tumhein nahin chahte aur haal ye ke tum sab kitabo
par imaan laate ho aur wo jab tum se milte hain kehte
hain hum imaan laaye aur akele ho to tum par ungliya
chabayein ghussa se tum farma do ke mar jao apni
ghutan (qalbi jalan) mein allah khoob jaanta hai dilo ki
baat (119)

إِنْ تَسْسِسْكُمْ حَسَنَةً تَسْوَهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةً يَفْرَحُوا بِهَا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَ
تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾

tumhein koi bhalai pahunche to unhein bura lage aur
tum ko burai pahunche to is par khush ho aur agar
tum sabr aur parhezgari kiye raho to un ka daaon
tumhara kuchh na bigadega beshak un ke sab kaam
khuda ke ghere mein hain (120)

وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

aur yaad karo aye mahboob jab tum subah ko apne
daulat khana se bar aamad hue musalmano ko ladai
ke morcho par qaaim karte aur allah sunta jaanta hai
(121)

إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهَا ۗ وَاللَّهُ فَاكِتَوٰكِلٍ

المؤمنون ﴿١٢٢﴾

jab tum mein ke do giroho ka irada hua ke namardi kar jaayein aur allah un ka sambhalne waala hai aur musulmano ko allah hi par bharosa chahiye (122)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٢﴾

aur beshak allah ne badr mein tumhari madar ki jab tum bilkul be saro samaan the to allah se daro ke kahin tum shukr guzar ho (123)

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُبَدِّدَ كُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

jab aye mahboob tum musulmano se farmate the kya tumhein ye kaafi nahin ke tumhara rab tumhari madad kare teen hazaar firishte utaar kar (124)

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُبَدِّدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آفٍ

مِّن الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

haan kyun nahin agar tum sabr wa taqwa karo aur kafir usi dum tum par aa padein to tumhara rab tumhari madad ko paanch hazaar firishte nishaan waale bhejega (125)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

aur ye fatah allah ne na ki magar tumhari khushi ke liye aur isi liye ke is se tumhare dilo ko chain mile aur madad nahin magar allah ghalib hikmat waale ke paas

se (126)

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتَسِبْتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَآبِيْنَ ﴿١٢٦﴾

isliye ke kafiro ka ek hissa kaat de ya unhein zaleel kare
ke namurad phir jaayein (127)

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٧﴾

ye baat tumhare haath nahin ya unhein tauba ki taufiq
de ya un par azaab kare ke wo zalim hain (128)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

عَفُوٌّ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

aur allah hi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo
kuchh zameen mein hai jise chahe bakhshhe aur jise
chahe azaab kare aur allah bakhshne waala
meharbaan hai (129)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

aye imaan waalo sood duna dun na khao aur allah se
daro is ummeed par ke tumhein falaah mile (130)

وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

aur us aag se bacho ko kafiro ke liye tayyar rakhi hai
(131)

وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

aur allah wa rasool ke farmanbardar raho is ummeer
par ke tum reham kiye jaao (132)

وَ سَارِعُوْا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَ الْأَرْضُ ۗ أُعِدَّتْ

لِلْمُتَّقِينَ ۝

aur daudo apne rab ki bakhshish aur aisi jannat ki taraf jiski chaudaan mein sab aasmano zameen aa jaayein parhezgaro ke liye tayyar rakhi hai (133)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَيِّبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۝

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

wo jo allah ki raah mein kharch karte hain khushi mein aur ranj mein aur ghussa peene waale aur logon se dar guzar karne waale aur nek log allah ke mahboob hain (134)

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۝

وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ۝ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

aur wo ke jab koi behayai ya apni jaano par zulm karein allah ko yaad kar ke apne gunaho ki muaafi chahein aur gunah kaun bakhshhe siwa allah ke aur apne kiye par jaan boojh kar ad na jaayein (135)

أُولَٰئِكَ جَزَاءُ وَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝ مَنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

فِيهَا ۝ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

aiso ka badla un ke rab ki bakhshish aur jannatein hain jin ke niche nehrein rawaan humesha un mein rahein aur kaamiyo (nek logon) ka kya achha neg (inaam, hissa) hai (136)

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۝ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُكْذِبِينَ ۝

tum se pehle kuchh tariqe bartao mein aa chuke hain
to zameen mein chal kar dekho kaisa anjaam hua
jhutlane waalo ka (137)

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٧﴾

ye logon ko batana aur raah dikhana aur parhezgaro
ko nasehat hai (138)

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٨﴾

aur na susti karo aur na gham khao tumhi ghalib aaoge
agar imaan rakhte ho (139)

إِنْ يَسْأَلْكُمْ قَوْمٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۖ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

agar tumhein koi takleef pahunchi to wo log bhi waisi
hi takleef pa chuke hain aur ye din hain jin mein
humne logon ke liye baariya rakhi hain aur isliye ke
allah pehchan kara de imaan waalo ki aur tum mein se
kuchh logon ko shahadat ka martaba de aur allah dost
nahin rakhta zalimo ko (140)

وَلِيُبَيِّنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُبَيِّنَ الْكُفْرِينَ ﴿١٤١﴾

aur isliye ke allah musalmano ka nikhar kar de aur
kafiro ko mita de (141)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ

الصَّابِرِينَ ﴿١٤٢﴾

kya is gumaan mein ho ke jannat mein chale jaoge aur

allah ne abhi tumhare ghaziyo ka imtehan na liya aur
na sabr waalo ki aazmaish ki (142)

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿١٤٢﴾

aur tum to maut ki tamanna kiya karte the uske milne
se pehle to ab wo tumhein nazar aai aankho ke samne
(143)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَنْتُمْ مَمَّاتٌ أَوْ قَتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَ
سَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٣﴾

aur muhammad to ek rasool hain inse pehle aur rasool
ho chuke to kya agar wo inteqal farmayein ya shaheed
ho to tum ulte paaon phir jaoge aur jo ulte paaon
phirega allah ka kuchh nuqsan na karega aur anqareeb
allah shukr waalo ko sila dega (144)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّتَهَا ۗ وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

aur koi jaan behukme khuda mar nahin sakti sab ka
waqt likha rakha hai aur jo dunya ka inaam chahe hum
use us mein se dein aur jo aakhirat inaam chahe hum
us mein se use dein aur qareeb hai ke hum shukr
waalo ko sila ata karein (145)

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ۗ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
مَا ضَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٥﴾

aur kitne hi ambiya ne jihad kiya unke saath bahut

khuda waale the to na sust pade un musibato se jo allah ki raah mein unhein pahunchi aur na kamzor hue aur na dabe aur sabr waale allah ko mahboob hain

(146)

وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ

أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿١٤٦﴾

wo kuchh bhi na kehte the siwa is dua ke ke aye humare rab bakhsh de humare gunah aur jo zyadatiya hum ne apne kaam mein ki aur humare qadam jama de aur humein in kafir logon par madad de (147)

فَأْتَهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٧﴾

to allah ne unhein dunya ka inaam diya aur aakhirat ke sawaab ki khoobi aur neki waale allah ko pyaare hain

(148)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

خَسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

aye imaan waalo agar tum kafiro ke kahe par chale to wo tumhein ulte paaon lauta denge phir toota kha ke palat jaoge (149)

بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

balki allah tumhara maula hai aur wo sab se behtar madadgaar (150)

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۗ

وَمَا لَهُمْ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾

koi dum jaata hai ke hum kafiro ke dilo mein rob dalenge ke unhone allah ka shareek thehraya jis par us ne koi samajh na utaari aur un ka thikana dozakh hai aur kya bura thikana na insafo ka (151)

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ بِأَذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأُمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۖ مِّنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٠﴾

aur beshak allah ne tumhein sach kar dikhaya apna waada jab ke tum uske hukm se kafiro ko qatl karte the yahan tak ke jab tumne buzdili ki aur hukm mein jhagda daala aur nafarmani ki baad iske ke allah tumhein dikha chuka tumhari khushi ki baat tum mein koi dunya chahta tha aur tum mein koi aakhirat chahta tha phir tumhara moonh unse pher diya ke tumhein aazmaye aur beshak usne tumhein muaaf kar diya aur allah musalmano par fazl karta hai (152)

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوَنَ عَلَىٰ أَحَدٍ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَأَتَابَكُمْ عِمَّا بَغِمَ لَكِنِّي لَا تَحْرَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥١﴾

jab tum moonh uthaye chale jaate the aur peeth pher kar kisi ko na dekhte aur dusri jama'at mein humare rasool tumhein pukaar rahe the to tumhein gham ka badla gham diya aur muaafi isliye sunai ke jo haath se gaya aur jo iftaad padi uska ranj na karo aur allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (153)

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُبُوءًا يُغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ ۗ وَطَائِفَةٌ قَدْ
 أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ
 الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۗ
 يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۗ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۗ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
 وَلِيُبَيِّنَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥٥﴾

phir gham ke baad tum par chain ki neend utari ke tumhari ek jama'at ko ghere thi aur ek giroh ko apni jaan ki padi thi allah par be ja gumaan karte the jahiliyat ke se gumaan kehte us kaam mein kuchh humara bhi ikhteyar hai? tum farma do ke ikhteyar to saara allah ka hai apne dilo mein chhupate hain jo tum par zaahir nahin karte kehte hain humara kuchh bas hota to hum yahan na maare jaate tum farma do ke agar tum apne gharo mein hote jab bhi jin ka maara jaana likha ja chuka tha apni qatl gaaho tak nikal kar aate aur isliye ke allah tumhare seeno ki baat aazmaye aur jo kuchh tumhare dilo mein hai use khol de aur allah dilo ki baat jaanta hai (154)

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا
 كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

beshak wo jo tum mein se phir gaye jis din dono faujein mili thi unhein shaitan hi ne laghzhish di unke baaz aamaal ke baais aur beshak allah ne unhein

muaaf farma diya beshak allah bakhshne waala hilm
waala hai (155)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي
الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۗ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ
حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٥﴾

aye imaan waalo un kafiro ki tarah na hona jinhone
apni bhaiyo ki nisbat kaha jab wo safar ya jihad ko gaye
ke humare paas hote to na marte aur na maare jaate
isliye ke allah un ke dilo mein is ka afsos rakhe aur
allah jilata (zinda rakhta) aur maarta hai aur allah
tumhare kaam dekh raha hai (156)

وَلَيْنُ قَاتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمْ غُفِرْهُ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿١٥٦﴾

aur beshak agar tum allah ki raah mein maare jaao ya
mar jaao to allah bakhshish aur rahmat unke saare
dhan daulat se behtar hai (157)

وَلَيْنُ مِتُّمْ أَوْ قَاتِلْتُمْ لِأَيِّ اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

aur agar tum maro ya maare jaao to allah hi ki taraf se
uthna hai (158)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

to kaisi kuchh allah ki meharbani hai ke aye mahboob
tum unke liye narm dil hue aur agar tand mizaaj sakht

dil hote to wo zaroor tumhare gird se pareshan ho jaate to tum unhein muaaf farmao aur un ki shafa'at karo aur kaamo mein unse mashwara lo aur jo kisi baat ka irada pakka kar lo to allah par bharosa karo beshak tawakkul waale allah ko pyaare hain (159)

إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخَذِلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٥٩﴾

agar allah tumharj madad kare to koi tum par ghalib nahin aa sakta aur agar wo tumhein chhod de to aisa kaun hai jo phir tumhari madad kare aur musulmano ko allah hi par bharosa chahiye (160)

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَبَ ۗ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

aur kisi nabi par ye gumaan nahin ho sakta ke wo kuchh chhupa rakhe aur jo chhupa rakhe wo qiyamat ke din apni chhupai cheez le kar aayega phir har jaan ko unki kamai bharpoor di jayegi aur un par zulm na hoga (161)

أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ﴿١٦١﴾

to kya jo allah ki marzi par chala wo us jaisa hoga jisne allah ka ghazab odha aur uska thikana jahannam hai aur kya buri jagah palatne ki (162)

هُمُ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِمْ بَالٍ عَمَلُونَ ﴿١٦٢﴾

wo allah ke yahan darja darja hain aur allah un ke kaam dekhta hai (163)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
مُّبِينٍ ﴿١٦٣﴾

beshak allah ka bada ehsaan hua musalmano par ke un mein unhi mein se ek rasool bheja jo un par us ki aayatein padhta hai aur unhein paak karta aur unhein kitab wa hikmat sikhata hai aur wo zaroor isse pehle khuli gumrahi mein the (164)

أَوَلَمْ آصَابِكُمْ مِّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ
أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٤﴾

kya jab tumhein koi musibat pahunche ke usse duni tum pahuncha chuke ho to kehne lage ke ye kahan se aai tum farma do ke wo tumhari hi taraf se aai beshak allah sab kuchh kar sakta hai (165)

وَمَا آصَابِكُمْ يَوْمَ التَّقِي الْجُنْعِ فَبِأَذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٥﴾

aur wo musibat jo tum par aai jis din dono faujein mili thi wo allah ke hukm se thi aur isliye ke pehchan kara de imaan waalo ki (166)

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۖ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا ۗ
قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۗ
يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٦﴾

aur isliye ke pehchan kara de un ki jo munafiq hue aur unse kaha gaya ke aao allah ki raah mein lado ya dushman ko hatao bole agar hum ladai hoti jaante to zaroor tumhara saath dete aur us din zahiri iman ki ba nisbat khule kufr se zyada qareeb hain apne moonh se kehte hain jo unke dil mein nahin aur allah ko maloom hai jo chhupa rahe hain (167)

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَاتَلُوا قُلُوبًا فَادْرَأُوهُمْ عَنْ
أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٧﴾

wo jinhone apne bhaiyo ke baare mein kaha aur aap baith rahe ke wo humara kehna maante to na maare jaate tum farma do tu apni hi maut taal do agar sachhe ho (168)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

aur jo allah ki raah mein maare gaye hargiz unhein murda na khayal karna balki wo apne rab ke paas zinda hain rozi paate hain (169)

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ
خَلْفِهِمْ ۗ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

shaad hain us par jo allah ne unhein apne fazl se diya aur khushiya mana rahe hain apne pichhlo ki jo abhi unse na mile ke un par na kuchh andesha hai aur na kuchh gham (170)

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

khushiya manate hain allah ki nemat aur fazl ki aur ye ke allah zaaya nahin karta ajr musalmano ka (171)

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧١﴾

wo jo allah wa rasool ke bulane par hazir hue baad iske ke unhein zakhm pahunch chuka tha unke nikokaro aur parhezgaro ke liye bada sawaab hai (172)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ۗ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٢﴾

wo jin se logon ne kaha ke logon ne tumhare liye jattha joda to unse daro to un ka imaan aur zaaid hua aur bole allah hum ko bas hai aur kya achha kaarsaaz (173)

فَأَنقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ دِيَارِهِمْ فَأَتَىٰ خِيَابَ الْمَدِينَةِ فَوَجَدُ النَّاسَ يَنْسِفُونَ الْبُيُوتَ الَّتِي بَنَوْا لِنَفْسِهِمْ فِي الْأَرْضِ وَأَنصَبُوا لِأَنْفُسِهِمْ مَاءً يَاشِبًا ۗ وَنَادَىٰ مِنْ بُيُوتِهِمْ إِنِّي آنَسْتُ مِنَ الْكُفْرِ الَّتِي بَنَيْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَاصْطَلِبُوا فِيهَا ۗ فَنَجَّوْا إِلَىٰ اللَّهِ الْمَذْجَ الَّتِي هُمْ فِيهَا كَانُوا ﴿١٧٣﴾

to palte allah ke ehsan aur fazl se ke unhein koi burai na pahunchi aur allah ki khushi par chale aur allah bade fazl waala hai (174)

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ۗ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

wo to shaitan hi hai ke apne dosto se dhamkata hai to unse na daro aur mujhse daro agar imaan rakhte ho (175)

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ۗ إِنَّهُمْ لَن يَصُرُوا اللَّهَ شَيْعًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ ۗ الْأَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْأَخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٥﴾

aur aye mahboob tum un ka kuchh gham na karo jo kufr par daudte hain wo allah ka kuchh na bigadenge allah chahta hai ke aakhirat mein un ka koi hissa na rakhe aur unke liye bada azaab hai (176)

إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

wo jinhone imaan ke badle kufr mol liya allah ka kuchh na bigadenge aur unke liye dardnak azaab hai (177)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُنبِئُ لَهُمْ خَيْرًا لَّأَنفُسِهِمْ ۗ إِنَّمَا نُنبِئُ لَهُمْ
لِيُزَادُوا إِثْمًا ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

aur hargiz kafir is gumaan mein na rahein ke wo jo hu unhein dheel dete hain kuchh unke liye bhala hai hum to isiliye unhein dheel dete hain ke aur gunah mein badhein aur unke liye zillat ka azaab hai (178)

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ
وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُظَلِّعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيٰ مِنْ رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ ۗ
فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

allah musalmano ko isi haal par chhodne ka nahin jis par tum ho jab tak juda na kar de gande ko suthre se aur allah ki shaan ye nahin ke aye aam logo tumhein ghaib ka ilm de de haan allah chun leta hai apne rasoolo se jise chahe to imaan laao allah aur uske rasoolo par aur agar imaan laao aur parhezgari karo to tumhare liye bada sawaab hai (179)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنهَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ بَلْ هُوَ

شَرُّ لَهُمْ سَيِّطَوْنَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

aur jo bukhl karte hain us cheez mein jo allah ne unhein apne fazl se di hargiz use apne liye achha na samjhein balki wo unke liye bura hai anqareeb wo jis mein bukhl kiya qiyamat ke din un ke gale ka tauq hoga aur allah hi waris hai aasmano aur zameen ka aur allah tumhare kaamo ka khabardar hai (180)

لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ
قَتَلَهُمُ الْآلِيبَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۗ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

beshak allah ne suna jinhone kaha ke allah muhtaj hai aur hum ghani ab hum likh rakhenge unka kaha aur ambiya ko unka nahaq shaheed karna aur farmayenge ke chakho aag ka azaab (181)

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

ye badla hai uska jo tumhare haatho ne aage bheja aur allah bando par zulm nahin karta (182)

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ إِلَيْنَا آلا نُوْمِنُ لِرَسُوْلِ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَأْكُلُهُ
النَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالذِّمَىٰ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ
إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

wo jo kehte hai allah ne hum se qaraar kar liya hai ke hum kisi rasool par imaan na laayein jab tak aisi qurbani ka hukm na laaye jise aag khaye tum farma do mujhse pehle bahut rasool tumhare paas khuli

nishaniya aur ye hukm le kar aaye jo tum kehte ho phir tum ne unhein kyun shaheed kiya agar sachhe ho (183)

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالرُّبْرِ وَالْكِتَابِ

الْمُنِيرِ ﴿١٨٣﴾

to aye mahboob agar wo tumhari takzeeb karte hain to tum se agle rasoolo ki bhi takzeeb ki gai hai jo saaf nishaniya aur saheefe aur chamakti kitab le kar aaye the (184)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ رُحِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْغُرُورِ ﴿١٨٤﴾

har jaan ko maut chakhni hai aur tumhare badle to qiyamat hi poore milenge jo aag se bacha kar jannat mein dakhil kiya gaya wo muraad ko pahuncha aur dunya ki zindagi to yahi dhoke ka maal hai (185)

لَتُبْلَوَنَّ فِيْ أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا ۗ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ

عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٥﴾

beshak zaroor tumhari aazmaish hogi tumhare maal aur tumhari jaano mein aur beshak zaroor tum agle kitab waalo aur mushriko se bahut kuchh bura sunoge aur agar tum sabr karo aur bachte raho to ye badi himmat ka kaam hai (186)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ۗ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۚ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٦﴾

aur yaad karo jab allah ne ahad liya unse jinhein kitab ata hui ke tum zaroor ise logon se bayaan kar dena aur na chhupana to unhone use apni peeth ke peechhe phenk diya aur uske badle zaleel daam haasil kiye to kitni buri khareedari hai (187)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبْنَهُمْ بِمَقَازٍ مِنَ الْعَذَابِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٧﴾

hargiz na samajhna unhein jo khush hote hain apne kiye par aur chahte hain ke be kiye unki tareef ho aiso ko hargiz azaab se door na janna aur unke liye dardnak azaab hai (188)

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٨﴾

aur allah hi ke liye hai aasmano aur zameen ki badshahi aur allah har cheez par qadir hai (189)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

beshak aasmano aur zameen ki paidaish aur raat aur din ki baaham badliyo mein nishaniya hain aqlmando ke liye (190)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۗ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

jo allah ki yaad karte hain khade aur baithe aur karwat par lete aur aasmano aur zameen ki paidaish mein ghaur karte hain aye rab humare tu ne ye bekar na banaya paaki hai tujhe to humein dozakh ke azaab se bacha le (191)

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

aye rab humare beshak jise tu dozakh mein le jaaye use zaroor tune ruswai di aur zalimo ka koi madadgaar nahin (192)

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۗ رَبَّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

aye rab humare humne ek munadi ko suna ke imaan ke liye nida farmata hai ke apne rab par imaan laao to hum imaan laaye aye rab humare to humare gunah bakhsh de aur humari buraiya mahw farma de aur humari maut achho ke saath kar (193)

رَبَّنَا وَاتِّمَامًا وَعَدَّتْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْبِعَادَ ﴿١٩٤﴾

aye rab humare aur humein de wo jis ka tune humse waada kiya hai apne rasoolo ki marifat aur humein qiyamat ke din ruswa na kar beshak tu waada khilaf nahin (194)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ
قَتَلُوا وَقُتِلُوا أَلَا كَفَرًا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ وَلَا دُخْلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۗ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

to unki dua sun li unke rab ne ke main tum mein kaam waale ki mehnat akarat nahin karta mard ho ya aurat tum aapas mein ek ho to wo jinhone hijrat ki aur apne

gharo se nikale gaye aur meri raah mein sataye gaye aur lade aur maare gaye main zaroor unke sab gunah utaar dunga aur zaroor unhein baagho mein le jaaunga jin ke niche nehrein rawaan allah ke paas ka sawaab aur allah hi ke paas achha sawab hain (195)

لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ۗ

aye sunne waale kafiro ka shehro mein ahle gahle phirna hargiz tujhe dhoka na de (196)

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

thoda baratna hai phir unka thikana dozakh hai aur kya hi bura bichhauna (197)

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا

مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْآبِرَارِ ۝

lekin wo jo apne rab se darte hain unke liye jannatein hain jin ke niche nehrein bahein humesha un mein rahein allah ki taraf ki mahmani aur jo allah ke paas hai wo neko ke liye sab se bhala (198)

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ

خُشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

aur beshak kuchh kitabi aise hain ke allah par imaan laate hain aur is par jo tumhari taraf utra aur jo unki taraf utra unke dil allah ke huzoor jhuke hue allah ki aayato ke badle zaleel daam nahin lete ye wo hain jin ka sawab un ke rab ke paas hai aur allah jald hisab

karne waala hai (199)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

aye imaan waalo sabr karo aur sabr mein dushmano se aage raho aur sarhad par islami mulk ki nigezbani karo aur allah se darte raho is ummeed par ke kamyab ho (200)

Suratun Nisa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo nihayat meharbaan raham wala

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ
بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

ay logon! apne rabb se daro jisne tumhe ek jaan se paida kiya aur usi me se uska joda banaya aur un dono se bahut se mard o aurat faila diye aur allah se daro jiske naam par mangte ho aur rishton ka lihaaz rakho beshak allah har waqt tumhen dekh raha hai (1)

وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
أَمْوَالِكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝

aur yateemo ko unke maal do aur suthre ke badle ganda na lo aur unke maal apne maalon me mila kar na kha jao beshak ye bada gunah hai (2)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَ
تِلْكَ وَرِيعٌ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ تِلْكَ أَذَىٰ
الَّتِي تَعُولُونَ ۝

aur agar tumhen andesha ho ki yateem ladkiyon me insaaf na karoge to nikah me laao jo auraten tumhen

khush aayen do-do aur teen-teen aur char-char phir agar daro ki do biviyan me barabari na rakh sakoge to ek hi karo ya kaneezen jinke tum malik ho ye isse zyada qareeb hai ki tum se zulm na ho (3)

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هٰذِهِمَا مَرْيَاتَا ۝

aur aurton ko unke mehar khushi se do phir agar wo apne dil ki khushi se mehar me se kuchh de den to use khao rachta pachta (4)

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَابًا ۚ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝

aur be aqlo ko unke maal na do jo tumhare paas hain jin ko allah ne tumhari basar awqaat kiya hai aur unhein us mein se khilao aur pehnao aur unse achhi baat kaho (5)

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

aur yateemo ko aazmate raho yahan tak ke jab wo nikah ke qabil ho to agar tum un ki samajh theek dekho to unke maal unhein sipurd kar do aur unhein na khao hadd se badh kar aur is jaldi mein ke kahin bade na ho jaayein aur jise hajat na ho wo bachta rahe

aur jo hajatmand ho wo baqadre munasib khaye phir jab tum unke maal unke sipurd karo to un par gawah kar lo aur allah kaafi hai hisab lene ko (6)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝

mardo ke liye hissa hai us mein se jo chhod gaye maa baap aur qarabat waale aur aurato ke liye hissa hai us mein se jo chhod gaye maa baap aur qarabat waale tarka thoda ho ya bahut hissa hai andaza bandha hua

(7)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝

phir bant'te waqt agar rishtadar aur yateem aur miskeen aa jaayein to us mein se unhein bhi kuchh do aur unse achhi baat kaho (8)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۚ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

aur darein wo log agar apne baad natawaa awlaad chhodte to unka kaisa unhein khatra hota to chahiye ke allah se darein aur seedhi baat karein (9)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝

wo jo yateemo ka maal nahaq khate hain wo to apne pet mein niri aag bharte hain aur koi dum jaata hai ke

bhadakte dhadke (aatish kade) mein jayenge (10)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُن نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصَى بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ ط
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

allah tumhein hukm deta hai tumhari awlaad ke baare
 mein bete ka hissa do betiyo barabar phir agar niri
 ladkiya ho agarche do se upar to unko tarka ki do tihai
 aur agar ek ladki ho to uska aadha aur mayyit ke maa
 baap ko har ek ko uske tarka se chhata agar mayyit ke
 awlaad ho phir agar uski awlaad na ho aur maa baap
 chhode to maa ka tihai phir agar uske kai behan bhai
 to maa ka chhata baad is wasiyat ke jo kar gaya aur
 dain ke tumhare baap aur tumhare bete tum kya jaano
 ke un mein kaun tumhare zyada kaam aayega ye hissa
 bandha hua hai allah ki taraf se beshak allah ilm waala
 hikmat waala hai (11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
 الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ
 إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةِ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَلِيمٌ ۝١٧

aur tumhari bibiya jo chhod jaayein us mein se tumhein aadha hai agar un ki awlaad na ho phir agar unki awlaad ho to unke tarka mein se tumhein chauthai hai jo wasiyat wo kar gai aur dain nikaal kar aur tumhare tarka mein aurato ka chauthai hai agar tumhare awlaad na ho phir agar tumhare awlaad ho to unka tumhare tarka mein se aathwa jo wasiyat tum kar jao aur dain nikaal kar aur agar kisi aise mard ya aurat ka tarka beta ho jisne maa baap awlaad kuchh na chhode aur maa ki taraf se uska bhai ya behan hai to un mein se har ek ko chhata phir agar wo behan bhai ek se zyada ho to sab tihai mein shareek hain mayyit ki wasiyat aur dain nikaal kar jis mein usne nuqsan na pahunchaya ho ye allah ka irshad hai aur allah ilm waala hilm waala hai (12)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝١٨

ye allah ki hadein hain aur jo hukm maane allah aur allah ke rasool ka allah use baagho mein le jayega jin ke niche nehrein rawaan humesha un mein rahenge aur yahi hai badi kamyabi (13)

وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ۗ وَلَهُ عَذَابٌ

مُهَيِّنٌ ﴿١٤﴾

aur jo allah aur uske rasool ki nafarmani kare aur uski kul hado se badh jaaye allah use aag mein dakhil karega jis mein humesha rahega aur uske liye khwari ka azaab hai (14)

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ؕ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

سَبِيلًا ﴿١٥﴾

aur tumhari aurato mein jo badkari karein un par khaas apne mein ke chaar mardo ki gawahi lo phir agar wo gawahi de dein to un aurato ko ghar mein band rakho yahan tak ke unhein maut utha le ya allah unki kuchh raah nikaale (15)

وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَأَذُوْهُمَا ؕ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿١٦﴾

aur tum mein jo mard aurat aisa kaam karein un ko izaad do phir agar wo tauba kar lein aur nek ho jaayein to un ka pichha chhod do beshak allah bada tauba qabool karne waala meharban hai (16)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿١٧﴾

wo tauba jis ka qabool karna allah ne apne fazl se lazim kar liya hai wo unhi ki hai jo nadani se burai kar baithein phir thodi hi der mein tauba kar lein aiso par

allah apni rahmat se ruju karta hai aur allah ilm wa hikmat waala hai (17)

وَكَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ
 إِنِّي تُبْتُ الْعَنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا
 أَلِيمًا ﴿١٧﴾

aur wo tauba unki nahin jo gunaho mein lage rehte hain yahan tak ke jab un mein kisi ko maut aaye to kahe ab maine tauba ki aur na un ki jo kafir marein un ke liye hum ne dardnak azaab tayyar kar rakha hai (18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
 لِيَتَّخِذُوا بَعْضٌ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
 كَثِيرًا ﴿١٨﴾

aye imaan waalo tumhein halaal nahin ke aurato ke waris ban jao zabardasti aur aurato ko roko nahin is niyyat se ke jo mehar un ko diya tha us mein se kuchh le lo magar is soorat mein ke sareeh behayai ka kaam karein aur unse achha bartao karo phir agar wo tumhein pasand na aayein to qareeb hai ke koi cheez tumhein napasand ho aur allah us mein bahut bhalai rakhe (19)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قُنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿١٩﴾

aur agar tum ek bibi ke badle dusri badalna chaho aur use dhero maal de chuke ho to us mein se kuchh wapas na lo kya use wapas loge jhoot baandh kar aur khule gunah se (20)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

aur kyunkar use wapas loge halanki tum mein ek dusre ke samne be parda ho liya wo tum se gaadha ahad le chuki (21)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۚ وَمَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

aur baap dada ki mankooha se nikah na karo magar jo ho guzra wo beshak behayai aur ghazab ka kaam hai aur bahut buri raah (22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّابَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۚ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

haraam hui tum par tumhari maayein aur betiya aur behnein aur phuphiya aur khalayein aur bhateejiya aur bhanjiya aur tumhari maayein jinhone doodh pilaya aur doodh ki behnein aur aurato ki maayein aur unki betiya jo tumhari god mein hain un bibiyo se jinse tum

sohbat kar chuke ho phir agar tum ne unse sohbat na ki ho to unki betiyo mein haraj nahin aur tumhari nasli beto ki bibi aur do behnein ikatthi karna magar jo ho guzra beshak allah bakhshne waala meharbaan hai
(23)

Paanchwa Paarah

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ
لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا
تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

aur haram hain shauhardaar auratein magar kafiro ki aurtein jo tumhari mulk me aa jaen ye allah ka noshta hai tum par aur unke siwa jo rahen wo tumhe halal hai ke apne maalo ke iwaz talash karo qaid laate na pani girate to jin aurto ko nikah me lana chaho unke bandhe hue mehar do aur qarar daad ke baad agar tumhare aapas me kuch razamandi ho jae to usme gunah nahi beshak allah ilm o hikmat wala hai (24)

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِّن فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ ۚ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ ۚ
فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ
وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

aur tum me be maqdori ke bayis jinke nikah me azaad auratein imaan waliya na ho to unse nikah kare jo

tumhare haath ki milk hain imaan wali kanize aur allah tumhare imaan ko khub jaanta hai tum me ek dusre se hai to unse nikah karo unke maliko ki ijazat se aur hasbe dastur unke mehar unhe do qaid me aatiya'n na masti nikaalti aur na yaar banati jab wo qaid me aa jae fir bura kaam kare to un par us saza ki aadhi hai jo azaad aurto par hai ye uske liye jise tum me se zina ka andesha hai aur sabr karna tumhare liye behtar hai aur allah bakhshne wala meharban hai (25)

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٥﴾

allah chata hai ke apne ahkaam tumhare liye saaf bayan kar de aur tumhe aglo ki rushe batawe aur tum par apni rehmat se ruju farmaye aur allah ilm o hikmat wala hai (26)

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٦﴾

aur allah tum par apni rehmat se ruju farmana chata hai aur jo apne mazo ke piche pade hain wo chate hain ke tum sidhi raah se bahut alag ho jao (27)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٧﴾

allah chata hai ke tum par takhfif kare aur aadmi kamzur banaya gaya (28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

ae imaan walo apas me ek dusre ke maal nahaq na khau magar ye ke koyi sauda tumhare bahami razamandi ka ho aur apni jaane qatl na karo beshak allah tum par meharban hai (29)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ

يَسِيرًا ۝

aur jo zulm o ziyadati se aisa kare ga to anqareeb hum use aag me dhakil kare ge aur ye allah ko aasan hai

(30)

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا

كَرِيمًا ۝

agar bachte raho kabira gunah se jin ki tumhe mumanat hai to tumhare aur gunah bakhsh denge aur tumhe izzat ki jagah dakhil karenge (31)

وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِيَلْجَلَ الْفِتْنَةَ مِمَّا أَكْتَسَبُوا ۗ

وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كْتَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

aur uski aarzu na karo jis se allah ne tum me ek ko dusre par badayi di mardo ke liye unki kamayi se hissa hai aur allah se uska fazl mangu beshak allah sab kuch jaanta hai (32)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ آيْمَانُكُمْ

فَأَتَوْهُمُ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

aur hum sab ke liye maal ke mustahiq bana diye hain

jo kuch chhod jae maa baap aur qarabat wale aur wo jisse tumhara halaf band chuka unhe unka hissa do beshak har chiz allah ke saamne hai (33)

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

mard afsar hai aurto par is liye ke allah ne inme ek ko dusre par fazilat di aur is liye ke mardo ne un par apne maal kharch kiye to nekbakht aurte adab waliya hai khawand ke piche hifazat rakhti hain jis tarah allah ne hifazat ka hukm diya aur jin aurtu ki na farmani ka tumhe andesha ho to unhe samjhao aur unse alag souo aur unhe maaro phir agar wo tumhare hukm me aa jaayein to un par ziyadati ki koyi raah na chaho beshak allan buland bada hai (34)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدُ
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

aur agar tum ko miya biwi ke jhagde ka khuaf ho to ek ek panch mard walo ke taraf se bhejo aur ek panch aurat walo ki taraf se ye dono agar sulah karana chahenge to allah in me mail kar dega beshak allah jaanne wala khabardaar hai (35)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ

السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝

aur allah ki bandagi karo aur uska sharik kisi ko na theraao aur maa baap se bhalayi karo aur rishta daro aur yateemo aur muhtajo aur paas ke humsaye aur door ke humsaye aur karwat ke saathi aur raah gir aur apni baandi ghulam se beshak allah ko khush nahi aata itraane wala badaayi maarne wala (36)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝

jo aap bukhl karein aur auro se bukhl ke liye kahen aur allah ne jo inhe apne fazl se diya hai use chupaye aur kafiri ke liye humne zillat ka azaab tayyar kar rakha hai (37)

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ۝

aur wo jo apne maal logo ke dikhawe ko kharchte hain aur imaan nahi late allah aur na qiyamat par aur jiska musahib shaitan hua to kitna bura musahib hua (38)

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ۝

aur unka kya nuqsan tha agar imaan late allah aur qiyamat par aur allah ke liye mein se uski raah me kharch karte aur allah unko jaanta hai (39)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا

عَظِيمًا ۞

allah ek zarra bhar zulm nahi farmata aur agar koyi neki hu to use duni karta aur apne paas se bada sawab deta hai (40)

فَكَيْفَ إِذَا جُنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجُنْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۞

to kaisi hogi jab hum har ummat se ek gawah layenge ae mahboob tumhe un sab par gawah aur nighebaan bana kar layen (41)

يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا

يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۞

us din tamanna kare ge wo jinhone kufir kiya aur rasool ki nafarmaani ki kaash unhe mitti me daba kar zameen barabar kar di jae aur koyi baat allah se na chupa sakege (42)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا

جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لِمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَبَّمُوا صَعِيدًا

طَيِّبًا فَاْمَسْحُوا بِأَيْدِيكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞

aye imaan walo nasha ki halat me namaz ke pass na jao jab tak itna hosh na ho ke jo kaho use samjho aur na paaki ki halat me benahaye magar musafiri me aur agar tum bimar ho ya safar me ya tum me se koyi qazaye haajat se aaya ya tum ne aurton ko chhua aur paani na paaya to paak mitti se tayyammum karo to

apne muh aur hathon ka masa karo beshak allah ma'af
farmane wala bakshne wala hai (43)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن
تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۗ

kya tumne unhe na dekha jinko kitab se ek hissa mila
gumhraahi mol lete hain aur chahte hain ke tum bhi
rah se behak jao (44)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

aur allah khub jaanta hai tumhare dushmanu ko aur
allah kaafi hai waali aur allah kaafi hai madadgaar (45)

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ
أَسْمَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ ۗ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ
بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

kuch yahoodi kalamo ko unki jagah se pherte hain aur
kehte hain humne suna aur na maana aur suniye aap
sunaye na jaen aur rayina kehte hain zabane pher kar
aur deen me tana ke liye aur agar wo kehte ke humne
suna aur maana aur huzoor humari baat sune aur
huzoor hum par nazar farmaye to unke liye bhalayi hai
aur raasti me ziyada hota lekin un par to allah ne lanat
ki unke kufr ke sabab to yaqeen na rakhte magar
thoda (46)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِنَاذِرِنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ۚ مِّن قَبْلِ أَنْ تُطِيسَ

وَجُوهَا فَتَرُدُّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا أَوْ تَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ

مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾

aye kitab walo imaan laao us par jo humne utara tumhare saath wali kitab ki tasdeeq farmata qabl iske ke hum bigaad dein kuch munho to unhe pher de unki pith ki taraf ya unhe lanat kare jaisi lanat ki hafta walo par aur khuda ka hukm hokar rahe (47)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

beshak allah use nahi bakhshata ke uske saath kufr kiya jae aur kufr se niche jo kuch hai jise chaye ma'af farma deta hai aur jisne khuda ka sharik tehraya usne bada gunah ka tufaan baandha (48)

الْمَ تَرَىٰ إِلَىٰ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّيٰ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ

فَتِيلًا ﴿٤٩﴾

kya tumne unhe na dekha jo khud apni suthrayi bayaan karte hain balki allah jise chaye suthra kare aur un par zulm na hoga daanaye kharma ke dore barabar (49)

أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٠﴾

dekhu kaisa allah par jhut baandh rahen hain aur ye kaafi hai sareeh gunah (50)

الْمَ تَرَىٰ إِلَىٰ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَ

يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ﴿٥١﴾

kya tumne wo na dekhe jinhe kitaab ka ek hissa mila
imaan laate hain but aur shaitan par aur kafiru ko
kehte hain ke ye musalmanu se zyada raah par hain

(51)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥١﴾

ye hain jin par allah ne lanat ki aur jise khuda lanat
kare to hargiz koyi uska yaar na payega (52)

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٢﴾

kya mulk me unka kuch hissa hai aisa ho to logo ko til
bhar na dein (53)

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

ya logo se hasad karte hain us par jo allah ne unhe
apne fazl se diya to humne to ibrahim ki aaulaad ko
kitab o hikmat ata farmayi aur unhe bada mulk diya

(54)

فَمِنْهُمْ مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ ۗ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٤﴾

to unme koyi us par imaan laya aur kisi ne usse munh
fera aur dozakh kaafi hai bhadakti aag (55)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا ۚ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ

جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٥﴾

jinhone humari aayato ka inkaar kiya anqareeb hum
unke aag me dhakil karenge jab kabhi unki khaale pak
jae gi hum unke siwa aur khaale badal dege ke azaab
ka maza len beshak allah galib hikmat wala hai (56)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا آزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا شُرَافٌ مُتَوَلِّينَ ﴿٥٧﴾

aur jo log imaan laye aur acche kaam kiye anqareeb hum unhe baaghu me le jae ge jinke niche nehre rawa unme humesha rahe ge unke liye waha suthri biwiyon hain aur hum unhe waha dhakil kare ge jaha saaya hi saaya hoga(57)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

beshak allah tumhe hukm deta hai ke amaanate jinki hain unhe supurd karo aur ye ke jab tum logo me faisla karo to insaaf ke saath faisla karo beshak allah tumhe kya hi khub nasihat farmata hai beshak allah sunta dekhta hai (58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

aye imaan walo hukm maano allah ka rasool ka aur unka jo tum me hukumat wale hain fir agar tum me kisi baat ka jhagda uthe to use allah aur rasool ke huzoor ruju karo agar allah aur qiyamat par imaan rakhte ho ye behtar hai aur iska anjaam sabse accha (59)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذَ كَمَا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ
الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

kya tumne unhe na dekha jinka dawa hai ke wo ke imaan laye us par jo tumhari taraf utra aur us par jo tumse pehle utra fir chahte hain ke shaitan ko apna panch banaye aur unko to hukm ye tha ke use aslan na maane aur iblees ye chata hai ke unhe door behka de

(60)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ
عَنْكَ صُدُودًا ۝

aur jab unse kaha jae ke allah ki utaari hoyi kitab aur rasool ki taraf aao to tum dekho ge ke munafiq tum se munh mod kar fir jaate hain (61)

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ ۗ بِاللَّهِ
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحَسَنَاتِ وَتَوْفِيقًا ۝

kaisi hogi jab un par koyi uftaad pade badla uska ho unke haatho ne aage bheja fir aye mehboob tumhare huzoor hazir ho allah ki qasam khate ke humara maqsood to bhalayi aur mel hi tha (62)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي
أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۝

unke dilu ki to baat allah jaanta hai to tum unse chasm poshi karo aur unhe samjha do aur unke mamle me unse rasa baat kaho (63)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
جَاءُواكَ فَاسْتُغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾

aur humne koyi rasool na behja magar is liye ke allah ke hukm se uski itaa'at ki jae aur agar jab wo apni jaan par zulm kare to aye mahboob tumhare huzoor hazir ho aur fir allah se ma'afi chahe aur rasool unki shafa'at farmaye to zaroor allah ko bhoat tauba qabool karne wala mehrbaan payen (64)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيهِ اٰنْفُسَهُمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

mahboob tumhare rab ki qasm wo musalman na honge jab tak apne aapas ke jhagre me tumhe hakim na banaye fir jo kuch tum hukm farma do apne dilo me usse rukawat na paayein aur jee se maan len (65)

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اٰخُرُّوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ إِلَّا
قَلِيْلٌ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيْتًا ﴿٦٦﴾

aur agar hum un par farz karte ke apne aapko qatl kardo ya apne ghar baar chur kar nikal jao to unme thure hi aisa karte aur agar wo karte jis baat ki unse nasihat di jaati hai to usme unka bhala tha aur imaan par khub jamna (66)

وَإِذَا لَا اتَيْنُهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٦٧﴾

aur aisa hota to zaroor hum unhe apne paas bada sawab dete (67)

وَلَهَدَيْنُهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾

aur zaroor unko sidhi raah ki hidayat karte (68)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ
الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۗ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

aur jo allah aur uske rasool ka hukm maane to use unka saath mile ga jin par allah ne fazl kiya yani ambiya aur siddique aur shaheed aur nek log ye kya hi acche saathi hain (69)

ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

ye allah ka fazl hai aur allah kaafi hai jaanne wala (70)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ﴿٧١﴾

aye imaan walo hushyaari se kaam lo fir dushman ki taraf thode thode hokar niklo ya ikhatte chalo (71)

وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ
أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٢﴾

aur tumme koyi wo hai ke zaroor der lagaye ga fir agar tum par koyi uftaad pate to kahe khuda ka mujh par aehsaan tha ke me unke saath hazir na tha(72)

وَلَمَّا أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُّلَيْتَنِي
كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾

aur agar tumhe allah ka fazl mile to zaroor kahe goya tum me usme koyi dosti na thi aye kaash me unke saath hota to badi muraad pata (73)

فَالْيَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

to unhe allah ki raah me ladna chahiye jo duniya ki zindagi bech kar aakhirat lete hain aur jo allah ki raah me lade fir maara jae ya galib aaye to anqareeb hum use bada sawab dege (74)

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۗ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ۝

aur tumhe kya hova ke na lado allah ki raah me aur kamzor mardo aur aurto aur baccho ke waaste ye dua kar rahe hain ke aye humare rab hume is basti se nikaal jis ke log zalim hain aur hume apne paas se koyi himayati dede aur hume apne paas se koyi madad dede (75)

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝

imaan wale allah ki raah me ladte hain aur kuffar shaitan ki raah me ladte hain to shaitan ke dosto se lado beshak shaitan ka daao kamzor hai (76)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ فَلَبَّاتُمْ كَتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۗ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۗ لَوْ لَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۗ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

kya tumne unhe na dekha jin se kaha gaya apne haath rok lo aur namaz qayam rakho aur zakaat do fir jab un par jihaad farz kiya gaya to un me ba'az logo se aisa darne lage jaise allah se dare ya usse bhi zayid aur bole aye rab humare to ne hum par jihaad kyu farz kar diya thodi muddat tak hume aur jine diya hota tum farma do ke duniya ka baratana thhoda hai aur dar walo ke liye aakhirat acchi aur tum par taage barabar zulm na hoga (77)

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ
حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ
قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝

tum jaha kahi ho maut tumhe aaye gi agarche mazboot qilo me ho aur unhe koyi bhalayi pahunche to kahen ye allah ki taraf se hai aur unhe koyi burayi phuche to kahen ye huzoor ki taraf se aayi tum farma do sab allah ki taraf se hai to un logo ko kya hua koyi baat samajhte maloom hi nahi hote (78)

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ ۗ وَأَرْسَلْنَاكَ
لِلنَّاسِ رَسُولًا ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

aye sunne wale tujhe jo bhalayi phunche wo allah ki taraf se hai aur jo burayi phunche wo teri apni taraf se hai aur aye mahboob humne tumhe sab logo ke liye rasool behja aur allah kaafi hai gawa (79)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ

jisne rasool ka hukm maana beshak usne allah ka hukm maan aur jisne munh fira to humne tumhe unke bachane ko na bheja (80)

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَ
اللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَ ۗ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨٠﴾

aur kehte hain humne hukm maana fir jab tumhare paas se nikal kar jaate hain to unme ek giroh jo keh gaya tha uske khilaaf raat ko mansube gaanthta hai aur allah likh rakhega hai unke raat ke mansube to aye mahboob tum unse chasm poshi karo aur allah par bharosa rakho aur allah kaafi hai kaam banane ko (81)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا ﴿٨١﴾

to kya gjaur nahi karte qur'an me aur agar wo gair khuda ke paas se hota to zaroor usme ikhtelaaf paate (82)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ
رَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٢﴾

aur jab unke paas koyi baat itmenaan ya dar ki aati hai uska charcha kar bethte hain aur agar usme rasool aur apne zee ikhtiyaar logo ki taraf ruju laate to zaroor unse uski haqiqat jaan lete ye jo baad me khwahish karte hain aur agar tum par allah ka fazl aur uski rehmat na hoti to zaroor tum shaitan ke piche lag jaate

magar thode (83)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ﴿٨٣﴾

to aye mahboob allah ki raah me lado tum takhlif na
diye jao ge magar apne dam ki aur musalmanu ko
aamada karo qareeb hai ke allah kafiro ki sakhti rok de
aur allah ki aanch (jangi taqat) sab se sakht tar hai aur
uska azaab sab se karra (zabardast) (84)

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً
يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٨٤﴾

jo acchi sifarish kare uske liye usme se hissa hai aur jo
buri sifarish kare uske liye usme se hissa hai aur allah
har chiz par qadir hai (85)

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا ﴿٨٥﴾

aur jab tumhe koi dusre lafz se salaam kare to tum
usse behtar lafz jawaab me kaho ya wahi keh do
beshak allah har chiz par hisaab lene wala hai (86)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٦﴾

allah hai ke uske siwa kisi ki bandagi nahi aur wo
zaroor tumhe ikhatta kare ga qiyamat ke din jisme
kuch shak nahi aur allah se zada kis ki baat sacchi (87)

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكْسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا ۗ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

to tumhe kya hua ke munafiqu ke baare me do fariq ho gaye aur allah ne unhe undha kar diya unke kotako (kartuto) ke sabab kya ye chahte ho ke use raah dikhao jise allah ne gumhraah kiya aur jise allah gumhraah kare tu hargiz to uske liye raah na paaye ga (88)

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فخذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

wo to ye chahte hai hain ke kahi tum bhi kafir ho jao jaise wo kafir hove to tum sab ek se ho jao to unme kisi ko apna dost na banao jab tak allah ki raah me ghar baar na chhode phir agar wo munh pherein to unhe pakdo aur jaha paoo qatl karo aur unme kisi ko na dost tehraao na madadgaar (89)

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۚ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

magar wo jo aisi qaum se ilaqa rakhte hai ke tum me unme mu'ahida hai ya tumhare paas yun aaye ke unke dilo me sakat na rahi ke tum se lade ya apni qaum se lade to allah chata to zaroor unhe tum par qabu deta to wo beshak tumse ladte fir agar wo tumse kinara

karen aur na lade aur sulha ka piyaam daalen to allah ne tumhe un par koyi raah na rakhi (90)

سَتَجِدُونَ آخِرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوا كُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ طَلَبًا رَدًّا إِلَى
الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْوْكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا
أَيْدِيَهُمْ فخذوهم واقتلوهم حيث ثقتبؤهم ۖ أولئك جعلنا لكم
عليهم سلطاناً مبيناً ۝

ab kuchh aur tum aise paao ge jo ye chate hain ke tum se bhi amaan me rahe aur apni qaum se bhi amaan me rahe jab kabhi unki qaum unhe fasaad ki taraf fire to us par undhe girte hain fir agar wo tumse kinara na karen aur sulha ki gardan na daale aur apne haath se na rakhein to unhe pakdu aur jahan paao qatl karo aur ye hai jin par humne tumhe sareeh ikhtiyaar diya (91)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۖ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ط فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ
لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ
مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

aur musulmanu ko nahi pahunchta ke musulman ka khoon kare magar haath behak kar aur jo kisi musulman ko nadanista qatl kare to us par ek mamlook musulman ka aazaad hai aur khoon baha ke maqtool ke logo ko supurd ki jae magar ye ke wo ma'af karden fir agar wo us qaum se ho jo tumhare dushman

hai aur khud musalman hai to sirf ek mamlook musalman ka aazaad karna aur agar wo us qaum me ho ke tum me unme mu'ahida hai to uske logo ko khoon baha supurd ki jae aur ek musalman mamlook aazad karna to jiska haath na pahunche wo lagataar do maheene ke roze rakhe ye allah ke yaha uski tauba hai aur allah jaanne wala hikmat wala hai (92)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهٗ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
لَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٢﴾

aur jo koyi musalman ko jaan bujh kar qatl kare to uska badla jahannam hai ke muddato usme rahe aur allah ne us par ghazab kiya aur us par lanat ki aur uske liye tayyar rakha bada azaab (93)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ
إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ
كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٣﴾

aye imaan walo jab tum jihaad ko chalo to tahqiq kar lo aur jo tumhe salaam kare usse ye na kahu ke tu musalman nahi tum jiti duniya ka asbaab chate ho to allah ke paas bahuteri ghanimat hain pehle tum bhi aise hi the fir allah tum par aehsaan kiya to tum par tahqiq karna lazim hai beshak allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (94)

لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
دَرَجَةً طَوَّ كَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَى طَوَّ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا

عَظِيمًا ۝

barabar nahi wo musalman ke be uzr jihaad se beth
rahen aur wo ke raahe khuda me apne maalo aur
jaano se jihaad karte hain allah ne apne maalo aur
jaano ke saath jihaad karne walo ka darja bethne walo
se bada kiya aur allah ne sab se bhalayi ka wada
farmaya aur allah ne jihaad walo ko bethne walo par
bade sawaab se fazilat di hai (95)

دَرَجَتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً طَوَّ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

uski taraf se darje aur bakhshish aur rahmat aur allah
bakhshne wala meharbaan hai (96)

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ طَوَّ قَالُوا كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ طَوَّ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ط
فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ طَوَّ سَاءَتْ مَصِيرًا ۝

wo log jinki jaan fireshte nikaalte hain is haal me ke wo
apne upar zulm karte the unse fireshte kehte hain tum
kaahe me the kehte hain ke hum zameen me kamzor
the kehte hain kya allah ki zameen kushaada na thi ke
tum usme hijrat karte to aiso ka tikhana jahannam hai
aur bahut buri jagah palatne ki (97)

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِينَكَةً وَلَا
يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝

magar wo jo daba liye gaye mard aur aurte aur bacche jinhe na koyi tadbeer ban pate na raasta jaanein (98)

فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٨﴾

to qareeb hai allah aiso ko ma'af farmaye aur allah ma'af farmane wala bakshne wala hai (99)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

aur jo allah ki raah me ghar baar chhod kar nikle ga wo zameen me bahut jagah aur gunjaish paaye ga aur jo apne ghar se nikla allah wa rasool ki taraf hijrat karta fir use maut ne aa liya to uska sawaab allah ke zimme par hoga aur allah bakshne wala meharbaan hai(100)

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۗ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ خَافِتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إِنَّ الْكٰفِرِينَ كَانُوا أَعْيُنًا وَمُؤْمِنَاتٍ كٰفِرَاتٍ ۗ وَاللَّهُ عٰلِمُ الْغٰيْبِ ﴿١٠١﴾

aur jab tum zameen me safar karo to tum par gunah nahi ke ba'az namazein qasr se padho agar tumhe andesha ho ke kafir tumhe iza de ge beshak kuffar tumhare khule dushman hain (101)

وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ فَأَقْبِتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ۗ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ۗ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَذَٰلِكَ الَّذِي كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِّنَ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرَضَى أَنْ تَصْعَوْا
أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٠٢﴾

aur aye mahboob jab tum unme tashrif farma ho fir namaz me unki imamat karo to chahiye ke unme ek jamaat tumhare saath ho aur wo apne hathyaar liye rahen fir jab wo sajda karlen to hat kar tum se piche ho jae aur ab dusri jamaat aaye jo us waqt tak namaz me sharik na thi ab wo tumhare muqtadi ho aur chahiye ke apni panah aur hathyaar liye rahen kafiru ki tamanna hai ke kahi tum hathyaaru aur apne asbaab se gafil ho jao to ek dafa tum par jhuk padein aur tum par muzaiqa nahi agar tumhe meenh ke sabab takleef ho ya bimaar ho ke apne hathyaar khol rakho aur apni panah liye raho beshak allah kafiro ke liye khwaari ka azaab tayyar kar rakha hai (102)

فَإِذَا قُضِيَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ
فَأَقِيبُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

fir jab tum namaz padh chuko to allah ki yaad karo khate aur bethe aur karwato par lete fir jab mutmain ho jao to hasbe dastur namaz qaaim karo beshak namaz musalmano par waqt baandha hova farz hai (103)

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِنْ تَكُونُوا تَأْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْمِنُونَ كَمَا تَأْمِنُونَ ۚ وَ
تَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

aur kafiru ki talash me susti na karo agar tumhe dukh

phunchta hai to unhe bhi dukh phunchta hai jaisa tumhe phunchta hai aur tum allah se wo ummeed rakhte ho jo wo nahi rakhte aur allah jaanne wala hikmat wala hai (104)

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝

aye mahboob beshak humne tumhari taraf sacchi kitab utari ke tum logo me faisla karo jis tarah tumhe dikhaye aur daga walo ke taraf se na jaghdo (105)

وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

aur allah se ma'afi chaho beshak allah bakhshne wala meharbaan hai (106)

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝

aur unki taraf se na jhagdo jo apni jaano ko khayanat me daalte hain beshak allah nahi chahta kisi bade dagha baaz gunah gaar ko (107)

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝

aadmiyu se chupte hai aur allah se nahi chhupte aur allah unke paas hai jab dil me wo baat tajweez karte hain jo allah ko napasand hai aur allah unke kaamo ko gehre hue hai (108)

هَآئِنَّمْ هُوَ لَآءٍ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ فَمَنْ يُجَادِلِ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ

الْقَلْبِيَّةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾

sunte ho ye jo tum ho duniya ki zindagi me to unki taraf se kon jhagde to unki taraf se kon jhagde ga allah se qiyamat ke din ya kon unka wakeel hoga (109)

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

aur jo koyi burayi ya apni jaan par zulm kare fir allah se bakshish chaye to allah ko bakshshne wala meharbaan paayega (110)

وَمَنْ يَكْسِبِ اثْمًا فَأْتَمَّا يَكْسِبْهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾

aur jo gunah kamaye to uski kamayi usi ki jaan par pate aur allah ilm o hikmat wala hai (111)

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ آثِمًا ثُمَّ يَمُرْ بِهِ بِرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا

مُبِينًا ﴿١١٢﴾

aur jo koyi khata ya gunah kamaye fir use kisi gunah par thop de usne zaroor buhtaan aur khula gunah uthaya (112)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَيَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ۗ وَمَا يُضِلُّونَ

إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ۗ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ

عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۗ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

aur aye mahboob agar allah ka fazl wa rahmat tum par na hota to unme ke kuch log ye chahte ke tumhe dhoka de dein aur apne hi aapko behka rahen hain aur tumhara kuch na bigadenge aur allah ne hum par kitab aur hikmat utaari aur tumhe sikha diya jo kuch tum na

jaante the aur allah ka tum par bada fazl hai (113)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نُّجُوهُمْ إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٣﴾

unke aksar mashwaro me bhalayi nahi magar jo hukm
de khairaat ya acchi baat ya logo me sulha karne ka
aur jo allah ki raza chane ko aesa kare use anqareeb
hum bada sawaab de ge (114)

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الهُدَىٰ مَن يَنبَغِ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٤﴾

aur jo rasool ka khilaaf kare baad uske ke haq rasta us
par khul chuka aur musalmanu ki raah se juda raah
chale hum use uske haal par chhod denge aur use
dozakh me dhakil kare ge aur kya hi buri jagah palatne
ki (115)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ﴿١١٥﴾

allah use nahi bakhshata ke uska koyi sharik tehraya jae
aur usse niche jo kuch hai jise chaye ma'af farma deta
hai aur jo allah ka sharik tehrayae wo door ki
gumhraahi me pada (116)

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنثًا ۗ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴿١١٦﴾

ye shirk wale allah ke siwa nahi pujhte magar kuch
aurato ko aur nahi pujte magar sarkash shaitan ko
(117)

لَعَنَهُ اللَّهُ ۖ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ۖ

jis par allah ne lanat ki aur bola qasm hai me zaroor tere bando se kuch thehraya hua hissa loonga (118)

وَلَا ضِلَّكُمْ وَلَا مَنِيتَهُمْ وَلَا أَمْرَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ إِذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَهُمْ
فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرًا نَأَى مُبِينًا ۖ

qasm hai me zaroor unhe behkaunga aur zaroor unhe aarzuye dilaaunga unhe kahunga ke wo chaupayo ke kaan chirenge aur zaroor unhe kahunga ke wo allah ki paida ki hoyi chiz badal de ge aur jo allah ko chhod kar shaitan ko dost banaye wo sareeh tute me pada (119)

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ

shaitan unhe wada deta hai aur aarzuye dilata hai aur shaitan unhe wade nahi deta magar fareb ke (120)

أُولَئِكَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ۖ

unka thikana dozakh hai aur usse bacchne ki jagah na paayen ge (121)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۖ

aur jo imaan laaye aur acche kaam kiye kuch der jaati hai ke hum unhe baagho me le jaen ge jinke niche nehre bahe humesha humesha unme rahen allah ka saccha wada aur allah se zada kis ki baat sacchi(122)

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ
مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾

kaam na kuch tumhare khayalo par hai aur na kitab walo ki hawas par jo burayi kare ga uska badla paaye ga aur allah ke siwa na koyi apna himayati paaye ga na madadgaar (123)

وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مَن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

aur jo kuch bhale kaam kare ga mard ho ya aurat aur ho musalman to wo jannat me dhakil kiye jaaye ge aur unhe til bhar nuqsan na diya jaaye ga (124)

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾

aur usse behtar kiska deen jisne apna munh allah ke liye jhuka diya aur wo neki wala hai aur ibrahim ke deen par chala jo har batil se juda tha aur allah ne ibrahim ko apna gehra dost banaya (125)

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾

aur allah hi ka hai jo kuch aasmano me hai aur jo kuch zameen me aur har chiz par allah ka qabu hai (126)

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ۗ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
فِي يَتْلَىٰ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۗ
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ ۗ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ

خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

aur tumse aurto ke baare me fatwa phunchte hain tum farma do ke allah tumhe unka fatwa deta hai aur wo jo tum par qur'an me padha jata hai un yateem ladkiyo ke baare me ke tum uhne nahi dete jo unka muqarrar hai aur unhe nikah me bhi laane se munh pherte ho aur kamzor baccho ke baare me aur ye ke yateemu ke haq me insaaf par qayam rahu aur tum jo bhalayi karo to allah ko uski khabar hai (127)

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

aur agar koyi aurat apne shuhar ki ziyadati ya beraghabati ka andesha kare to un par koyi gunah nahi ke aapas me sulha kar len aur sulha khub hai aur dil laalach ke fande me hain aur agar tum neki aur parhezgaari karo to allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (128)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْلُغُوا أَكْلَ الْمَبْدُوعِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

aur tum se hargiz na ho sake ga ke aurto ko barabar rakho chahe kitni hi hirs karo to ye to na ho ke ek taraf pura jhuk jao ke dusri ko adhar me latakti chhod do aur agar tum neki aur parhezgaari karo to beshak allah bakshne wala mehrbaan hai (129)

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

aur agar wo dono juda ho jaayein to allah apni kashaish se tum me har ek ko dusre se be niyaaz karde ga aur allah kashaish wala hikmat wala hai (130)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ الَّذِيْنَ اٰتٰنَا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَبِيْدًا ﴿١٣١﴾

aur allah hi ka hai jo kuch aasmano me hai aur jo kuch zameen me aur beshak takeed farma di hai humne unse jo tum se pehle kitab diye gaye aur tum ko ke allah se darte raho aur agar kufr karo to beshak allah hi ka hai (131)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

jo kuch aasmanu me hai aur jo kuch zameen me aur allah kaafi hai kaarsaaz (132)

اِنْ يَّشَآءْ يُدْهِبْكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ وَيَاْتِ بِاٰخِرِيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَدِيْرًا ﴿١٣٣﴾

aye logo wo chahe to tumhe le jae aur auro ko le aaye aur allah ko uski qudrat hai (133)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا

بَصِيْرًا ﴿١٣٤﴾

jo duniya ka inaaam chahe to allah hi ke paas duniya wa aakhirat dono ka inaaam hai aur allah sunta dekhta hai (134)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۗ شَهِدَآءُ لِلَّهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ

الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

aye imaan walo insaaf par khub qayam ho jao allah ke liye gawahi dete chahe us mein tumhara apna nuqsan ho ya maa baap ka ya rishtedaaro ka jis par gawahi do wo gani ho ya faqeer ho behrhaal allah ko uska sab se ziyada ikhtiyaar hai to khwaaish ke piche na jao ke haq se alag pado aur tum her pher karo ya munh phero to allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (135)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝

aye imaan walo imaan rakho allah aur allah ke rasool par aur us kitab par jo apne un rasool par utaari aur us kitab par jo pehle utaari aur jo na maane allah aur uske firishto aur kitabu aur rasoolu aur qiyamat ko to wo zaroor door ki gumhraahi me pata(136)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ
لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝

beshak wo log jo imaan laye phir kafir hoye fir imaan laye fir kafir hoye fir aur kufr me badhe allah hargiz na unhe bakshe na unhe raah dikhaaye (137)

بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

kushkhabri do munafiqu ko ke unke liye dardnaak

azaab hai (138)

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُلِيبَتَّغُونَ عَنْهُمْ
الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝

wo jo musalman ko chhod kar kafiru ko dost banate
hain kya unke paas izzat dhundte hain to izzat to saari
allah ke liye hai (139)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝

aur beshak allah tum par kitab utaar chuka ke jab tum
allah ki aayatu ko suno ke unka inkaar kiya jata aur
unki hansi banayi jaati hai to un logo ke saath na bethu
jab tak wo aur baat me mashgool na ho warna tum bhi
unhe jaise ho beshak allan kafiro aur munafiqu sab ko
jahannam me ikhatta kare ga (140)

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ ؕ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ
وَ
إِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ۖ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

wo jo tumhari halat taka karte hain to agar allah ki
taraf se tum ko fatah mile kahi kya hum tumhare saath
na the aur agar kafiro ka hissa ho to unse kahe kya
hume tum par qabu na tha aur humne tumhe
musalmanu se bachaya to allah tum sab me qiyamat

ke din fesla karde ga aur allah kafiro ko musalmanu
par koyi raah na de ga (141)

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا
كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

beshak munafiq log apne gumaan me allah ko fareb
diya chate hain aur wahi unhe gafil kar ke maare ga
aur jab namaz ko khare ho to haare ji se logo ka
dikhawa karte hain aur allah ko yaad nahi karte magar
thode (142)

مَذْبُذِبِينَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ لَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ
لَهُ سَبِيلًا ۝

beech me dagmaga rahe hain na idhar ke na udhar ke
aur jise allah gumhraah kare to uske liye koyi raah na
paaye ga (143)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَتُرِيدُونَ
أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

aye imaam walo kafiro ko dost na banaao musalmano
ke siwa kya ye chate ho ke apne upar allah ke liye
sareeh hujjat karlo (144)

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

beshak munafiq dozakh ke sab se niche tabqa me hain
aur to hargiz unka koyi madadgaar na paaye ga (145)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

magar wo jinhone tuaba ki aur sawanre aur allah ki rassi mazboot thaami aur apna deen khalis allah ke liye kar liya to ye musalmano ke saath hain aur anqareeb allah musalmano ko bada sawab dega (146)

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٦﴾

aur allah tumhe azaab de kar kya kare ga agar tum haq maano aur imaan laao aur allah besilah dene wala jaanne wala (147)

Chhata Paarah

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِّءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

allah pasand nahi karta buri baat ka ailan karna magar mazloom se aur allah sunta janta hai.(148)

إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوا أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾

agar tum koi bhalai ailaniya karo ya chhup kar ya kisi ki burai se darguzaro to beshak allah paak muaf karne wala qudrat wala hai.(149)

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ ۗ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥٠﴾

wo jo allah aur uske rasoolon ko nahi mante aur chahte hain ki allah se uske rasoolon ko juda kar den aur kehte hain hum kisi par imaan laye aur kisi ke munkir hue aur chahte hain ki iman wa kufr ke beech me kli raah nikaal len.(150)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾

yahi hain theek theek kafir aur humne kafiron ke liye zillat ka azaab taiyar kar rakha hai.(151)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرُهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢﴾

aur wo jo allah aur uske sab rasoolon par imaan laye aur unme se kisi par imaan me farq na kiya unhen anqareeb allah unke sawab dega aur allah bakhshne

wala meharbaan hai.(152)

يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ
 مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۗ ثُمَّ اتَّخَذُوا
 الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ ۗ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطٰنًا
 مُّبِينًا ﴿١٥٢﴾

aye mehboob, ahle kitab tumse suwal karte hain ki un par aasman se ek kitab utaar do to wo to musa se isse bhi bada suwal kar chuke ki bole hume allah ko aylaaniya dikha do to unhe kadak ne aa liya unke gunahon par fir bachhda le baithe baad iske ki raushan aayaten unke paas aa chukin to humne ye muaf farma diya aur humne musa ko raushan ghalaba diya.(153)

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا
 تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٣﴾

fir humne un par toor ko ooncha kiya unse ahad lene ko aur unse farmaya ki darwaze me sajda karte dakhil ho aur unse farmaya ki hafta me hadd se na badho aur humne unse gaadha ahad liya.(154)

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ
 قَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٤﴾

to unki kaisi bad ahdiyoon ke sabab humne un par laanat ki aur isliye ki wo aayaate ilahi ke munkir hue aur ambiya ko naahaq shaheed karte aur unke is kehne par ki humare dilon par gilaaf hai balki allah ne

unke kufr ke sabab unke dilon par muhar laga di hai to imaan nahi laate magar thode.(155)

وَبِكْفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٥﴾

aur isliye ki unhone kufr kiya aur maryam par bada bohtaan uthaya.(156)

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ ۗ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۗ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۗ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٦﴾

aur unke is kehne par ke humne maseeh isa bin maryam allah ke rasool ko shaheed kiya aur hai ye ki unhone na use qatl kiya aur na use sooli di balki unke liye unki shabeeh ka ek bana diya gaya aur wo jo uske bare me ikhtilaf kar rahe hain zaror uski taraf se shub'ha me pade hue hain unhen uski kuchh bhi khabar nahi magar yahi gumaan ki pairwi aur beshak unhone usko qatl na kiya.(157)

بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٧﴾

balki allah ne use apni taraf utha liya aur allah ghalib hikmat wala hai.(158)

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٨﴾

koi kitabi aisa nahi jo uski maut se pehle us par imaan na laye aur qiyamat ke din wo un par gawaah hoga.(159)

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ

to yahoodiyon ke bade zulm ke sabab humne wo baaz suthari cheezen ki unke liye halal thin un par haraam farma din aur isliye ke unhone bahuton ko allah ki raah se roka.(160)

وَ أَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَ أَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

aur isliye ki wo sood lete haalanki wo isse mana kiye gaye the aur logon ka maal naahaq kha jate aur unme jo kafir hue. humne unke liye dardnak azaab taiyaar kar rakha hai.(161)

لَكِنِ الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ
مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ

haan jo unme ilm ke pakke aur imaan wale hain wo imaan laate hain ya par jo ay mehboob tumhari taraf utra aur jo tumse pehle utra aur namaz qaeem rakhne wale aur zakat dene wale aur allah aur qiyamat par imaan laane wale aison ki anqareeb hum bada sawab denge.(162)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَ
سُلَيْمَانَ ۗ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۖ

beshak aye mehboob humne tumhari taraf wahee bheji jaise wahee nooh aur uske baad paighambaron ko bheji aur humne ibraheem aur ismaeel aur is'haaq aur yaqoob aur unke beton aur isa aur ayyoob aur yunus aur haroon aur sulaiman ko wahee ki aur humne dawood ko zaboora farmayi.(163)

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْوِينًا ﴿١٦٣﴾

aur rasoolon ko jiska zikr aage hum tumse farma chuke aur unko jinka zikr tumse na farmaya aur allah ne musa se haqeeqatan kalaam farmaya.(164)

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٤﴾

rasool khushkhabari dete aur darr sunate ki rasoolon ke baad allah ke yahan logon ko koi uzr na rahe aur allah ghalib hikmat wala hai.(165)

لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعَلْمِهِ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٥﴾

lekin ay mehboob allah uska gawah hai jo usne tumhari taraf utara wo usne apne ilm se utara hai aur firishte gawah hain aur allah ki gawahi kafi.(166)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٦٦﴾

wo jinhone kufr kiya aur allah ki raah se roka beshak wo door ki gumrahi me pade.(167)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ۖ

beshak jinhone kufr kiya aur hadd se badhe allah
hargiz unhone na bakhshega aur na unhe koi raah
dikhaye.(168)

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝١٦٩

magar jahannam ka rasta ki usme hamesha hamesha
rahenge aur ye allah ko aasan hai.(169)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ ۖ وَإِنْ

تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١٧٠

ay logon! tumhare paas ye rasool haqq se sath
tumhare rabb ki taraf se tashreef laye to imaan lao
apne bhale ko aur agar tum kufr karo to beshak allah
hi ka hai jo kuchh aasmanon aur zameen me hai aur
allah ilma wa hikmat wala hai.(170)

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ إِنَّمَا الْمَسِيحُ

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً ۚ إِنْتَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ ۚ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ

سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكفى بِاللَّهِ

وَكَبِيرًا ۝١٧١

aye kitab waalo! apne deen me zyadati na karo aur
allah par na kaho magar sach, maseeh isa maryam ka
beta allah ka rasool hi hai aur uska ek kalima ki
maryam ki taraf bheja, aur uske yahan ki ek rooh, to
allah aur uske rasoolon par imaan lao aur teen na

kaho baaz raho, apne bhale ko, allah to ek hi khuda hai, paaki use isse ki uske koi baccha ho, usi ka naam hai jo kuchh aasmano me hai aur jo kuchh zameen me hai aur allah kafi hai karsaz hai.(171)

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ وَمَنْ
يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ۝

hargiz maseeh allah ka banda banne se kuchh nafrat nahi karta aur na muqarrab firishte aur jo allah ki bandagi se nafrat aur takabbur kare to koi dum jata hai ki wo un sabko apni taraf haankega.(172)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَلَا يَجِدُونَ
لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

to wo jo imaan laye aur acche kaam kiye unki mazdoori unhe bharpoor de kar apne fazl se unhen aur zyada dega aur wo jinhone nafrat aur takabbur kiya tha unhen dardnaak saza dega aur allah ke siwa na apna koi himayati payenge na madadgaar.(173)

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ۝
aye logon! beshak tumhare paas allah ki taraf se wazeh daleel aayi aur humne tumhari taraf raushan noor utara.(174)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ ۗ
يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

to wo jo allah par imaan laye aur uski rassi mazboot thami to anqareeb allah unhe apni rahmat aur apne fazl me dakhil karega aur unhe apni taraf seedhi raah dikhayega.(175)

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلِمَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَكَانَتْهُ
أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَدٌّ ۗ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنثَىٰ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٥﴾

aye mehboob tumse fatwa poochhte hai tum farma do ki allah tumhe kalaala me fatwa deta hai, agar kisi mard ka inteqal ho jo be aulad hai aur uski ek bahan ho to tarka me uski bahan ka aadha hai, aur mard apni bahan ka waris hoga agar bahan ki aulad na ho, fir agar do behan hon tarka me uska do tihai aur agar bhai bahan hon, mard bhi aurten bhi to mard ka hissa do aurton ke barabar, allah tumhare liye saaf bayan farmata hai ki kahin bahak na jao aur allah har cheez janta hai.(176)

Suratul Maaidah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَهَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

aye imaan waalo apne qaul poore karo tumhare liye
halaal hue be zubaan maweshi magar wo jo aage
sunaya jayega tumko lekin shikar halaal na samjho jab
tum ehram mein ho beshak allah hukm farmata hai jo
chahe (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِّينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ
الْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

aye imaan waalo halaal na thehra lo allah ke nishan
aur na adab waale mahine aur na haram ko bheji hui
qurbaniya aur na jin ke gale mein alamatein aawezaan
aur na un ka maal aabru jo izzat waale ghar ka qasd
kar ke aayein apne rab ka fazl aur uski khushi chahte
aur jab ehram se niklo to shikar kar sakte ho aur

tumhein kisi qaum ko adawat ke unhone tum ko masjide haraam se roka tha zyadati karne par na ubhare aur neki aur parhezgari par ek dusre ki madad karo aur gunah aur zyadati par baaham madad na do aur allah se darte raho beshak allah ka azaab sakht hai

(2)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَامُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِأَلْزَامٍ ذَلِكُمْ فَسْقُ طَالِيَوْمَ يَسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ طَالِيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا طَمَنِ اضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِآئِمِّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

tum par haraam hai murdaar aur khoon aur suwar ka gosht aur wo jiske zibah mein ghaire khuda ka naam pukara gaya aur wo jo gala ghontne se mare aur be dhaar ki cheez se maara hua aur jo gir kar mara aur jise kisi jaanwar ne seeng maara aur jise koi darinda kha magar jinhein tum zibah kar lo aur jo kisi than par zibah kiya gaya aur paasa daal kar baanta karna ye gunah ka kaam hai, aaj tumhare deen ki taraf se kafiro ki aas toot gai to unse na daro aur mujh se daro aaj maine tumhare liye tumhara deen kamil kar diya aur tum par apni nemat पूरी kar di aur tumhare liye islam ko deen pasand kiya to jo bhook pyaas ki shiddat mein nachaar ho yun ke gunah ki taraf na jhuke to beshak

allah bakhshne waala meharbaan hai (3)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ
مَكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

aye mahboob tum se puchhte hain ke unke liye kya
halaal hua tum farma do ke halaal ki gai tumhare liye
paak cheezein aur jo shikari jaanwar tumne sidha liye
unhein shikar par daudate jo ilm tumhein khuda ne
diya us mein se unhein sikhate to khao us mein se jo
wo maar kar tumhare liye rahne dein aur is par allah
ka naam lo aur allah se darte raho beshak allah ko

hisab karte der nahin lagti (4)

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ ۗ وَطَعَامَكُمْ
حَلَّلَ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ۗ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

aaj tumhare liye paak cheezein halaal hui aur kitabiyo
ka khana tumhare liye halaal hai aur tumhara khana
unke liye halaal hai aur parsa auratein musalman aur
parisa auratein un mein se jin ko tum se pehle kitab
mili jab tum unhein un ke mehar do qaid mein laate
hue na masti nikaalte aur na aashna banate aur jo
musalman se kafir hua uska kiya dhara sab akarat gaya
aur wo aakhirat mein zian kaar hai (5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
 الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
 فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ
 لِمَسْتُمِ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ
 أَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ
 لِيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

aye imaan waalo jab namaz ko khade hona chaho to apne moonh dho'o aur kehuniyo tak haath aur saro ka masah karo aur gatto tak paaon dho'o aur agar tumhein nahane ki haajat ho to khoob suthre ho lo aur agar tum beemar ya safar mein ho ya tum mein koi qaza -e- hajat se aaya ya tum ne aurato se sohbat ki aur in soorato mein paani na paaya to paak mitti se tayammum karo to apne moonh aur haatho ka usse masah karo, allah nahin chahta ke tum par kuchh tangi rakhe haan ye chahta hai ke tumhein khoob suthra kar de aur apni nemat tum par poori kar de ke kahin tum ehsan maano (6)

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَبْعُنَا وَ
 اَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾

aur yaad karo allah ka ehsan apne upar aur wo ahad jo usne tum se liya jabki tumne kaha humne suna aur maana aur allah se daro beshak allah dilo ki baat jaanta hai (7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَايُنْ
قَوْمٍ عَلَىٰ آَلَاءِ تَعَدَلُوا ۗ اذْعُدُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

aye imaan waalo allah ke hukm par khoob qaaim ho jao insaf ke saath gawahi dete aur tum ko kisi qaum ki adawat is par na ubhare ke insaf na karo, insaf karo, wo parhezgari se zyada qareeb hai aur allah se daro, beshak allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (8)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

iman waale nekokaaro se allah ka waada hai ke unke liye bakhshish aur bada sawaab hai (9)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٠﴾

aur wo jinhone kufr kiya aur humari aayatein jhutlai wahi dozakh waale hain (10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ

أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

aye imaan waalo allah ka ehsan apne upar yaad karo jab ek qaum ne chaha ke tum par dast darazi karein to usne un ke haath tum par se rok diye aur allah se daro aur musalmano ko allah hi par bharosa chahiye (11)

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ

اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۗ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ

عَزَّزْتُمْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ

لَا دَخِلْنَاكُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٧﴾

aur beshak allah ne bani israyeel se ahad liya aur humne un mein baarah sardaar qaaim kiye aur allah ne farmaya main beshak tumhare saath hoon zaroor agar tum namaz qaaim rakho aur zakaat do aur mere rasoolo par imaan laao aur unki tazeem karo aur allah ko qarze hasan do to beshak main tumhare gunah utaar dunga aur zaroor tumhein baagho mein le jaaunga jin ke niche nehrein hain, phir uske baad jo tum mein se kufir kare wo zaroor seedhi raah se behka

(12)

فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَتُهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ۙ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۚ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٨﴾

to un ki kaisi bad ahadiyo par humne unhein lanat ki aur unke dil sakht kar diye allah ki baato ko unke thikane se badalte hain aur bhula baithe bada hissa un naseehato ka jo unhein di gai aur tum humesha un ki ek na ek dagha par muttala hote rahoge siwa thodo ke to unhein muaaf kar do aur unse dar guzar karo beshak ehsan waale allah ko mahboob hain (13)

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ فَاعْرِضْنَا عَلَيْهِمُ الْعِدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

aur wo jinhone daawa kiya ke hum nasara hain hum ne unse ahad liya to wo bhula baithe bada hissa un nasihat ka jo unhein di gai to humne unke aapas mein qiyamat ke din tak ber aur bughz daal diya aur anqareeb allah unhein bata dega jo kuchh karte the

(14)

يَا هَلْ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَنَا يَبِينُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

aye kitab waalo beshak tumhare paas humare ye rasool tashreef laaye ke tum par zaahir farmate hain bahut si wo cheezein jo tumne kitab mein chhupa daali thi aur bahut si muaaf farmate hain beshak tumhare paas allah ki taraf se ek noor aaya aur raushan kitab

(15)

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

allah us se hidayat deta hai use jo allah ki marzi par chala salamati ke raste aur unhein andheriyo se raushni ki taraf le jaata hai apne hukm se aur unhein seedhi raah dikhata hai (16)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ⑩

beshak kafir hue wo jinhone kaha ke allah eisa bin maryam hi hai tum farma do phir allah ka koi kya kar sakta hai agar wo chahe ke halaak kar de maseeh bin maryam aur uski maa aur tamam zameen waalo ko aur allah hi ke liye hai saltanat aasmano aur zameen aur aur unke darmiyan ki jo chahe paida karta hai, aur allah sab kuchh kar sakta hai (17)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۗ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ⑩

aur yahoodi aur nasrani bole ke hum allah ke bete aur uske pyare hain tum farma do phir tumhein kyun tumhare gunaho par azaab farmata hai balki tum aadmi ho uski makhlooqaat se jise chahe bakhshta hai aur jise chahe saza deta hai aur allah hi ke liye hai saltanat aasmano aur zameen aur iske darmiyan ki aur usi ki taraf phirna hai (18)

يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يَبِيْنٌ لَّكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسْلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ ۗ وَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ⑩

قَدِيرٌ ⑩

aye kitab waalo beshak tumhare paas humare ye rasool tashreef laaye ke tum par humare ahkam zahir farmate hain baad iske ke rasoolo ka aana muddato band raha tha ke tum kaho ke humare paas koi khushi

aur dar sunane waala na aaya to ye khushi aur dar sunane waale tumhare paas tashreef laaye hain aur allah ko sab qudrat hai (19)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَ
جَعَلَ لَكُم مَّلُوكًا ۖ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠﴾

aur jab moosa ne kaha apni qaum se aye meri qaum allah ka ehsan apne upar yaad karo ke tum mein se paighambar kiye aur tumhein badshah kiya aur tumhein wo diya jo aaj saare jahaan mein kisi ko na diya (20)

يُقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتُدُّوا عَلَىٰ آذُنَائِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿٢١﴾

aye qaum is paak zameen mein dakhil ho jo allah ne tumhare liye likhi hai aur pichhe na palto ke nuqsan par paltoge (21)

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ۖ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنهَا ؕ
فَإِن يَخْرُجُوا مِنهَا فَإِنَّا دُخُلُونَ ﴿٢٢﴾

bole aye moosa is mein to bade zabardast log hain aur hum is mein hargiz dakhil na honge jab tak wo wahan se nikal na jaayein haan wo wahan se nikal jaayein to hum wahan jayenge (22)

قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا
دَخَلْتُمُوهُ فَانكُمُ غُلَبُونَ ؕ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾

do mard ke allah se darne waalo mein the allah ne

unhein nawaza bole ke zabardasti darwaze mein un par dakhil ho agar tum darwaze mein dakhil ho gaye to tumhara hi ghalaba hai aur allah hi par bharosa karo agar tumhein imaan hai (23)

قَالُوا يَمُوسَى إِنَّا لَنُؤْتِيكَ مَا تَدَّخُلْهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٣﴾

bole aye moosa hum to wahan kabhi na jayenge jab tak wo wahan hain to aap jaaiye aur aapka rab tum dono ka rab tum dono lado hum yahan baithte hain (24)

قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾
moosa ne arz ki ke aye rab mere mujhe ikhteyar nahin magar apna aur apne bhai ka to tu hum ko in be hukmo se juda rakh (25)

قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾

farmaya to wo zameen un par haraam hai chalis baras tak bhatakte phirein zameen mein to tum un be hukmo ka afsos na khao (26)

وَآتَىٰ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾

aur unhein padh kar sunao adam ke do bachho ki sachhi khabar jab dono ne ek ek niyaaz pesh ki to ek ki qabool hui aur dusre ki na qabool hui bola qasam hai main tujhe qatl kar dunga kaha allah usi se qabool

karta hai jise dar hai (27)

لَيْسَ بَسَطْتُ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

beshak agar tu apna haath mujh par badhayega ke mujhe qatl kare to main apna haath tujh par na badhaunga ke tujhe qatl karoon main allah se darta hoon jo malik saare jahaan ka (28)

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَإِثْمَكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُ
الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

main to ye chahta hoon ke mera aur tera gunaah dono tere hi palle pade to tu dozakhi ho jaaye aur be insafo ki yahi saza hai (29)

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَكَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٢﴾

to us ke nafs ne use bhai ke qatl ka chaaw dilaya to use qatl kar diya to reh gaya nuqsan mein (30)

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِئِي سَوْعَةَ أَخِيهِ ۖ قَالَ
يُورِيَلْتِي أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْعَةَ أَخِي ۚ فَأَصْبَحَ مِنَ
النَّدِيمِينَ ﴿٣٣﴾

to allah ne ek kawwa bheja zameen kuredta ke use dikhaye kyunkar apne bhai ki lash chhupaye bola haaye kharabi main is kawwe jaisa bhi na ho saka ke main apne bhai ki laash chhupata to pachhtata reh gaya (31)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۚ ۞ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ

فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَتْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ مَبِيتًا ۗ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ مَدْيَانَ فَاتَّخَذَ مِنْهَا سبْلًا خَالِدًا فِيهَا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

is sabab se hum ne bani israyeel par likh diya ke jisne koi jaan qatl ki baghair jaan ke badle ya zameen mein fasaad ke to goya usne sab logon ko qatl kiya aur jisne ek jaan ko jila liya usne goya sab logon ko jila liya aur beshak un ke paas humare rasool raushan daleelo ke saath aaye phir beshak un mein bahut us ke baad zameen mein zyadati karne waale (32)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَذُوا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

wo ke allah aur uske rasool se ladte aur mulk mein fasaad karte phirte hain unka badla yahi hai ke gin gin kar qatl kiye jaayein ya sooli diye jaayein ya un ke ek taraf ke haath aur dusri taraf ke paaon kaate jaayein ya zameen se door kar diye jaayein ye dunya mein unki ruswai hai aur aakhirat mein unke liye bada azaab (33)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدَرُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَاعْبُدُوا اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾
magar wo jinhone tauba kar li isse pehle ke tum un par qaabu paao jaan lo ke allah bakhshne waala meharbaan hai (34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٣٥﴾

aye imaan waalo allah se daro aur uski taraf wasila dhundo aur uski raah mein jihad karo is ummeed par ke falaah pao (35)

إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾

beshak wo jo kafir hue jo kuchh zameen mein sab aur uski barabar aur agar unki mulk ho ke use de kar qiyamat ke azaab se apni jaan chhudayein to unse na liya jayega aur unke liye dukh ka azaab hai (36)

يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوكَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾

dozakh se nikalna chahenge aur wo usse na niklenge aur unko dawami saza hai (37)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

aur jo mard ya aurat chor ho to un ka haath kaato unke kiye ka badla allah ki taraf se saza aur allah ghalib hikmat waala hai (38)

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾

to jo apne zulm ke baad tauba kare aur sanwar jaaye to allah apni muhar se us par ruju farmayega beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (39)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

kya tujhe maloom nahin ke allah ke liye hai aasmano aur zameen ki badshahi saza deta hai jise chahe aur bakhshata hai jise chahe aur allah sab kuchh kar sakta hai (40)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا
بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ۗ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا ۗ سَبَّحُونَ لِلْكَذِبِ
سَبْحُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ ۗ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يَحْرِفُونَ الْكَلِمَةَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۗ
يَقُولُونَ إِنْ أُوتِينَا هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَاخْذَرُوا ۗ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ
فَلَنْ تَبْلُوكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ ۗ
لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٠﴾

aye rasool tumhein ghamgeen ka karein wo jo kufr par daudte hain kuchh wo jo apne moonh se kehte hain hum imaan laaye aur unke dil musalman nahin aur kuchh yahoodi jhoot khoob sunte hain aur logon ki khoob sunte hain jo tumhare paas haazir na hue allah ki baato ko unke thikano ke baad badal dete hain kehte hain ye hukm tumhein mile to maano aur ye na mile to bacho aur jise allah gumrah karna chahe to hargiz tu allah se uska kuchh bana na sakega wo hain ke allah ne un ka dil paak karna na chaha unhein dunya mein ruswai hai, aur unhein aakhirat mein bada azaab (41)

سَبَّحُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

bade jhoot sunne waale bade haramkhor to agar tumhare huzoor haazir ho to un mein faisla farmao ya unse moonh pher lo aur agar tum unse moonh pher loge to wo tumhara kuchh na bigadenge aur agar un mein faisla farmao to insaf se faisla karo beshak insaf waale allah ko pasand hain (42)

وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ط
وَمَا أَوْلَىٰ لَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾

aur wo tumse kyunkar faisla chahenge, halanki unke paas taurait hai jis mein allah ka hukm maujood hai ba'in hama usi se moonh pherte hain aur wo imaan laane waale nahin (43)

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۖ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا ۗ وَالرَّبِّينِيُّونَ ۗ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ؕ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ ۖ وَاحْشَوْنِي ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ط وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

beshak hum ne taurait utaari us mein hidayat aur noor hai, uske mutabiq yahood ko hukm dete the humare farmanbardar nabi aur aalim aur faqeeh ke unse kitabullah ki hifazat chahi gai thi aur wo us par gawah the logon se khauf na karo aur mujh se daro aur meri aayato ke badle zaleel qeemat na lo aur jo allah ke utaare par hukm na kare wahi log kafir hain (44)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۖ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ۖ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ۖ
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ ۖ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۖ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
 لَهُ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

aur humne taurait mein un par wajib kiya ke jaan ke badle jaan aur aankh ke badle aankh aur naak ke badle naak aur kaan ke badle kaan aur daant ke badle daant aur zakhmo mein badla hai phir jo dil ki khushi se badla karawe to wo uska gunah utaar dega aur jo allah ke utaare par hukm na kare to wahi log zaalim hain

(45)

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۗ
 وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ۗ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى
 وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾

aur hum ne un nabiyo ke pichhe unke nishane qadam par eisa bin maryam ko laaye tasdeeq karta hua taurait ki jo usse pehle thi aur humne use injeel ata ki jis mein hidayat aur noor hai aur tasdeeq farmati hai taurait ki ke usse pehle thi aur hidayat aur naseehat parhezgaro

ko (46)

وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

aur chahiye ke injeel waale hukm karein us par jo allah ne us mein utara aur jo allah ke utaare par hukm na karein to wahi log fasiq hain (47)

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

aur aye mahboob humne tumhari taraf sachhi kitab
utaari agli kitabo ki tasdeeq farmati aur un par muhafiz
wa gawah to un mein faisla karo allah ke utaare se aur
aye sunne waale unki khwahisho ki pairwi na karna
apne paas aaya hua haq chhod kar humne tum sab ke
liye ek ek shariat aur rasta rakha aur allah chahta to
tum sab ke liye ek hi ummat kar deta magar manzoor
ye hai ke jo kuchh tumhein diya us mein tumhein
aazmaye to bhalaiyo ki taraf sabqat chaho, tum sab ka
phirna allah hi ki taraf hai to wo tumhein bata dega jis
baat mein tum jhagadte the (48)

وَأِنْ أَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

aur ye ke aye musalman allah ke utaare par hukm kar
aur unki khwahisho par na chal aur unse bachta rah ke
kahin tujhe laghzhish na de dein kisi hukm mein jo teri
taraf utra phir agar wo moonh pherein to jaan lo ke
allah unke baaz gunaho ki saza unko pahunchaya

chahta hai aur beshak bahut aadmi be hukm hain (49)

أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۖ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤٩﴾

to kya jahiliyat ka hukm chahte hain aur allah se behtar
kis ka hukm yaqeen waalo ke liye (50)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ مَبْغُضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

aye imaan waalo yahoodo nasara ko dost na banao wo
aapas mein ek dusre ke dost hain aur tum mein jo koi
unse dosti rakhega to wo unhi mein se hai beshak
allah be insafo ko raah nahin deta (51)

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا
دَائِرَةٌ ۗ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي
أَنْفُسِهِمْ نُدَمِيينَ ﴿٥١﴾

ab tum unhein dekhoge jin ke dilo mein aazar hai ke
yahoodo nasara ki taraf daudte hain kehte hain hum
darte hain ke hum par koi gardish aa jaaye to nazdeek
hai ke allah fatah laaye ya apni taraf se koi hukm phir
us par jo apne dilo mein chhupaya tha pachhtate reh
jaayein (52)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ ۖ إِنَّهُمْ لَبَعَكُمْ ۗ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خُسْرِيْنَ ﴿٥٢﴾

aur imaan waale kehte hain kya yahi hain jinhone allah
ki qasam khai thi apne halaf mein पूरी koshish se ke
wo tumhare saath hain unka kiya dhara sab akarat

gaya to reh gaye nuqsan mein (53)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ
يُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا
يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۗ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

aye imaan waalo tum mein jo koi apne deen se phirega
to anqareeb allah aise log layega ke wo allah ke pyare
aur allah unka pyara musalmano par narm aur kafiro
par sakht allah ki raah mein ladenge aur kisi malammat
karne waale ki malammat ka andesha na karenge ye
allah ka fazl hai jise chahe de, aur allah wus'at waala
ilm waala hai (54)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٤﴾

tumhare dost nahin magar allah aur uska rasool aur
imaan waale ke namaz qaaim karte hain aur zakaat
dete hain aur allah ke huzoor jhuke hue hain (55)

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٥﴾

aur jo allah aur uske rasool aur musalmano ko apna
dost banaye to beshak allah hi ka giroh ghalib hai (56)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَكِبْرًا مِنَ الَّذِينَ
أَوْثُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

aye imaan waalo jinhone tumhare deen ko hansa khel
bana liya hai wo jo tumse pehle kitab diye gaye aur
kafir un mein kisi ko apna dost na banao aur allah se

darthe raho agar imaan rakhte ho (57)

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٧﴾

aur jab tum namaz ke liye azaan do to use hansni khel banate hain ye isliye ke wo nire be aql log hain (58)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنِّي إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ

مِنْ قَبْلُ ۗ وَأَنْ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٩﴾

tum farmao aye kitabiyo tumhein humara kya bura laga yahi na ke hum imaan laaye allah par aur us par jo humari taraf utra aur us par jo pehle utra aur ye ke tum mein aksar be hukm hain (59)

قُلْ هَلْ أَنْبِئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَعَظِبَ عَلَيْهِ وَ

جَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۗ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن

سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾

tum farmao kya main bata doon jo allah ke yahan usse badtar darja mein hain wo jin par allah ne lanat ki aur un par ghazab farmaya aur un mein se kar diye bandar aur suwar aur shaitan ke pujari unka thikana zyada bura hai aur ye seedhi raah se zyada behke (60)

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ ۗ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

aur jab tumhare paas aayein to kehte hain hum musalman hain aur wo aate waqt bhi kafir the aur jaate waqt bhi kafir aur allah khoob jaanta hai jo chhupa rahe hain (61)

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ ۗ لَبِئْسَ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

aur un mein tum bahuto ko dekhoge ke gunah aur zyadati aur haraamkhori par daudte hain beshak bahut hi bure kaam karte hain (62)

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبُّنَّبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ ۗ لَبِئْسَ
مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

unhein kyun nahin mana karte unke padri aur darwesh gunah ki baat kehne aur haraam khane se, beshak bahut hi bure kaam kar rahe hain (63)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ دِيْدُ اللَّهِ مَغْلُوْلَةٌ ۗ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَارْتَبَتْ أَلْسِنُهُمْ لَمَّا قَالُوا لِمَ لَمْ يَأْتِ
رَبَّنَا بِآيَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ ۗ وَنَحْنُ نَعْتَدُ رَبَّنَا بِمَا هِيَ آيَاتُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٤﴾
رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ وَالْقَيْنَاتُ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ كُلَّمَا
أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ۗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٥﴾

aur yahoodi bole allah ka haath bandha hua hai unhi ke haath baandhe jaayein aur un par is kehne se lanat hai balki uske haath kushada hain ata farmata hai jaise chahe aur aye mahboob ye jo tumhari taraf tumhare rab ke paas se utra is se in mein bahuto ko shararat aur kufir mein taraqqi hogi aur un mein humne qiyamat tak aapas mein dushmani aur ber daal diya jab kabhi ladai ki aag bhadkate hain allah use bujha deta hai aur zameen mein fasaad ke liye daudte phirte

hain, allah fasadiyo ko nahin chahta (64)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّتٍ

التَّعِيمِ ﴿٦٤﴾

aur agar kitab waale imaan laate aur parhezgari karte to zaroor hum unke gunah utaar dete aur zaroor unhein chain ke baagho mein le jaate (65)

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ۗ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا

يَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾

aur agar qaaim rakhte taurait aur injeel aur jo kuchh unki taraf unke rab ki taraf se utra to unhein rizq milta upar se aur unke paaon ke niche se un mein koi giroh etidal par hai aur un mein aksar bahut hi bure kaam kar rahe hain (66)

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٦﴾

aye rasool pahuncha do jo kuchh utra tumhein tumhare rab ki taraf se aur aisa na ho to tum ne uska koi payaam na pahunchaya aur allah tumhari nighbani karega logon se beshak allah kafiro ko raah nahin deta (67)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۗ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾

tum farma do aye kitabiyo tum kuchh bhi nahin ho jab tak na qaaim karo taurait aur injeel aur jo kuchh tumhari taraf tumhare rab ke paas se utra aur beshak aye mahboob wo jo tumhari taraf us se un mein bahuto ko shararat aur kufr ki aur taraqqi hogi to tum kafiro ka kuchh gham na khao (68)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصْرِيُّ مَنْ أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

beshak wo jo apne aap ko musalman kehte hain aur isi tarah yahoodi aur sitara parast aur nasrani un mein jo koi sachhe dil se allah wa qiyamat par imaan laaye aur achha kaam kare to un par na kuchh andesha hai aur na kuchh gham (69)

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا قُلِّمًا جَاءَهُمْ رَسُولٌ
بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

beshak humne bani israyeel se ahad liya aur unki taraf rasool bheje, jab kabhi unke paas koi rasool wo baat le kar aaya jo unke nafs ki khwahish na thi ek giroh ko jhutlaya aur ek giroh ko shaheed karte hain (70)

وَحَسِبُوا إِلَّا تَكُونُ فِتْنَةً فَعَمُوا وَصَبُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَبُّوا
كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

aur is gumaan mein rahe ke koi saza na hogi to andhe aur behre ho gaye phir allah ne un ki tauba qabool ki phir un mein bahutere andhe aur behre ho gaye aur allah unke kaam dekh raha hai (71)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ۝

beshak kafir hain wo jo kehte hain ke allah wahi maseeh mayam ka beta hai aur maseeh ne to ye kaha tha aye bani israyeel allah ki bandagi karo jo mera rab aur tumhara rab beshak jo allah ka shareek thehraye to allah ne us par jannat haraam kar di aur uska thikana dozakh hai aur zalimo ka koi madadgar nahin

(72)

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثٌ ثَلَاثَةٌ ۗ وَمَا مِنَ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ وَإِن لَّمْ
يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَبَسِّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابَ أَلِيمٍ ۝

beshak kafir hain wo jo kehte hain allah teen khudao mein ka teesra hai aur khuda to nahin magar ek khuda aur agar apni baat se baaz na aaye to jo un mein kafir marenge unko zaroor dardnak azaab pahunchega (73)

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

to kyun nahin ruju karte allah ki taraf aur usse bakhshish maangte aur allah bakhshne waala meharbaan hai (74)

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۗ
كَانَا يَأْكُلَنِ الطَّعَامَ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝

maseeh ibne maryam nahin magar ek rasool usse pehle bahut rasool ho guzre aur uski maa siddiqa hai

dono khana khate the dekho to hum kaisi saaf nishaniya unke liye bayaan karte hain phir dekho wo kaise aundhe jaate hain (75)

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْبَغُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۗ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٥﴾

tum farmao kya allah ke siwa aise ko pujte ho jo tumhare nuqsan ka malik na nafa ka aur allah hi sunta jaanta hai (76)

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٦﴾

tum farmao aye kitab waalo apne deen mein nahaq zyadati na karo aur aise logon ki khwahish par na chalo jo pehle gumrah ho chuke aur bahuto ko gumrah kiya aur seedhi raah behak gaye (77)

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٧﴾

lanat kiye gaye wo jinhone kufr kiya bani israyeel mein dawood aur eisa bin maryam ki zubaan par ye badla unki nafarmani aur sarkashi ka (78)

كَانُوا إِلَّا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٨﴾

jo buri baat karte aapas mein ek dusre ko na rokthe zaroor bahut hi bure kaam karte the (79)

تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٧٩﴾

un mein tum bahut ko dekhoge ke kafiro se dosti karte hain, kya hi buri cheez apne liye khud aage bheji ye ke allah ka un par ghazab hua aur wo azaab mein humesha rahenge (80)

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٨٠﴾

aur agar wo imaan laate allah aur un nabi par aur us par jo unki taraf utra to kafiro se dosti na karte magar un mein to bahutere fasiq hain (81)

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨١﴾

zaroor tum musalmano ka sab se badh kar dushman yahoodiyo aur mushriko ko paoge aur zaroor tum musalmano ki dosti mein sabse zyada qareeb unko paoge jo kehte the hum nasara hain ye isliye ke in mein aalim aur darwesh hain aur ye ghuroor nahin karte (82)

Saatwa Paarah

وَإِذَا سَبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾

aur jab sunte hain wo jo rasool ki taraf utra to unki aankhen dekho ki aansuon se ubal rahi hain, isliye ki wo haqq ko pehchan gaye, kehte hain ay rabb hamare hum imaan laye tu hame haqq ke gawaho me likh le.(83)

وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۖ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ
الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾

aur hume kya hua ki hum imaan na layen allah par aur us haqq par ki humare paa aaya aur hunm tam'a karte hain ki hume hamara rabb nek logon ke sath dakhil kare.(84)

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ
جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾

to allah ne unke us kehne ke badle unhe baagh diye jinke neeche nehre nehren rawaan hamesha unme rahenge, ye badla hai neko ka.(85)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾

aur wo jinhone kufr kiya aur hamari aayaten jhutlayi wo hain dozakh wale.(86)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

ay imaan walon! haram na thehro wo suthri cheezen ki allah ne tumhare liye halal kin, aur hadd se na badho beshak hadd ze badhne wale allah ko napasand hain.(87)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

aur khao jo kuchh tumhen allah me rozi do halaal pakiza aur daro allah se jis par tumhen imaan hai.(88)

لَا يُؤْخَذُ كُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ۖ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

allah tumhen nahi pakadta tumhari galat fahmi ki qasmo par, haan un qasmon par girift farmata hai jinhe tumne mazboot kiya, to aisi qasam ka badla das(10) miskeeno ko khana dena apne ghar walon ko jo khilate ho uske ausat me se, ya unhen kapde dena ya ek barda aazad karna to jo unme se kuchh na paye to teen din ke roze, ye badla hai tumhari qasmo ka jab qasam khao aur apni qasmo ki hifazat karo isi tarah allah tumse apni aayaten bayan farmata hai ki kahin tum ehsan mano.(89)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

ay imaan walon! sharaab aur jua aur but aur paase napaak hi hain shaitani kaam to unse bachte rehna ki tum falaah pao.(90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ
يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

shaitan to yahi chahta hai ki tum me bair aur dushmani dalwa de, sharaab aur jue me aur tumhen allah ki yaad aur namaz se roke, to kya tum baaz aaye (91)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى
رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

aur hukm mano allah ka aur hukm mano rasool ka aur hoshiyar raho fir agar tum phir jao, to jaan lo ki hamare rasool ka zimma sirf wazeh taur par hukm pahucha dena hai.(92)

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

jo imaan laye aur nek kaam kiye un par kuchh gunah nahi hai, ji kuchh unhone chakha jab ki daren aur imaan rakhen aur nekiyan karen fir daren, aur imaan rakhen fir daren, aur nek rahen aur allah nekon ko dost rakhta hai.(93)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْيَبْلُوتُكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ
لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾

ay imaan walon zaroor allah tumhen aazmayega, aise baaz shikar se jis tak tumhare hath aur neze pahuchen ki allah pehchan kara de unki jo usse bin dekhe darte hain, fir uske baad jo hadd se badhe uske liye dardnaak azaab hai.(94)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَدِّيًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ
كَفَّارَةً طَعَامًا مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لَّيْدُوقَ وَبِالْأَمْرِ ۗ طَعَفَا اللَّهُ عَمَّا
سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

aye imaan waalo shikar na maaro jab tum ehram mein ho aur tum mein jo use qasdan qatl kare to uska badla ye hai ke waisa hi janwar maweshi se de tum mein ke do siqah aadami us ka hukm karein ye qurbani ho kaaba ko pahunchti ya kaffara de chand miskeeno ka khana ya uske barabar roze ke apne kaam ka wabaal chakhe allah ne muaaf kiya jo ho guzra aur jo ab karega allah us se badla lega aur allah ghalib hai badla lene waala (95)

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

halaal hai tumhare liye darya ka shikar aur uska khana tumhare musafiro ke faide ko aur tum par haraam hai

khushki ka shikar jab tak tum ehram mein ho aur allah se daro jiski taraf tumhein uthna hai (96)

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٦﴾

allah ne adab waale ghar kaaba ko logon ke qiyaam ka baais kiya aur hurmat waale mahine aur haram ki qurbani aur gale mein alamat aawaza'n janwaro ko ye isliye ke tum yaqeen karo ke allah jaanta hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein aur ye ke allah sab kuchh jaanta hai (97)

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٧﴾

jaan rakho ke allah ka azaab sakht hai aur allah bakhshne waala meharbaan (98)

مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَوَنُّونَ ﴿٩٨﴾

rasool par nahin magar hukm pahunchana aur allah janta hai jo tum zaahir karte aur jo tum chhupate ho (99)

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٩﴾

tum farma do ke suthra aur ganda barabar nahin agarche tujhe gande ki kasrat bhaaye to allah se darte raho aye aql waalo ke tum falaah pao (100)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ؕ وَإِن تَسْأَلُوا

عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ ط عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

aye imaan waalo aisi baatein na puchho jo tum par zaahir ki jaayein to tumhein buri lagein aur agar unhein us waqt puchhoge ke quran utar raha hai to tum par zaahir kar di jayengi allah unhein muaaf farma chuka hai aur allah bakhshne waala hilm waala hai

(101)

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ۝

tum se agli ek qaum ne unhein puchha phir unse munkir ho baithe (102)

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا حَامٍ ۖ وَلِئِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

allah ne muqarrar nahin kiya hai kaan chira hua aur na bazaar aur na washila aur na haami haan kafir log allah par jhoota iftera bandhte hain aur un mein aksar nire

be aql hain (103)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا

عَلَيْهِ آبَاءَنَا ط أُولَٰئِكَ هُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ۝

aur jab unse kaha jaaye aao us taraf jo allah ne utara aur rasool ki taraf kahein humein wo bahut hai jis par humne apne baap dada ko paaya kiya agarche unke baap dada na kuchh jaanein na raah par ho (104)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط إِلَىٰ

اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

aye imaan waalo tum apni fikr rakho tumhara kuchh na bigadega jo gumrah hua jab ke tum raah par ho tum sab ki ruju allah hi ki taraf hai phir wo tumhein bata dega jo tum karte the (105)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أُخْرَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۖ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا
نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا تَكُفِّرُ شَهَادَةُ ۗ اللَّهُ إِنَّا إِذَا لَلِينِ الْإِثْمِينَ ۝

aye imaan waalo tumhari aapas ki gawahi jab tum mein kisi ko maut aaye wasiyat karte wawt tum mein ke do motabar shakhs hain ya ghairo mein ke do jab tum mulk mein safar ko jao phir tumhein maut ka hadisa pahunche un dono ko namaz ke baad roko wo allah ki qasam khayein agar tumhein kuchh shak pade hum halaf ke badle kuchh maal na khareedenge agarche qurb ka rishtedar ho aur allah ki gawahi na chhupayenge aisa karein to hum zaroor gunahgaro mein hain (106)

فَإِنْ عَثَرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّاهُمَا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنْ مَّقَامِهِمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ
عَلَيْهِمُ الْأُولَىٰ ۖ فَيُقْسِمُنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ۗ
إِنَّا إِذَا لَلِينِ الظُّلْمِيِّينَ ۝

phir agar pata chale ke wo kisi gunah ke sazawaar huye to unki jagah do aur khade ho un mein se ke is gunaah yaani jhooti gawahi ne unka haq le kar unko nuqsan pahunchaya jo mayyit se zyada qareeb ho to

allah ki qasam khayein ke humari gawahi zyada theek hai un do ki gawahi se aur hum hadd se na badhe aisa ho to hum zalimo mein ho'n (107)

ذَلِكَ أَذْنِي أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهَهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ آيْمَانُ بَعْدَ آيْمَانِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٧﴾

ye qareeb tar hai isse ke gawahi jaisi chahiye ada karein ya darein ke kuchh qasmein radd kar di jaayein un ki qasmo ke baad aur allah se daro aur hukm suno aur allah be hukmo ko raah nahin deta (108)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۗ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٨﴾

jis din allah jama farmayega rasoolo ko phir farmayega tumhein kya jawab mila arz karenge humein kuchh ilm nahin beshak tu hi hai sab ghaibo ka khoob janne waala (109)

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ادْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۗ وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۗ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأِذْنِي ۗ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأِذْنِي ۗ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٩﴾

jab allah farmayega aye maryam ke bete eisa yaad kar mera ehsan apne upar aur apni maa par jab maine paak rooh se teri madad ki to logon se baatein karta

paalne mein aur pakki umr ka ho kar aur jab maine
tujhe sikhai kitab aur hikmat aur taurait aur injeel aur
jab tu mitti se parind ki si maut mere hukm se banata
phir us mein phoonk maarta to wo mere hukm se
udne lagti aur tu madarzaad andhe aur safed daagh
waale ko mere hukm se shifa deta aur jab tu murdo ko
mere hukm se zinda nikaalta aur jab maine bani
israyeel ko tujh se roka jab tu unke paas raushan
nishaniya le kar aaya to un mein ke kafir bole ke ye to
nahin magar khula jadu (110)

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۗ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا
مُسْلِمُونَ ﴿١١٠﴾

aur jab maine hawariyo ke dil mein daala ke mujh par
aur mere rasool par imaan laao bole hum imaan laaye
aur gawah reh ke hum musalman hain (111)

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ لِيَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِّنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

jab hawariyo ne kaha aye eisa bin maryam kya aapka
rab aisa karega ke hum par aasman se ek khwaan
utaare kaha allah se daro agar imaan rakhte ho (112)

قَالُوا أُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَحْطَبَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا
مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٢﴾

bole hum chahte hain ke us mein se khayein aur
humare dil thehrein aur hum aankho dekh lein ke aap
ne humse sach farmaya aur hum is par gawah ho

jaayein (113)

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا
عِيدًا لَأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۗ وَارزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿١١٣﴾

eisa ibne maryam ne arz ki aye allah aye rab humare hum par aasman se ek khwaan utaar ke wo humare liye eid ho humare agle pichhlo ki aur teri taraf se nishani aur humein rizq de aur tu sab se behtar rozi dene waala hai (114)

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ
أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٤﴾

allah ne farmaya ke main use tum par utaarta hoon phir ab jo tum mein kufr karega to beshak main use wo azaab dunga ke saare jahaan mein kisi par na karunga (115)

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ الْهَيْنِ مِنْ
دُونِ اللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ۗ إِن كُنْتُ
قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۗ تَتَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ ﴿١١٥﴾

aur jab allah farmayega aye maryam ke bete eisa kya toone logon se keh diya tha ke mujhe aur meri maa ko do khuda bana lo allah ke siwa arz karega paaki hai tujhe mujhe rawa nahin ke wo baat kahoon jo mujhe nahin pahunchti agar maine aisa kaha to zaroor tujhe maloom hoga tu jaanta hai jo mere jee mein hai aur

main nahin jaanta jo tere ilm mein hai beshak tu hi hai
sab ghaibo ka khoob janne waala (116)

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۗ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۗ وَأَنْتَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٦﴾

maine to unse na kaha magar wahi jo mujhe tune
hukm diya tha ke allah ko pujo jo mera bhi rab aur
tumhara bhi rab aur main un par muttala tha jab tak
main un mein raha phir jab toone mujhe utha liya to tu
hi un par nigah rakhta tha aur har cheez tere saamne
haazir hai (117)

إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ ۗ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٧﴾
agar tu unhein azaab kare to wo tere bande hain aur
agar tu unhein bakhsh de to beshak tu hi hai ghalib
hikmat waala (118)

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۗ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿١١٨﴾

allah ne farmaya ke ye hai wo din jis mein sachho ko
un ka sach kaam aayega un ke liye baagh hain jin ke
niche nehrein rawaan humesha humesha un mein
rahenge allah unse raazi aur wo allah se raazi ye hai
badi kamyabi (119)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١١٩﴾

allah hi ke liye hai aasmano aur zameen aur jo kuchh un mein hai sab ki saltanat aur wo har cheez par qadir hai (120)

Suratul Anaam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۗ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

sab khoobiya allah ko jisne aasman aur zameen banaye aur andheriya aur raushni paida ki is par kafir log apne rab ke barabar thehrate hain (1)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ۗ وَأَجَلٌ مُّسَمًّىٰ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ۝

wahi hai jisne tumhein mitti se paida kiya phir ek miyaad ka hukm rakha aur ek muqarrar waada uske yahan hai phir tum log shak karte ho (2)

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ۗ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۝

aur wahi allah hai aasmano ka aur zameen ka use tumhara chhupa aur zahir sab maloom hai aur tumhare kaam jaanta hai (3)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝

aur unke paas koi bhi nishani unke rab ki nishaniyo se nahin aati magar us se moonh pher lete hain (4)

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾

to beshak unhone haq ko jhutlaya jab unke paas aaya to ab unhein khabar hua chahti hai us cheez ki jis par hans rahe the (5)

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ

وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا ۖ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ

فَأَهْلَكْنَاهُمْ بَدُنُوهُمْ وَآَنَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٦﴾

kya unhone na dekha ke humne unse pehle kitni sangatein khapa di unhein humne zameen mein wo jamaao diya jo tum ko na diya aur un par moosla dhaar paani bheja aur unke niche nehrein bahaai to unhein humne unke gunaho ke sabab halaak kiya aur unke baad aur sangat uthai (6)

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا

إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾

aur agar hum tum par kaghaz mein kuchh likha hua utaarte ke wo use apne haatho se chhute jab bhi kafir kehte ke ye nahin magar khula jaadu (7)

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْآمْرُ لَكُمْ لَوْلَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾

aur bole un par koi firishta kyun na utara gaya aur agar hum firishta utaarte to kaam tamam ho gaya hota phir

unhein mohlat na di jaati (8)

وَأَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ ﴿١٠﴾

aur agar hum nabi ko firishta karte jab bhi use mard hi banate aur un par wahi shubha rakhte jis mein ab pade hain (9)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُمْ بِرُسُلِي مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾

aur zaroor aye mahboob tum se pehle rasoolo ke saath bhi thatta kiya gaya to wo jo unse hanste the unki hanshi unhi ko le baithi (10)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ﴿١٢﴾

tum farma do zameen mein sair karo phir dekho ke jhutlane waalo ka kaisa anjaam hua (11)

قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۗ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٣﴾

tum farmao kis ka hai jo kuchh aasmano aur zameen mein hai tum farmao allah ka hai usne apne karam ke zimma par rahmat likh li hai beshak zaroor tumhein qiyamat ke din jama karega is mein kuchh shak nahin wo jinhone apni jaan nuqsan mein daali imaan nahin laate (12)

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٤﴾

aur usi ka hai jo kuchh basta hai raat aur din mein aur

wahi hai sunta jaanta (13)

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ اتَّخِذْ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ
إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

tum farmao kya allah ke siwa kisi aur ko waali banaaun
wo allah jisne aasman wa zameen paida kiye aur wo
khilata hai aur khane se paak hai tum farmao mujhe
hukm hua hai ke sab se pehle gardan rakhu aur hargiz
shirk waalo mein na hona (14)

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

tum farmao agar main apne rab ki nafarmani karoon
to mujhe bade din ke azaab ka dar hai (15)

مَنْ يُصِرْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ۗ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْبُيِّنُ ۝

us din jis se azaab pher diya jaaye zaroor us par allah ki
muhar hui aur yahi khuli kamyabi hai (16)

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

aur agar tujhe allah koi burai pahunchaye to uske siwa
uska door karne waala nahin aur agar tujhe bhalai
pahunchaye to wo sab kuchh kar sakta hai (17)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

aur wahi ghalib hai apne bando par aur wahi hai
hikmat waala khabardar (18)

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ ۖ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا
الْقُرْآنِ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ ۗ وَمَنْ بَلَغَ ۗ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۗ

قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

tum farmao sab se badi gawahi kis ki tum farmao allah gawah hai mujh mein aur tum mein aur meri taraf is quraan ki wahih hui hai kr main is se tumhein daraaon aur jin jin ko pahunche to kya tum ye gawahi dete ho ke allah ke saath aur khuda hain tum farmao ke main ye gawahi nahin deta tum farmao ke wo to ek hi mabood hai aur main bezaar hoon unse jin ko tum shareek thehrate ho (19)

الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

jin ko humne kitab di us nabi ko pehchante hain jaisa apne beto ko pehchante hain jinhone apni jaan nuqsan mein daali wo imaan nahin laate (20)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾

aur usse badh kar zalim kaun jo allah par jhoot bandhe ya us ki aayatein jhutlaye beshak zalim falaah na payenge (21)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾

aur jis din hum sab ko uthhayenge phir mushriko se farmayenge kahan hain tumhare wo shareek jin ka tum daawa karte the (22)

ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

phir un ki kuchh banawat na rahi magar ye ke bole humein apne rab allah ki qasam ke hum mushrik na the (23)

أَنْظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٣﴾

dekho kaisa jhoot bandha apne upar aur gum gai unse jo baatein banate the (24)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا طَحْتَىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

aur un mein koi wo hai jo tumhari taraf kaan lagata hai aur humne un kr dilo par ghilaf kar diye hain ke use na samjhein aur unke kaano mein teent aur agar saari nishaniya dekhein to un par imaan na laayenge yahan tak ke tumhare huzoor tumse jhagadte haazir ho'n to kafir kahein ye to nahin magar aglo ki daastanein (25)

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ ۗ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

aur wo is se rokhte aur isse door bhagte hain aur halaak nahin karte magar apni jaanein aur unhein shu'oor nahin (26)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَتْ نَارُ دُونِهَا وَلَا نُكَدِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

aur kabhi tum dekho jab wo aag par khade kiye jayenge to kahenge kaash kisi tarah hum wapas jaayein aur apne rab ki aayatein na jhutlayein aur musalman ho jaayein (27)

بَلْ بَدَأَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾

balki un par khul gaya jo pehle chhupate the aur agar wapas bheje jaayein to phir wahi karein jisse mana kiya gaye the aur beshak wo zaroor jhoote hain (28)

وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

aur bole wo to yahi humari dunya ki zindagi hai aur humein uthna nahin (29)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ الْكَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٠﴾

aur kabhi tum dekho jab apne rab ke huzoor khade kiye jaayenge farmayega kya ye haq nahin kahenge kyun nahin humein apne rab ki qasam farmayega to ab azaab chakho badla apne kufr ka (30)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِيَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ۗ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾

beshak haar mein rahe wo jinhone apne rab se milne ka inkar kiya yahan tak ke jab un par qiyamat achanak aa gai bole haaye afsos humara is par ke uske maanne mein taqseer ki aur wo apne bojh apni peeth par laade hue hain are kitna bura bojh uthate hain (31)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

aur dunya ki zindagi nahin magar khel kood beshak
pichhla ghar bhala unke liye jo daudte hain to kya
tumhein samajh nahin (32)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ
اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٢﴾

humein maloom hai ke tumhein ranj deti hai wo baat
jo ye keh rahe hain to wo tumhein nahin jhutlate balki
zalim allah ki aayato se inkar karte hain (33)

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنْتَهُمُ نَصْرًا ؕ
وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ؕ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾

aur tum se pehle rasool jhutlaye gaye to unhone sabr
kiya is jhutlane aur izaayein paane par yahan tak ke
unhein humari madad aai aur koi allah ki baatein
badalne waala koi nahin aur tumhare paas rasoolo ki
khabrein aa hi chuki hain (34)

وَإِنْ كَانَ كِبُرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا
فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْجَاهِلِينَ ﴿٣٤﴾

aur agar un ka moonh pherna tum par shaaq guzra hai
to agar tum se ho sake to zameen mein koi surang
talash kar lo ya aasman mein zeena phir un ke liye
nishani le aao aur allah chahta to unhein hidayat par
ikaththa kar deta to aye sunne waale tu hargiz nadaan
na ban (35)

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

maante to wahi hain jo sunte hain aur un murda dilo ko allah uthayega phir uski taraf haanke jayenge (36)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ طُفُلًا إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾

aur bole un par koi nishani kyun na utri unke rab ki taraf se tum farmao ke allah qadir hai ke koi nishani utare lekin un mein bahut nire jahil hain (37)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا

فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

aur nahin koi zameen mein chalne waala aur na koi parind ke apne paro udta hai magar tum jaisi ummatein humne us kitab mein kuchh utha na rakha phir apne rab ki taraf uthaye jayenge (38)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۗ وَ مَنْ يَشَأِ

يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

aur jinhone humari aayatein jhutlayi behre aur goonge hain andhero mein allah jise chahe gumrah kare aur jise chahe seedhe raste daal de (39)

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ ؕ إِنْ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

tum farmao bhala batao to agar tum par allah ka azaab aaye ya qiyamat qaaim ho kya allah ke siwa kisi aur ko pukaroge agar sachhe ho (40)

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤١﴾

balki usi ko pukaroge to wo agar chahe jis par use pukarte ho use utha le aur shareeko ko bhool jaoge

(41)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

يَتَضَرَّرُونَ ﴿٤٢﴾

aur beshak humne tumse pehli ummato ki taraf rasool bheje to unhein sakhti aur takleef se pakda ke wo kisi tarah gidgidayein (42)

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّرُوا وَلَكِنَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

to kyun na ho ke jab un par humara azaab aaya to gidgidaye hote lekin un ke to dil sakht ho gaye aur shaitan ne unke kaam unki nighah mein bhale kar dikhaye (43)

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا

أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاذًا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾

phir jab unhone bhula diya jo naseehatein un ko ki gai thi hum ne un par har cheez ke darwaze khol diye yahan tak ke jab khush hue us par jo unhein mila to humne achanak unhein pakad liya ab wo aas toote reh gaye (44)

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾

to jad kaat di gai zalimo ki aur sab khoobiyo saraha

allah rab saare jahaan ka (45)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَابْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ
اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ۗ أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرِفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصِدِفُونَ ﴿٤٥﴾

tum farmao bhala batao to agar allah tumhare kaan
aankh le le aur tumhare dilo par muhar kar de to allah
ke siwa kaun khuda hai ke tumhein ye cheezein la de
dekho hum kis rang se aayatein bayaan karte hain phir
wo moonh pher lete hain (46)

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ
الظَّالِمُونَ ﴿٤٦﴾

tum farmao bhala batao to agar tum par allah ka azaab
aaye achanak ya khullam khulla to kaun tabah hoga
siwa zalimo ke (47)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ فَمَنْ أَمِنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٧﴾

aur hum nahin bhejte rasoolo ko magar khushi aur dar
sunate to jo imaan laaye aur sanwre unko kuchh
andesha na kuchh gham (48)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَسُخِّمُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٨﴾

aur jinhone humari aayatein jhutlaai unhein azaab
pahunchega badla unki be hukmi ka (49)

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ۚ
إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

tum farma do main tumse nahin kehta mere paas allah

ke khazane hain aur na ye kahoon ke main aap ghaib jaan leta hoon aur na tum se ye kahoon ke main firishta hoon main to usi ka taabe hoon jo mujhe wahih aati hai tum farmao kya barabar ho jayenge andhe aur ankhyare to kya tum ghaur nahin karte (50)

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٠﴾

aur is quraan se unhein darao jinhein khauf ho ke apne rab ki taraf yun uthaye jaayein ke allah ke siwa na un ka koi himayati ho na koi sifarashi is ummeed par ke wo parhezgar ho jaayein (51)

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

aur door na karo unhein jo apne rab ko pukarte hain subah aur shaam uski raza chahte tum par unke hisab se kuchh nahin aur un par tumhare hisab se kuchh nahin phir unhein tum door karo to ye kaam insaaf se bayeed hai (52)

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٢﴾

aur yun hi humne un mein ek ko dusre ke liye fitna banaya ke maldaar kafir muhtaaj musalmano ko dekh kar kahein kya ye hain jin par allah ne ehsan kiya hum mein se kya allah khoob nahin jaanta haq manne

waalo ko (53)

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

aur jab tumhare huzoor wo hazir ho jo humari aayato par imaan laate hain to unse farmao tum par salam tumhare rab ne apne zimma karam par rahmat laazim kar li hai ke tum mein jo koi nadaani se kuchh burai kare baithe phir uske baad tauba kare aur sanwar jaaye to beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (54)

وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَتِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

aur isi tarah hum aayato ko mufassal bayaan farmate hain aur isliye ke mujrimo ka rasta zaahir ho jaaye (55)

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ
قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

tum farmao mujhe mana kiya gaya hai ke unhein puju jin ko tum allah ke siwa pujte ho tum farmao main tumhari khwahish par nahin chalta yun ho to main behak jaaun aur raah par na rahoon (56)

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ط مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ط إِن
الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ط يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ ﴿٥٧﴾

tum farmao main to apne rab ki taraf se raushan daleel par hoon aur tum use jhutlate ho mere paas

nahin jis ki tum jaldi macha rahe ho hukm nahin magar allah ka wo haq farmata hai aur wo sabse behtar faisla karne waala (57)

قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

tum farmao agar mere paas hoti wo cheez jis ki tum jaldi kar rahe ho to mujh mein tum mein kaam khatm ho chuka hota aur allah khoob jaanta hai sitamgaro ko (58)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ ۗ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا أَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٨﴾

aur usi ke paas hain kunjiya ghaib ki unhein wahi jaanta hai aur jaanta hai jo kuchh khushki aur tari mein hai aur jo patta girta hai wo use jaanta hai aur koi daana nahin zameen ki andheriyo mein aur na koi tar aur na khushk jo ek raushan kitab mein likha na ho (59)

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ
لِيُقَضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٩﴾

aur wahi hai jo raat ko tumhari roohein qabz karta hai aur jaanta hai jo kuchh din mein kamao phir tumhein din mein uthata hai ke thehrai hui miyaad पूरी ho phir usi ki taraf phirna hai phir wo bata dega jo kuchh tum karte the (60)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

aur wahi ghalib hai apne bando par aur tum par nighban bhejta hai yahan tak ke jab tum mein kisi ki maut aati hai humare firishte uski rooh qabz karte hain aur wo qusoor nahin karte (61)

ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ ۗ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحُسْبَيْنِ ﴿٦٢﴾

phir phere jaate hain apne sachhe maula allah ki taraf sunta usi ka hukm hai aur wo sab se jald hisab karne waala (62)

قُلْ مَنْ يُنَجِّبِكُمْ مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ لَّيِّنٌ
أُنجِنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾

tum farmao kaun hai jo tumhein najaat deta hai jungle aur darya ki aafato se jise pukarte ho gidgida kar aur aahista ke agar wo humein usse bachawe to hum zaroor ehsan maanenge (63)

قُلِ اللَّهُ يُنَجِّبِكُمْ مِّنْهَا ۖ وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

tum farmao allah tumhein najaat deta hai usse aur har bechani se phir tum shareek thehrate ho (64)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ
يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ۗ أُنظُرْ كَيْفَ نَصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

tum farmao wo qadir hai ke tum par azaab bheje tumhare upar se ya tumhare paaon ke tale se ya

tumhein bhada de mukhtalif giroh kar ke aur ek ko dusre ki sakhti chakhaye dekho hum kyunkar tarah tarah se aayatein bayaan karte hain ke kahin unko samajh ho (65)

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۗ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦٥﴾

aur use jhutlaya tumhari qaum ne aur yahi haq hai tum farmao main tum par kuchh kadoda nahin (66)

لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

har khabar ka ek waqt muqarrar hai aur anqareeb jaan jaaoge (67)

وَإِذْ آتَايَتِ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٧﴾

aur aye sunne waale jab tu unhein dekhe jo humari aayato mein padte hain to unse moonh pher le jab tak aur baat mein padein aur jo kahin tujhe shaitan bhulawe to yaad aaye par zalimo ke paas na baith (68)

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لِّعَالَمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦٨﴾

aur parhezgaro par unke hisab se kuchh nahin haan naseehat dena shayad wo baaz aa jaayein (69)

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَعَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكَّرَ بِهِ أَنْ

تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ۗ ۗ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۗ وَإِنْ

تَعْدِلْ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۗ لَهُمْ شَرَابٌ

مِّنْ حَمِيمٍ ۚ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٦٩﴾

aur chhod de un ko jinhone apna deen hansa khel bana

liya aur unhein dunya ki zindagi ne fareb diya aur quran se naseehat do ke kahin koi jaan apne kiye par pakdi na jaaye allah ke siwa na uska koi himayati ho na sifarshi aur agar apne iwaz saare badle de to usse na liye jaayein ye hain wo jo apne kiye par pakde gaye unhein peene ko khaulta paani aur dardnak azaab badla unke kufr ka (70)

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ
هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ ۗ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ
إِلَى الْهُدَىٰ اتَّبَعْنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَأُمِرْنَا لِنُسَلِّمَ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ۝

tum farmao kya hum allah ke siwa usko pujein jo humara na bhala kare na bura aur ulte paaon palta diye jaayein baad iske ke allah ne humein raah dikhai is tarah jise shaitano ne zameen mein raah bhula di hairan hai uske rafeeq use raah ki taraf bula rahe hain ke idhar aa tum farmao ke allah hi ki hidayat hidayat hai aur humein hukm hai ke hum uske liye gardan rakh dein jo rab hai saare jahaan ka (71)

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا ۗ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝
aur ye ke namaz qaaim rakho aur usse daro aur wahi hai jis ki taraf tumhein uthna hai (72)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ۝
قَوْلُهُ الْحَقُّ ۗ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۗ وَهُوَ

الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ⑤

aur wahi hai jisne aasmano zameen theek banaye aur jis din fana hui har cheez ko kahega ho ja wo fauran ho jayegi uski baat sach hi hai aur usi ki saltanat hai jis din soor phunka jayega har chhupe aur zahir ka janne waala aur wahi hai hikmat waala khabardar (73)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَّرْتَنِي إِذْ نَمَيْتُ مَا لِيهِ ۗ إِنَّي أَخَذْتُ مِنْ قَوْمِكَ فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ⑥

aur yaad karo jab ibrahim ne apne baap aazar se kaha kya tum buto ko khuda banate ho beshak main tumhein aur tumhari qaum ko khuli gumrahi mein paata hoon (74)

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُون مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑥

aur isi tarah hum ibrahim ko dikhate hain saari badshahi aasmano aur zameen ki aur isliye ke wo ayenul yaqeen waalo mein ho jaaye (75)

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى الْكُوفَةَ ۗ قَالَ هَٰذَا رَبِّيَ ۗ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأَحِبُّ الْأُفْلِينَ ⑥

phir jab us par raat ka adhera aaya ek taara dekha bole ise mera rab thehrate ho phir jab wo doob gaya bole mujhe khush nahin aate doobne waale (76)

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَٰذَا رَبِّيَ ۗ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّيَ لَأَكُونَنَّ مِنَ

الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ⑥

phir jab chand chamka dekha bole ise mera rab batate ho phir jab wo doob gaya kaha agar mujhe mera rab hidayat na karta to main bhi inhi gumraho mein hota

(77)

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ
مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٧٧﴾

phir jab suraj jagmagata dekha bole ise mera rab kehte
ho ye to un sab se bada hai phir jab wo doob gaya
kaha aye qaum main bezaar hoon un cheezo se jinhein
tum shareek thehrate ho (78)

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّمَى فَطَرَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٧٩﴾

maine apna moonh uski taraf kiya jisne aasman wa
zameen banaye ek usi ka ho kar aur main mushriko
mein nahin (79)

وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ ۖ قَالَ اتَّخَذُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ ۖ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۖ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٠﴾

aur un ki qaum unse jhagadne lagi kaha kya allah ke
baare mein mujhse jhagadte ho wo to mujhe raah bata
chuka aur mujhe un ka dar nahin jinhein tum shareek
batate ho haan jo mera hi rab koi baat chahe mere rab
ka ilm har cheez ko muheet hai to kya tum naseehat
nahin maante (80)

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَنتُمْ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾

aur main tumhare shareeko se kuunkar daroon aur
tum nahin darte ke tumne allah ka shareek usko

thehraya jiski tum par usne koi sanad na utaari to dono giroho mein amaan ka zyada sazawaar kaun hai agar tum jaante ho (81)

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٥٦﴾

wo jo imaan laaye aur apne imaan mein kisi nahaq ki aamezish na ki unhi ke liye amaan hai aur wahi raah par hain (82)

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۖ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَاءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ

حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٥٧﴾

aur ye humari daleel hai ke humne ibrahim ko uski qaum par ata farmai hum jise chahein darjo buland karein beshak tumhara rab ilmo hikmat waala hai (83)

وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

aur humne unhein is'haaq aur yaqoob ata kiye un sab ko humne raah dikhai aur unse pehle nooh ko raah dikhai aur suleman aur ayyub aur yusuf aur moosa aur haroon ko aur hum aisa hi badla dete hain nekokaro ko (84)

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٩﴾

aur zakariya aur yahya aur eisa aur ilyaas sab humare qurb ke laaiq hain (85)

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۖ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾

aur ismayeel aur yusa aur yunus aur looth ko aur hum ne har ek ko uske waqt mein sab par fazeelat di (86)

وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۚ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٨٦﴾

aur kuchh unke baap dada aur awlaad aur bhaiyo mein se baaz ko aur humne unhein chun liya aur seedhi raah dikhai (87)

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٧﴾

ye allah ki hidayat hai ke apne bando mein jise chahe de aur agar wo shareek karte to zaroor unka kiya akarat jaata (88)

أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمْ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ ۚ فَإِنْ يُكْفِرْ بِهَا هُوَ لِأَنْفُسِهِمْ فَقَدَرُوا ۚ كُنَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكُفْرِينَ ﴿٨٨﴾

ye hain jin ko humne kitab aur hukm aur nubuwat ata ki to agar ye log isse munkir ho to humne iske liye ek aisi qaum laga rakhi hai jo inkaar waali nahin (89)

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ ۚ طُغِيَ لَأَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْاَذْكُرَى لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٩﴾

ye hain jin ko allah ne hidayat ki to tum inhi ki raah chalo tum farmao main quran par tum se koi ujrat nahin maangta magar naseehat saare jahaan ko (90)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ ۗ طُغِيَ لَأَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْاَذْكُرَى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

تُبَدُّوْنَهَا وَتُخْفَوْنَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ ط قُلِ اللَّهُ
 ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾

aur yahood ne allah ki qadr na jaani jaisi chahiye thi jab bole allah ne kisi aadami par kuchh nahin utara tum farmao kisne utari wo kitab jo moosa laaye the raushni aur logon ke liye hidayat jiske tumne alag alag kaghaz bana liye zahir karte ho aur bahut sa chhupa lete ho aur tumhein wo sikhaya jaata hai jo na tumko maloom tha na tumhare baap dada ko allah kaho phir unhein chhod do unki behudgi mein khelta (91)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

aur ye hai barkat waali kitab ke humne utaari tasdeeq farmati un kitabo ki jo aage thi aur isliye ke tum dar sunao sab bastiyo ke sardar ko aur jo koi saare jahaan mein uske gird hain aur wo jo aakhirat par imaan laate hain us kitab par imaan laate hain aur apni namaz ki hifazat karte hain (92)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط لَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ ط الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٩٣﴾

aur usse badh kar zalim kaun jo allah par jhoot bandhe ya kahe mujhe wahi hui aur use kuchh wahi na hui aur

jo kahe abhi main utaarta hoon aisa jaisa khuda ne
utaara aur kabhi tum dekho jis waqt zalim maut ki
sakhtiyo mein hain aur firishte haath phailate hue hain
ke nikaalo apni jaanein aaj tumhein khwari ka azaab
diya jayega badla iska ke allah par jhoot lagate the aur
uski aayato se takabbur karte (93)

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ
ظُهُورِكُمْ ۗ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفْرٍ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَؤُا ۗ
لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٣﴾

aur beshak tum humare paas akele aaye jaisa humne
tumhein pehli baar paida kiya tha aur peeth piche
chhod aaye jo maal mataa humne tumhein diya tha
aur hum tumhare saath tumhare un sifarashiyo ko
nahin dekhte jin ka tum apne mein saajha batate the
beshak tumhare aapas ki dor kat gai aur tum se gaye jo
daawe karte the (94)

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ۗ
ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٩٤﴾

beshak allah daane aur guthli ko cheerne waala hai
zinda ko murda se nikaale aur murda ko zinda se
nikaalne waala ye hai allah tum kahan aundhe jaate ho
(95)

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۗ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۗ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ۗ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٥﴾

tareeki chaak kar ke subah nikaalne waala aur usne

raat ko chain banaya aur suraj aur chand ko hisaab ye saadha hai zabardast janne waale ka (96)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

aur wahi hai jisne tumhare liye taare banaye ke unse raah pao khushki aur tari ke andhero mein humne nishaniya mufassal bayaan kar di ilm waalo ke liye (97)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٧﴾

aur wahi hai jisne tum ko ek jaan se paida kiya phir kahin tumhein theharna hai aur kahin amanat rehna beshak humne mufassal aayatein bayaan kar di samajh waale ke liye (98)

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ۖ وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
مِّنْ أَعْنَابٍ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٨﴾

aur wahi hai jisne aasman se paani utara to humne har ugne wali cheez nikaali to humne usse nikaali sabzi jis mein se daane nikaalte hain ek dusre par chadhte hue aur khajoor ke gaabhe se paas paas guchchhe aur angoor ke baagh aur zaitoon aur anaar kisi baat mein milte aur kisi baat mein alag iska phal dekho jab phale aur uska pakna beshak is mein nishaniya hain imaan

waalo ke liye (99)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ

سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٩٩﴾

aur allah ka shareek thehraya jinno ko halanki usi ne unko banaya aur uske liye bete aur betiya gadh li jahalat se paaki aur bartari hai usko unki baato se (100)

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنۡىٰٓ يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌۭ ۗ وَ لَمۡ تَكُنۡ لَهٗ صٰحِبَةً ۗ وَ خَلَقَ كُلَّ

شَيْءٍ ؕ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٠٠﴾

be kisi numoone ke aasmano aur zameen ka banane waala uska bachha kahan se ho halanki uski aurat nahin aur usne har cheez paida ki aur wo sab kuchh jaanta hai (101)

ذٰلِكُمۡ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ؕ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ ؕ وَ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

وَ كِيْلٌ ﴿١٠١﴾

ye hai allah tumhara rab uske siwa kisi ki bandagi nahin har cheez ka banane waala to use pujo aur wo har cheez par nighban hai (102)

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ۗ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ۗ وَ هُوَ اللّٰطِيْفُ الْخَبِيْرُ ﴿١٠٢﴾

aankhein use ihaata nahin kar sakti aur sab aankhein uske ihata mein hain aur wahi hai nihayat baatin poora khabardar (103)

قَدْ جَاءَ كُمْ بَصٰٓرٌ مِّنۡ رَبِّكُمْ ؕ فَمَنۡ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ؕ وَ مَنۡ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۗ وَ مَا

اَنَا عَلَيْنِكُمْ بِحَفِيْظٍ ﴿١٠٣﴾

tumhare paas aankh kholne waali daleelein aai

tumhare rab ki taraf se to jisne dekha to apne bhale ko aur jo andha hua to apne bure ko aur main tum par nigehban nahin (104)

وَكَذَلِكَ نَصْرَفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٤﴾

aur hum isi tarah aayatein tarah tarah se bayaan karte hain aur isliye ke kafir bol uthein ke tum to padhe ho aur isliye ke ise ilm waalo par waazeh kar dein (105)

إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾

is par chalo jo tumhein tumhare rab ki taraf se wahih hoti hai uske siwa koi mabood nahin aur mushriko se moonh pher lo (106)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۚ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِوَكِيلٍ ﴿١٠٦﴾

aur allah chahta to shareek nahin karte aur hum ne tumhein un par nigehban nahin kiya aur tum un par kadode nahin (107)

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ

زَيَّنَّا لِلْكَافِرِ أُمَّةً عَمَلَهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٧﴾

aur unhein gaali na do jin ko wo allah ke siwa pujte hain ke wo allah ki shaan mein be adabi karenge zyadati aur jahalat se yun hi humne har ummat ki nigah mein uske amal bhale kar diye hain phir unhein apne rab ki taraf phirna hai aur wo unhein bata dega jo karte the (108)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيْبَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ

عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۖ أَنَّهُآ إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾

aur unhone allah ki qasam khai apne halaf mein poori koshish se ke agar unke paas koi nishani aayi to zaroor us par imaan layenge, tum farma do ke nishaniya to allah ke paas hain aur tumhein kya khabar ke jab wo aayein to ye imaan na layenge (109)

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَدَّرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ

يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

aur hum pher dete hain unke dilo aur aankho ko jaisa wo pehli baar us par imaan na laaye the aur unhein chhod dete ke apni sarkashi mein bhatka karein (110)

Aathwa Paarah

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا
كَانُوا إِلَيْكُمْ مِّنْوًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾

aur agar hum unki taraf firishte utarte aur unse murde baatein karte aur hum har cheez unke saamne utha late jab bhi wo imaan lane wale na the magar ye ke khuda chahta lekin unme bahut neere jahil hain.(111)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰٓئِطٰنِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ
زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ۗ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١١٢﴾

aur isi tarah humne har nabi ke dushman kiye hain aadmiyon aur jinno me ke shaitan ke unme ek dusre par khufiya daalta hai banawat ki baat, dhokhe ko aur tumhara rabb chahta to wo aisa na karte to unhen unki banawaton par chhod do.(112)

وَلِتَضَعِ اِلَيْهِ اَفْءَادَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ وَيُرِضُوْهُ وَيَقْتَرُوْا مَا هُمْ
مُّقْتَرِفُوْنَ ﴿١١٣﴾

aur isliye ke us ki taraf unke dil jhuke jinhen aakhirat par imaan nahi aur use pasand karen aur gunah kamayen jo unhen gunah kamana hai.(113)

اَفْعٰوِرِ اللّٰهُ اَبْتٰغِيْ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ الْكِتٰبَ مُفَصَّلًا ۗ وَالَّذِيْنَ
اَتَيْنَهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ
الْمُنْتَرِيْنَ ﴿١١٤﴾

to kya allah ke siwa mai kisi aur ka faisla chahun aur wahi hai jisne tumhari taraf mufassal kitab utari aur jinko humne kitab di wo jante hain ki ye tere rabb ki taraf se sach utra hai, to ay sunne wale tu hargiz shak me na ho.(114)

وَتَبَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٤﴾

aur poori hai tere rabb ki baat sach aur insaaf me uski batin ka koi badalne wala nahi aur wahi haai sunta janta.(115)

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لِيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ
إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٥﴾

aur ay sunne wale zameen me aksar wo hain ki tu unke kahe par chale to tujhe allah ki raah se bahka den, wo sirf guman ke peeche hain.

aur niri atkalen daudtae hain (116)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٦﴾

tera rabb khoob janta hai ki kaun behka uski raah se aur wo khoob jaanta hai hidayat walon ko.(117)

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

to khao usme se jis par allah ka naam liya gaya, agar tum uski aayaten mante ho.(118)

وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا

مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

aur tumhen kya hua ki usme se na khao jis par allah ka naam liya gaya wo to tumse mufassal bayan kar chuka jo kuchh tum par haram hua, magar jab tumhen usse majboori ho, aur beshak bahutere apni khwahishon se gumraah karte hain bejaane, beshak tera rabb hadd se badhne walon ko khoob janta hai.(119)

وَدَرُّوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا
يَقْتَرِفُونَ ﴿١١٩﴾

aur chhod do khula aur chhupa gunah,wo jo gunah kamate hain anqareeb apni kamai ki saza payenge.(120)

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذُونَ
إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢٠﴾

aur ise na khao jispar allah ka naam na liya gaya, aur wo beshak hukm udooli hai aur beshak shaitan apne doston ke dilon me dalte hain ki tum se jhagden aur agar tum unka kehna mano to us waqt tum mushrik ho.(121)

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي
الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

aur kya wo ki murda tha to humne use zinda kiya, aur uske liye ek noor kar diya jisse logo me chalta hai, wo us jaise ho jayega jo andhariyo. me hain unse nikalne wala nahi, yuhi kafiron ki aankh me unke amal bhale kar diye gaye hain.(122)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُجْرِمِينَ لِيُنذِرَ فِيهَا وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا
بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾

aur isi tarah humne har basti me uske mujrimo ke sargana kiye ki usme daanw nahi khelte magar apni jaano par aur unhen shaor nahi (123)

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ
أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَنْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾

aur jab unke paas koi nishani aaye to kehte hain hum hargiz imaan na layenge jab tak hume bhi waisa hi na mile jaisa allah ke rasoolon ko mila, allah khoob janta hai jahan apni risalat rakhe anqareeb mujrimon ko allah ke yahan zillat pahuchegi aur sakht azaab, badla unke makr ka.(124)

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ
صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾

aur jise allah raah dikhana chahe uska seena islam ke liye khol deta hai aur jise gumraah karna chahe uska seena tang khoob ruka hua kar deta hai, goya kisi ki zabardasti se aasman par chadh raha hai, allah yuhi azaab daalta hai imaan na lane walon ko.(125)

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾
aur ye tumhare rabb ki seedhi raah hai, humne

aayaten mufassal bayan kar di nasihat manne walon ke liye.(126)

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٦﴾

unke liye salamati ka ghar hai apne rabb ke yahan aur wo unka maula hai ye unke kaamo ka phal hai.(127)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ۖ يَعْشَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۗ وَقَالَ أَوْلِيُوهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا ۗ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

aur jis din un sab ko uthayega aur farmayega ay jinn ke giroh tum ne bahut aadmi gher liye aur unke dost aadmi arz karenge, ay hamare rabb! hum me ek ne dusre se fayda uthaya aur hum apni is meaad ko pahunch gaye jo tune humare liye muqarrar farmayi thi. farmayega aag tumhara thikana hai humesha usme raho magar jise khuda chahe, ay mehboob beshak tumhara rabb hikmat wala ilm wala hai.(128)

وَكَذَلِكَ نُؤَيِّنُ لِقَاءَ بَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩﴾

aur yunhi hum zalimo me ek ko dusre par musallat karte hain badla unke kiye ka.(129)

يُعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ الْبَيْتَ وَ يُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ۗ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿١٣٠﴾

ay jinno aur aadmiyon ke giroh, kya tumhare paas tum me ke rasool na aaye the, tum par meri aayate padhte

aur tumhen ye din dekhne se darate? kahenge humne apni jaano par gawahi di aur unhen duniya ki zindagi ne fareb diya aur khud apni jaan par gawahi denge ki wo kafir the.(130)

ذَلِكَ أَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿١٣٠﴾

ye isliye ki tera rabb bastiyon ko zulm se tabaah nahi karta ki unke log bekhbar hon.(131)

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣١﴾

aur har ek ke liye unke kaamo se darje hai aur tera rabb unke aamal se bekhbar nahin.(132)

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۗ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ

كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ آخَرِينَ ﴿١٣٢﴾

aur ay mehboob tumhara rabb be-parwaah hai rahmat wala, ay logon wo chahe to tumhein le jaaye aur jise chahe tumhari jagah laaye jaise tumhein auro ki awlaad se paida kiya (133)

إِنَّ مَا تُوَعَّدُونَ لَأْتٍ ۖ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٣﴾

beshak jiska tumhein wada diya jaata hai zaroor aane wali hai aur tum thaka nahin sakte (134)

قُلْ يُقَوْمِرْ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنْ أَرَادَ عَلَىٰ ظَنْنٍ أَنْ يَنْزِلَ ۗ فَسَوْفَ نَعْتَلِمُونَ ۗ مَنْ تَكُونُ لَهُ

عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿١٣٤﴾

tum farmao aye meri qaum tum apni jagah par kaam kiye jao main apna kaam karta hoon to ab janna chahte ho kis ka rehta hai aakhirat ka ghar beshak zalim falaah nahin paate (135)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

aur allah ne jo kheti aur maweshi paida kiye un mein use ek hissadar thehraya to bole ye allah ka hai unke khayal mein aur ye humare shareeko ka to wo jo un ke shareeko ka hai wo to khuda ko nahin pahunchta aur jo khuda ka hai wo unke shareeko ko pahunchta hai kya hi bura hukm lagate hain (136)

وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾

aur yun hi bahut mushriko ki nighah mein unke shareeko ne awlaad ka qatl bhula kar dikhaya hai ke unhein halaak karein, aur unka deen un par mushtabeh kar dein aur allah chahta to aisa na karte to tum unhein chhod do wo hain aur unke iftira (137)

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ ۗ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَّشَاءَ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ ۖ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾

aur bole ye maweshi aur kheti roki hui hai ise wahi khaye jise hum chahein apne jhoote khayaal se aur kuchh maweshi hain jin par chadhna haraam thehraya aur kuchh maweshi ke zibah par allah ka naam nahin lete ye sab allah par jhoot bandhna hai anqareeb wo

unhein badla dega unke iftiraon ka (138)

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٨﴾

aur bole jo un maweshi ke pet mein hai wo nira humare mardo ka hai aur humari aurato par haraam hai aur mara hua nikle to wo sab is mein shareek hain qareeb hai ke allah unhein in ki baato ka badla dega beshak wo ilm hikmat waala hai (139)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۗ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٣٩﴾

beshak tabah hue wo jo apni awlaad ko qatl karte hain ahmaqana jahalat se aur haraam thehrate hain wo jo allah ne unhein rozi di allah par jhoot bandhne ko beshak wo behke aur raah na paai (140)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٠﴾

aur wahi hai jisne paida kiye baagh kuchh zameen par chhupe hue aur kuchh be chhupe aur khajoor aur kheti jis mein rang rang ke khane aur zaitoon aur anaar kisi baat mein milte aur kisi mein alag khao uska phal jab phal laaye aur uska haq do jis din kate aur beja na kharcho beshak beja kharchne waale use pasand nahin (141)

وَمِنَ الْإِنْعَامِ حُمُولَةٌ وَفَرَسًا طُكُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

aur maweshi me se kuchh bojh uthane wale aur kuchh zameen par bichhe khao usme se jo allah ne tumhe rozi di aur shaitan ke qadamo par na chalo, beshak wo tumhara sareeh dushman hai.(142)

ثَلَاثِينَ أَزْوَاجٍ ۚ مِنَ الضَّالِّينَ وَمِنَ الْمَعْرِ الثَّنِينَ ۖ قُلْ أَلَمْ يَكْرِهِنَّ حَرَّمَ
أَمِ الْإِنثِيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثِيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾

aath(8) nar aur mada ek joda bhed ka aur ek joda bakri ka tum farmao kya usme dono na haram kiye ya dono mada ya wo jisne doni mada pet me liye hain kisi ilm se batao agar tum sacche ho.(143)

وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۖ قُلْ أَلَمْ يَكْرِهِنَّ حَرَّمَ أَمِ الْإِنثِيَيْنِ أَمَّا
اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثِيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّكُمْ اللَّهُ بِهَذَا ۚ
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾

aur ek joda oonth ka aur ek joda gaaye ka tum farmao kya usme dono mada pet me liye hain kya tum maujood the jab allah ne tumhen ye hukm diya to usse badh kar zalim kaun wo allah par jhooth bandhe ki logon ko apni jahalat se gumraah kare beshak allah zalimon ko raah nahi dikhata.(144)

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

tum farmao main nahin paata us mein jo meri taraf wahih hui kisi khane waale par koi khana haraam magar ye ke murdaar ho ya rago ka behta khoon ya bad janwar ka gosht ke wo najasat hai ya wo be hukmi ka janwar jis ke zibah mein ghaire khuda ka naam pukara gaya to jo nachaar hua na yun ke aap khwahish kare aur na yun ke zaroorat se badhe to beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (145)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ
شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَلِكَ
جَزَاؤُهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٤٦﴾

aur yahoodiyo par humne haraam kiya har nakhun waala janwar aur gaaye aur bakri ki charbi un par haraam ki magar jo unki peeth mein lagi ho ya aant mein ya haddi se mili ho humne ye unki sarkashi ka badla diya aur beshak hum zarooril sachhe hain (146)

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾

phir agar wo tumhein jhutlayein to tum farmao ke tumhara rab wasee rahmat waala hai aur uska azaab mujrimo par se nahin taala jaata (147)

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ ط
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذُاقُوا بَأْسَنَا ط قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ
 فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ط إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۝

ab kahenge mushrik ke allah chahta to na hum shirk karte na humare baap dada na hum kuchh haraam thehrate aisa hi unse aglo ne jhutlaya tha yahan tak ke humara azaab chakha tum farmao kya tumhare paas koi ilm hai ke use humare liye nikaalo tum to nire gumaan ke pichhe ho aur tum yun hi takhmeene karte ho (148)

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ؕ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

tum farmao to allah hi ki hujjat पूरी hai to wo chahta to tum sab ko hidayat farmata (149)

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا ؕ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ؕ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۝

tum farmao laao apne wo gawah jo gawahi dein ke allah ne ise haraam kiya phir agar wo gawahi de baithein to tu aye sunne waale unke saath gawahi na dena aur unki khwahisho ke pichhe na chalna jo humari aayatein jhutlate hain aur jo aakhirat par imaan nahin laate aur apne rab ka barabar waala thehrate hain (150)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي كُفْرًا بِمَا كُفِرْتُمْ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ؕ

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرُبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾

tum farmao aao main tumhein padh sunaun jo tum par tumhare rab ne haraam kiya ye ke uska koi shareek na karo aur maa baap ke saath bhalai aur apni awlaad qatl na karo muflisi ke baais hum tumhein aur unhein sab ko rizq denge aur behayaiyo ke paas na jaao jo un mein khuli hain aur jo chhupi aur jis jaan ki allah ne hurmat rakhi use nahaq na maaro ye tumhein hukm farmaya hai ke tumhein aql ho (151)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ
الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾

aur yateem ke maal ke paas na jaao magar bahut achhe tariqe se jab tak wo apni jawani ko pahunche aur naap aur tol insaaf ke saath poori karo hum kisi jaan par bojh nahin daalte magar uske maqdoor bhar aur jab baat kaho to insaf kaho agarche tumhare rishtedar ka muamla ho aur allah hi ka ahad poora karo ye tumhein takeed farmai ke kahin tum naseehat maano (152)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن
سَبِيلِهِ ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

aur ye ke ye hai mera seedha rasta to us par chalo aur aur raahein na chalo tumhein uski raah se juda kar dengi ye tumhein hukm farmaya ke kahin tumhein parhezgari mile (153)

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَالَمِهِمْ يُلْقَاهُ رَبُّهُمْ يَوْمَئِذٍ ۝٤٠

phir humne moosa ko kitab ata farmai poora ehsan karne ko us par jo nikokaar hai aur har cheez ki tafseel aur hidayat aur rahmat ke kahin wo apne rab se milne par imaan laayein (154)

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عِلْمَكُمْ تُرْحَمُونَ ۝٤١

aur ye barkat waali kitab humne utaari to iski pairwi karo aur parhezgari karo ke tum par reham ho (155)

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ۝٤٢

kabhi kaho ke kitab to humse pehle do giroho par utri thi aur humein unke padhne padhane ki kuchh khabar na thi (156)

أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ۝٤٣

ya kaho ke agar hum par kitab utarti to hum unse zyada theek raah par hote to tumhare paas tumhare rab ki raushan daleel aur hidayat aur rahmat aur

rahmat aai to usse zyada zalim kaun jo allah ki aayato ko jhutlaye aur unse moonh pherte hain hum unhein bure azaab ki saza denge balda unke moonh pherne ka

(157)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انْتَضِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٧﴾

kaahe ke intezar mein hain magar ye ke aayein unke paas firishte ya tumhare rab ka azaab aaye ya tumhare rab ki ek nishani aaye jis din tumhare rab ki wo ek nishani aayegi kisi jaan ko imaan laana kaam na dega jo pehle imaan na laaye the ya apne imaan mein koi bhalai na kamai thi tum farmao rasta dekho hum bhi dekhte hain (158)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۗ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

wo jinhone apne deen mein juda juda raahein nikaali aur kai giroh ho gaye aye mahboob tumhein unse kuchh ilaqa nahin unka muamla allah hi ke hawale hai phir wo unhein bata dega jo kuchh wo karte the (159)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

jo ek neki laaye to uske liye us jaisi dus hain aur jo burai laaye to use badla na milega magar uske barabar aur un par zulm na hoga (160)

قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ دِينًا قَبِيلاً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

tum farmao beshak mujhe mere rab ne seedhi raah dikhai theek deene ibrahim ki millat jo har batil se juda the aur mushrik na the (161)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

tum farmao beshak meri namaz aur meri qurbaniya aur mera jeena aur mera marna sab allah ke liye hai jo rab saare jahaan ka (162)

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

uska koi shareek nahin mujhe yahi hukm hua hai aur main sabse pehla musalman hoon (163)

قُلْ أَغْيِرَ اللَّهُ آبِغِي رِبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

tum farmao kya allah ke siwa aur rab chahoon halanki wo har cheez ka rab hai aur jo kuchh koi kamaaye wo usi ke zimma hai aur koi bojh uthane waali jaan dusre ka bojh na uthayegi phir tumhein apne rab ki taraf phirna hai wo tumhein bata dega jis mein ikhtelaf karte the (164)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

aur wahi hai jisne zameen mein tumhein naaib kiya aur

tum mein ek ko dusre par darjo bulandi di ke tumhein aazmaye us cheez mein jo tumhein ata ki beshak tumhare rab ko azaab karte der nahin lagti aur beshak wo zaroor bakhshne waala meharbaan hai (165)

Suratul Aaraaf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

الْبَصِّ

(alif laam meem saad) aye mahboob (1)

كُتِبَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

ek kitab tumhari taraf utari gai to tumhara jee us se na ruke isliye ke tum usse dar sunao aur musalmano ko naseehat (2)

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا

تَذَكَّرُونَ ۝

aye logon us par chalo jo tumhari taraf tumhare rab ke paas se utra aur use chhod kar aur hakimo ke pichhe na jaao bahut hi kam samajhte ho (3)

وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ ۝

aur kitni hi bastiya humne halaak ki to un par humara azaab raat mein aaya ya jab wo dopahar ko sote the (4)

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝

to un ke moonh se kuchh na nikla jab humara azaab
un par aaya magar yahi bole ke hum zalim the (5)

فَلَنَسْتَأْتِنَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَأْتِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

to beshak zaroor humein puchhna hai unse jin ke paas
rasool gaye aur beshak zaroor humein puchhna hai
rasoolo se (6)

فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝

to zaroor hum un ko bata denge apne ilm se aur hum
kuchh ghaaib na the (7)

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

aur us din tol zaroor honi hai to jin ke palle bhari hue
wahi muraad ko pahunche (8)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

يُظْلِمُونَ ۝

aur jin ke palle halke hue to wahi hain jinhone apni
jaan ghaate mein daali un zyadatiyo ka badla jo humari
aayato par karte the (9)

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝

aur beshak humne tumhein zameen mein jamaao diya
aur tumhare liye is mein zindagi ke asbaab banaye
bahut hi kam shukr karte ho (10)

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ۖ فَسَجَدُوا ۖ إِلَّا

إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝

aur beshak humne tumhein paida kiya phir tumhare

naqshe banaye phir hum ne malaika se farmaya ke adam ko sajda karo to wo sab sajde mein gire magar iblees ye sajda waalo mein na hua (11)

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَ
خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿١١﴾

farmaya kis cheez ne roka ke tu ne sajda na kiya jab maine tujhe hukm diya tha bola main isse behtar hoon tune mujhe aag se banaya aur ise mitti se banaya (12)

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿١٢﴾

farmaya tu yahan se utar ja tujhe nahin pahunchta ke yahan reh kar ghuroor kare nikal tu hai zillat waalo mein (13)

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٣﴾

bola mujhe fursat de us din tak ke log utha liye jaayein (14)

قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿١٤﴾

farmaya tujhe mohlat hai (15)

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٥﴾

bola to qasam hai iski ke tune mujhe gumrah kiya main zaroor tere seedhe rasta par unki taak mein baithunga (16)

ثُمَّ لَأَتَيْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَ
لَآتَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٦﴾

phir zaroor main unke paas aaunga unke aage aur

pichhe aur dahine aur baayein se aur tu un mein se aksar ko shukr guzar na payega (17)

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ

أَجْبَعِينَ ⑩

farmaya yahan se nikal ja radd kiya gaya raanda hua zaroor jo un mein se tere kahe par chala main tum sab se jahannam bhar dunga (18)

وَيَأْتِمُرُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ

الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ⑪

aur aye adam tu aur tera joda jannat mein raho to us mein se jahan chaho khao aur us ped ke paas na jaana ke hadd se badhne waalo mein hoge (19)

فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وَّرِى عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا

رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ⑫

phir shaitan ne unke jee mein khatra daala ke un par khol de unki sharm ki cheezein jo unse chhupi thi aur bola tumhein tumhare rab ne is ped se isiliye mana farmaya hai ke kahin tum do firishte ho jaao ya humesha jeene waale (20)

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَلِنَّاصِحِينَ ⑬

aur unse qasam khai ke main tum dono ka khairkhwah hoon (21)

فَدَلَّ لَهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتِحُهُمَا وَطِفَافًا يُخِصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ⑭ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْتُ لَكُمَا إِنَّ

الشَّيْطَانِ لَكُمْ أَعْدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٢﴾

to utaar laaya unhein fareb se phir jab unhone wo ped chakha un par un ki sharm ki cheezein khul gai aur apne badan par jannat ke patte chitpane lage aur unhein unke rab ne farmaya kya maine tumhein us ped se mana na kiya aur na farmaya tha ke shaitan tumhara khula dushman hai (22)

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

dono ne arz ki aye rab humare humne apna aap bura kiya to agar tu humein na bakhshhe aur hum par reham na kare to hum zaroon nuqsan waalo mein hue (23)

قَالَ اهْبِطْوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

farmaya utro tum mein ek dusre ka dushman aur tumhein zameen mein ek waqt tak theharna aur baratna hai (24)

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

farmaya usi mein jiyoge aur usi mein maroge aur usi mein se uthaye jaoge (25)

يَبْنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا ۗ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ۙ

ذَلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

aye adam ki awlaad beshak humne tumhari taraf ek libaas wo utaara ke tumhari sharm ki cheezein chhupaye aur ek wo ke tumhari aaraish ho aur parhezgari ka libas wo sab se bhala ye allah ki nishaniyo mein se hai ke kahin wo naseehat maanein

(26)

يَبْنِيْ اَدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبُوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِرَهُمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٦﴾

aye adam ki awlaad khabardar tumhein shaitan fitna mein na daale jaisa tumhare maa baap ko bihisht se nikala utarwa diye unke libas ke unki sharm ki cheezein unhein padi beshak wo aur uska kumba tumhein wahan se dekhte hain ke tum unhein nahin dekhte beshak humne shaitano ko unka dost kiya hai jo imaan nahin laate (27)

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحْشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَا اَبَاءَنَا وَ اللهُ اَمْرًا نَابِهًا ۗ قُلْ اِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ۗ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

aur jab koi behayai karein to kehte hain humne is par apne baap dada ko paaya aur allah ne humrein iska hukm diya to farmao beshak allah be hayai ka hukm nahin deta kya allah par wo baat lagate ho jiski tumhein khabar nahin (28)

قُلْ اَمْرٌ رَبِّيْ بِالْقِسْطِ ۗ وَ اَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ اذْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۗ كَمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُوْنَ ﴿٢٩﴾

tum farmao mere rab ne insaf ka hukm diya hai aur apne moonh seedhe karo har namaz ke waqt aur uski ibadat karo nire uske bande ho kar jaise usne tumhara aaghaz kiya waise hi paltoge (29)

فَرِيْقًا هٰدِيْ وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ۗ اِنَّهُمْ اتَّخَذُوْا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً مِّنْ

دُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

ek firqe ko raah dikhai aur ek firqe ki gumrahi saabit hui unhone allah ko chhod kar shaitano ko waali banaya aur samajhte hain ke wo raah par hain (30)

يَبْنِيْ أَدَمَ خُدُوًا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

aye adam ki awlaad apni zeenat lo masjid mein jaao aur khao aur piyo aur hadd se na badho beshak hadd se badhne waale use pasand nahin (31)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادَةٍ وَ الطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ

أَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ

يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٢﴾

tum farmao kisne haraam ki allah ki wo zeenat jo us ne apne bando ke liye nikaali aur paak rizq tum farmao ke wo imaan waalo ke liye hai dunya mein aur qiyamat mein to khaas unhi ki hai hum yun hi mufassal aayatein bayaan karte hain ilm waalo ke liye (32)

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا ۚ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٣﴾

tum farmao mere rab ne to be hayaiya haraam farmai hain jo un mein khuli hain aur jo chhupi aur gunaah aur nahaq zyadati aur ye ke allah ka shareek karo jiski usne sanad na utaari aur ye ke allah par wo baat kaho jiska ilm nahin rakhte (33)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٣٤﴾
aur har giroh ka ek waada hai to jab unka waada
aayega ek ghadi na pichhe ho na aage (34)

يَبْنِي أَدَمَ إِمَامًا يَا تَيْبَتَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَلَيْتِي ۖ فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾

aye adam ki awlaad agar tumhare paas tum mein ke
rasool aayein meri aayatein padhte to jo parhezgari
kare aur sanwre to us par na kuchh khauf aur na
kuchh gham (35)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾

aur jinhone humari aayatein jhutlaai aur un ke muqabil
takabbur kiya wo dozakhi hain unhein us mein
humesha rehna (36)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ ۖ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تُدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

to usse badh kar zalim kaun jisne allah par jhoot
bandha ya us ki aayatein jhutlaai unhein unke naseeb
ka likha pahunchega yahan tak ke jab unke paas
humare bheje hue unki jaan nikaalne aayein to unse
kehte hain kahan hain wo jin ko tum allah ke siwa pujte
the kehte hain wo humse gum gaye aur apni jaano par
aap gawahi dete hain ke wo kafir the (37)

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا
 دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَ كُوفُ فِيهَا جَبِيحًا ۗ قَالَتْ أُخْرِبُهُمْ
 لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَصَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَ
 لَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

allah unse farmata hai ke tum se pehle jo aur jama'atein jinn aur aadmiyo ki aag mein gai unhi mein jao jab ek giroh dakhil hota hai dusre par lanat karta hai yahan tak ke jab sab us mein ja pade to pichhle pahluo ko kahenge aye rab humare unhone humko behkaya tha to unhein aag ka doona azaab de farmayega sab ko doona hai magar tumhein khabar nahin (38)

وَقَالَتْ أُولَهُمْ لِأَخْرِبُهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا
 كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٣٩﴾

aur pehle pichhlo se kahenge to tum kuchh hum se achhe na rahe to chakho azaab badla apne kiye ka (39)

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي
 الْمُجْرِمِينَ ﴿٤٠﴾

wo jinhone humari aayatein jhutlaai aur unke muqabil takabbur kiya unke liye aasman ke darwaze na khole jayenge aur na wo jannat mein dakhil ho jab tak sooi ke naake oont na dakhil ho aur mujrimo ko hum aisa hi badla dete hain (40)

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۗ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

unhein aag hi bichhona aur aag hi odhna aur zalimo ko hum aisa hi badla dete hain (41)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٤٢﴾

aur wo jo imaan laaye aur taqat bhar achhe kaam kiye hum kisi par taqat se zyada bojh nahin rakhte wo jannat waale hain unhein us mein humesha rehna (42)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ۗ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۗ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ ۗ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

aur humne unke seno mein se keene kheench liye unke niche nehein bahengi aur kahenge sab khoobiya allah ko jisne humein iski raah dikhai aur hum raah na paate agar allah na dikhata beshak humare rab ke rasool haq laaye aur nida hui ke ye jannat tumhein meeraas mili sila tumhare aamaal ka (43)

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنِ اقْدُ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ۗ قَالُوا نَعَمْ ۗ فَاقْدَنَّ مُؤَدِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

aur jannat waalo ne dozakh waalo ko pukara ke humein to mil gaya jo sachha waada hum se humare rab ne kiya tha to kya tumne bhi paaya jo tumhare rab ne sachha waada tumhein diya tha bole haan aur

beech mein munaadi ne pukaar diya ke allah ki lanat
zalimo par (44)

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿٤٤﴾

jo allah ki raah se rokhte hain awra se kuji chahte hain
aur akhirat ka inkar rakhte hain (45)

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۗ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيئِهِمْ ۗ وَتَادُوا

أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ ۗ لَمَّا يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْبَعُونَ ﴿٤٥﴾

aur jannat wa dozakh ke beech mein ek parda hai aur
aaraaf par kuchh mard honge ke dono fareeq ko unki
peshaniyo se pehchanenge aur wo jannatiyo ko
pukarenge ke salam tum par ye jannat mein na gaye
aur uski tama rakhte hain (46)

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ ۖ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾

aur jab unki aankhein dozakhiyo ki taraf phirengi
kahenge aye humare rab humein zalimo ke sath na kar
(47)

وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا آغَىٰ عَنْكُمْ

جَنَّتِكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٤٨﴾

aur aaraaf waale kuchh mardo ko pukarenge jinhein
unki peshani se pehchante hain kahenge tumhein kya
kaam aaya tumhara jattha aur wo jo tum ghuroor karte
the (48)

أَهْوَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۗ طُذِّخُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ

وَلَا أَنْتُمْ تَحْرُؤُونَ ﴿٤٩﴾

kya ye hain wo log jin par tum qasmein khate the ke allah inko apni rahmat kuchh na karega unse to kaha gaya ke jannat mein jaao na tum ko andesha na kuchh gham (49)

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۗ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَهْمَا عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾

aur dozakhi bihishtiyo ko pukarenge ke humein apne paani ka kuchh faiz do ya us khane ka jo allah ne tumhein diya kahenge beshak allah ne un dono ko kafiro par haraam kiya hai (50)

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ قَالَ يَوْمَ نُنسِلُهُم كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ۗ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

jinhone apne deen ko khel tamasha bana liya aur dunya ki zeest ne unhein fareb diya to aaj hum unhein chhod denge jaisa unhone us din ke milne ka khayaal chhoda tha aur jaisa humari aayato se inkar karte the (51)

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتٰبٍ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هَدٰى ۖ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

aur beshak hum unke paas ek kitab laaye jise humne ek bade ilm se mufassal kiya hidayat wa rahmat imaan waalo ke liye (52)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۗ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۗ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ

الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ طَقَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾

kaahe ki raah dekhte hain magar uski ke us kitab ka kaha hua anjaam samne aaye jis din uska bataya anjaam waaqe hoga bol uthenge wo jo use pehle se bhulaye baithe the ke beshak humare rab ke rasool haq laaye the to hain koi humare sifarishi jo humari shafa'at karein ya hum wapas bheje jaayein ke pehle kaamo ke khilaf kaam karein beshak unhone apni jaanein nuqsan mein daali aur unse khoye gaye jo bohtaan uthate the (53)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا ۗ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾

beshak tumhara rab allah hai jisne aasman aur zameen chhe din mein banaye phir arsh par istawa farmaya jaisa uski shaan ke laaiq hai raat din ko ek dusre se dhankta hai ke jald uske pichhe laga aata hai aur suraj aur chand aur taaro ko banaya sab uske hukm ke dabe hue sun lo usi ke haath hai paida karna aur hukm dena badi barkat waala hai allah rab saare jahaan ka (54)

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

apne rab se dua karo gidgirate aur ahista beshak hadd se badhne waale use pasand nahin (55)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

aur zameen mein fasaad na phailao uske sanwarne ke baad aur usse dua karo darte aur tama karte beshak allah ki rahmat neko se qareeb hai (56)

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا
سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَلِكَ نُخْرِجُ
الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

aur wahi hai ke hawayein bhejta hai uski rahmat ke aage muzda sunati yahan tak ke jab utha laayein bhari baadal humne use kisi murda shehar ki taraf chalaya phir us se paani utara phir usse tarah tarah ke phal nikaale isi tarah hum murdo ko nikalenge kahin tum nasehat maano (57)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ ط
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

aur jo achhi zameen hai uska sabza allah ke hukm se nikalta hai aur jo kharab hai us mein nahin nikalta magar thoda ba mushkil hum yun hi tarah tarah se aayatein bayaan karte hain un ke liye jo ehsaan maanein (58)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾

beshak humne nooh ko uski qaum ki taraf bheja to usne kaha aye meri qaum allah ko pujo uske siwa

tumhara koi mabood nahin beshak mujhe tum par bade din ke azaab ka dar hai (59)

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

uski qaum ke sardar bole beshak hum tumhein khuli gumrahi mein dekhte hain (60)

قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٠﴾

kaha aye meri qaum mujh mein gumrahi kuchh nahin main to rabbul aalameen ka rasool hoon (61)

أَبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

tumhein apne rab ki risalatein pahunchata aur tumhara bhala chahta aur main allah ki taraf se wo ilm rakhta hoon jo tum nahin rakhte (62)

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٦٢﴾

aur kya tumhein is ka achambha hua ke tumhare paas tumhare rab ki taraf se ek naseehat aai tum mein ke ek mard ki marifat ke wo tumhein daraye aur tum daro aur kahin tum par reham ho (63)

فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَائِينَ ﴿٦٣﴾

to unhone use jhutlaya to humne use aur jo uske saath kashti mein the najaat di aur apni aayatein jhutlane waalo ko dubo diya beshak wo andha giroh tha (64)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا

تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾

aur aad ki taraf unki biradari se hood ko bheja kaha aye meri qaum allah ki bandagi karo uske siwa tumhara koi mabood nahin to kya tumhein dar nahin (65)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ

الْكٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾

uski qaum ke sardar bole beshak hum tumhein bewuqoof samajhte hain aur beshak hum tumhein jhooto mein gumaan karte hain (66)

قَالَ يَقَوْمِ كَيْسَ فِي سَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾

kaha aye meri qaum mujhe bewuqoofi se kya ilaqa main to parwardigare aalam ka rasool hoon (67)

أَبَلِّغُكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نٰصِحٌ أٰمِينٌ ﴿٦٨﴾

tumhein apne rab ki risalatein pahunchata hoon aur tumhara motamad khairkhwah hoon (68)

أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۖ وَادْكُرُوا

إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً ۚ فَادْكُرُوا الْآءَ

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾

aur kya tumhein iska achambha hua ke tumhare paas tumhare rab ki taraf se ek naseehat aai tum mein ke ek mard ki marfat ke wo tumhein daraye aur yaad karo jab usne tumhein qaume nooh ka janashen kiya aur tumhare badan ka phailaao badhaya to allah ki

nematein yaad karo ke kahin tumhara bhala ho (69)

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدْرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ

كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

bole kya tum humare paas isliye aaye ho ke hum ek allah ko pujein aur jo humare baap dada pujte the unhein chhod dein to laao jiska humein waada de rahe ho agar sachhe ho (70)

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونِنِي فِيْ اَسْمَاءِ

سَيِّئَاتِيْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ اِنِّيْ مَعَكُمْ

مِّنَ الْمُتَنْظِرِيْنَ ۝

kaha zaroor tum par tumhare rab ka azaab aur ghazab pad gaya kya mujhse khaali in naamo mein jhagadte rahe ho jo tum ne aur tumhare baap dada ne rakh liye allah ne unki koi sanad na utaari to rasta dekho main bhi tumhare saath dekhta hoon (71)

فَاَنْجَيْنٰهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَاۤىِٕرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا

مُؤْمِنِيْنَ ۝

to humne use aur uske saath waalo ko apni ek badi rahmat farma kar najaat di aur jo humari aayatein jhutlate the unki jad kaat di aur wo imaan waale na the (72)

وَ اِلٰى ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ طٰلِحًا قَالَ يٰقَوْمِ اِعْبُدُوْا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ هٰذِهِ نٰقَةٌ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَةٌ فَاذْرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَ

لَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

aur samood ki taraf unki biradari se saaleh ko bheja kaha aye meri qaum allah ko pujo jo uske siwa tumhara koi mabood nahin beshak tumhare paas tumhare rab ki taraf se raushan daleel aai ye allah ka naaqa hai tumhare liye nishani to use chhod do ke allah ki zameen mein khaye aur use burai se haath na lagao ke tumhein dardnak azaab aa lega (73)

وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَاذْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

aur yaad karo jab tum ko aad ka janasheen kiya aur mulk mein jagah di ke narm zameen mein mehal banate ho aur pahado mein makaan tarashte ho to allah ki nematein yaad karo aur zameen mein fasaad machate na phiro (74)

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صِدْحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝

us qaum ke takabbur waale kamzor musalmano se bole kya tum jaante ho ke saaleh apne rab ke rasool hain bole wo jo kuchh le kar bheje gaye hum us par imaan rakhte hain (75)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝

mutakabbir bole jis par tum imaan laaye humein usse inkaar hai (76)

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ الْإِنْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ

الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾

pas naaqa ki koochein kaat di aur apne rab ke hum se sarkashi ki aur bole aye saaleh hum par le aao jiska tum waada de rahe ho agar tum rasool ho (77)

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ ﴿٧٨﴾

to unhein zalzala ne aa liya to subah apne gharo mein aundhe reh gaye (78)

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا

تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٧٩﴾

to saaleh ne unse moonh phera aur kaha aye meri qaum beshak maine tumhein apne rab ki risalat pahuncha di aur tumhara bhala chaha magar tum khair khwaho ke arzi hi nahin (79)

وَلَوْ طَآئِفًا لَقَوْمِهِ آتَانُونَ الْفَآحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

aur looth ko bheja jab us ne apni qaum se kaha kya wo be hayai karte ho jo tum se pehle jahaan mein kisi ne na ki (80)

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾

tum to mardo ke paas shehwat se jaate ho auratein chhod kar balki tum log hadd se guzar gaye (81)

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَتَّبِعُهُرُؤُونَ ﴿٨٢﴾

aur uski qaum ka kuchh jawab na tha magar yahi kehna ke in ko apni basti se nikaal do ye log to

pakeezgi chahte hain (82)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۗ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٢﴾

humne use aur uske ghar waalo ko najaat di magar uski aurat wo reh jaane waalo mein hui (83)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٣﴾

aur hum ne un par ek meenh barsaya to dekho kaisa anjaam hua mujrimo ka (84)

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ

جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٨٤﴾

aur madain ki taraf unki biradari se shoaib ko bheja kaha aye meri qaum allah ki ibadat karo uske siwa tumhara koi mabood nahin beshak tumhare paas tumhare rab ki taraf se raushan daleek aai to naap aur tol poori karo aur logon ki cheezeib ghata kar na do aur zameen mein intezam ke baad fasaad na phailao ye tumhara bhala hai agar imaan laao (85)

وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ ۗ وَ

تَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ ۗ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

aur har raste par yun na baitho ke raahgiro ko darao aur allah ki raah se unhein roko jo us par imaan laaye aur us mein kuji chaho aur yaad karo jab tum thode

the usne tumhein badha diya aur dekho fasadiyo ka
kaisa anjaam hua (86)

وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا
حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٦﴾

aur agar tum mein ek giroh us par imaan laaya jo main
le kar bheja gaya aur ek giroh ne na maana to thehre
raho yahan tak ke allah hum mein faisla kare aur allah
ka faisla sabse behtar (87)

Nawaa Paarah

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ
مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوْ لَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾

uski qaum ke mutakabbir sardar bole aye shuaib
qasam hai ke hum tumhein aur tumhare saath waale
musalmano ko apni basti se nikaal denge ya tum
humare deen mein aa jao kaha gaya agarche hum
bezaar ho'n (88)

قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا
يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ طَعَلَى
اللَّهُ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ ۚ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾

zaroor hum allah par jhoot bandhenge agar tumhare
deen mein aa jaayein baad iske ke allah ne humein isse
bachaya hai aur hum musalmano mein kisi ka kaam
nahin ke tumhare deen mein aaye magar ye ke allah
chahe jo humara rab hai humare rab ka ilm har cheez
ko muheet hai humne allah hi par bharosa kiya aye rab
humare hum mein aur humari qaum mein haq faisla
kar aur tera faisla sabse behtar (89)

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخُسْرُونٌ ﴿٩٠﴾

aur uski qaum ke kafir sardar bole ke agar tum shuaib
ke taabe hue to zaroor nuqsan mein rahoge (90)

فَأَخَذْتَهُمُ الرَّجْفَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿٩١﴾

to unhein zalzale ne aa liya subah apne gharo mein
aundhe pade rah gaye (91)

الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ

الْخٰسِرِينَ ﴿٩٢﴾

shuaib ko jhutlane waale goya un gharo mein kabhi
rahe hi na the shuaib ko jhutlane waale wahi tabahi
mein pade (92)

فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ آسَىٰ

عَلَىٰ قَوْمٍ كٰفِرِينَ ﴿٩٣﴾

to shuain ne unse moonh phera aur kaha aye meri
qaum tumhein apne rab ki risalat pahuncha chuka aur
tumhare bhale ko naseehat ki to kyunkar gham karoon
kafiro ka (93)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾

aur na bheja humne kisi basti mein koi nabi magar ye
ke logon ko sakhti aur takleef mein pakda ke wo kisi
tarah raazi karein (94)

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَ

السَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾

phir humne burai ki jagah bhalai badal di yahan tak ke
wo bahut the to humne unhein achanak unki ghaflat
mein pakad liya (95)

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

aur agar bastiyo waale imaan laate aur darte to zaroor hum un par aasman aur zameen se barkatein khol dete magar unhone to jhutlaya to humne unhein unke kiye par giraftar kiya (96)

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾

kya bastiyo waale nahin darte ke un par humara azaab raat ko aaye jab wo sote hain (97)

أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾

ya bastiyo waale nahin darte ke un par humara azaab din chadhe aaye jab wo khel rahe ho (98)

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

kya allah ki khafi tadbeer se nidar hain to allah ki khafi tadbeer se nidar nahin hote magar tabahi waale (99)

أَوْ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصْبَلْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۗ
وَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

aur kya wo jo zameen ke maliko ke baad uske waris hue unhein itni hidayat na mili ke hum chahein to unhein unke gunaho par aafat pahunchayein aur hum unke dilo par muhar karte hain ke wo kuchh nahin sunte (100)

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۗ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٠﴾

ye bastiya hain jin ke ahwaal hum tumhein sunate hain aur beshak un ke paas unke rasool raushan daleelein le kar aaye to wo us qabil na hue ke wo us par imaan laate jaise pehle jhutla chuke the allah yun hi chhaap laga deta hai kafiro ke dilo par (101)

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۗ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠١﴾

aur un mein aksar ko hum ne qaul ka sachha na paaya aur zaroor main aksar ko be hukm hi paaya (102)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٣﴾

phir unke baad humne moosa ko apni nishaniyo ke saath firaun aur uske darbariyo ki taraf bheja to unhone un nishaniyo par zyadati ki to dekho kaisa anjaam hua mufsid ka (103)

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرُّ عَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

aur moosa ne kaha aye firaun main parwardigaare aalam ka rasool hoon (104)

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۗ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٠٥﴾

mujhe sazawaar hai ke allah par kahoon magar sachhi baat main tum sab ke paas tumhare rab ki taraf se nishani le kar aaya hoon to bani israyeel ko mere saath chhod do (105)

قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١٠٦﴾

bola agar tum koi nishani le kar aaye ho to laao agar

sachhe ho (106)

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٦﴾

to moosa ne apna asaa daal diya wo fauran ek zahir
azdaha ho gaya (107)

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنُّظُرِ ﴿١٠٧﴾

aur apna haath gireban mein daal kar nikaala to wo
dekhne waalo ke saamne jagmagane laga (108)

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحِرُ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾

qaume firaun ke sardar bole ye to ek ilm waala jadugar
hai (109)

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَا ذَاتَ مُرُونَ ﴿١١٠﴾

tumhein tumhare mulk se nikaala chahta hai to
tumhara kya mashwara hai (110)

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١﴾

bole unhein aur unke bhai ko thehra aur shehro mein
log jama karne waal le bhej de (111)

يَا تُؤْكِبُ كُلَّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿١١٢﴾

ke har ilm waale jadugar ko tere paas le aayein (112)

وَجَاءَ السَّحِرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٣﴾

aur jadugar firaun ke paas aaye bole kuchh humein
inaam milega agar hum ghalib aayein (113)

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤﴾

bola haan aur us waqt tum muqarrab ho jaoge (114)

قَالُوا يٰمُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ ثَلَاثِي وَإِنَّمَا أَنْتَ نَكُونُ نَحْنُ الْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

bole aye moosa ya to aap daalein ya hum daalne waale
ho'n (115)

قَالَ الْقَوْمُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ
عَظِيمٍ ﴿١١٥﴾

kaha tumhi daalo aur jab unhone daala logon ki nigaho
par jadu kar diya aur unhein daraya bada jaadu laaye
(116)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٦﴾
aur humne moosa ko wahi farmai ke apna asa daal to
nigah wo un ki banawato ko nigalne laga (117)

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٧﴾
to haq sabit hua aur unka kaam batil hua (118)

فَغَلَبُوا هَنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٨﴾
to wo maghloob pade aur zaleel ho kar palte (119)

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجْدِينَ ﴿١١٩﴾
aur jadugar sajde mein gira diye gaye (120)

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٠﴾
bole hum imaan laaye jahaan ke rab par (121)

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢١﴾
jo rab hai moosa aur haroon ka (122)

قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُ فِي الْمَدِينَةِ
لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٢﴾

firaun bola tum is par imaan le aaye qabal iske ke main
tumhein ijazat doon ye to bada jaal hai jo tum sab ne

shehar mein phailaya hai ke shehar waalo ko isse
nikaal do to ab jaan jaoge (123)

لَا قَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَا صَلْبَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٠﴾

qasam hai ke main tumhare ek taraf ke haath aur dusri
taraf ke paaon katunga phir tum sab ko sooli dunga
(124)

قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٣١﴾

bole hum apne rab ki taraf phirne waale hain (125)

وَمَا تَنْفَعُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَنَّا بِإِيْتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ۗ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ
تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿٣٢﴾

aur tujhe humara kya bura laga yahi na ke hum apne
rab ki nishaniyo par imaan laaye jab wo humare paas
aai aye rab humare hum par sabr undel de aur humein
musalman utha (126)

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ
الْهِتَكَ ۗ قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۗ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿٣٣﴾

aur qaume firaun ke sardar bole kya tu moosa aur uski
qaum ko isliye chhodta hai ke wo zameen mein fasaad
phailayein aur moosa tujhe aur tere thehraye hue
maboodo ko chhod de bola ab hum unke beto ko qatl
karenge aur unki betiya zinda rakhenge aur beshak
hum un par ghalib hain (127)

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ۖ يُورِثُهَا مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

moosa ne apni qaum se farmaya allah ki madad chaho aur sabr karo beshak zameen ka malik allah hai apne bando mein jise chahe waris banaye aur aakhir maidan parhezgaro ke haath hai (128)

قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۗ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ
عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٨﴾

bole hum sataye gaye आपके aane se pehle aur आपके tashreef laane ke baad kaha qareen hai ke tumhara rab tumhare dushman ko halaak kare aur uski jagah zameen ka malik tumhein banaye phir dekhe kaise kaam karte ho (129)

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَدْغُرُونَ ﴿١٣٠﴾

aur beshak humne firaun waalo ko barso ke qahat aur phalo ke ghatane se pakda ke kahin wo naseehat maanein (130)

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا إِنَّا هَاهُنَا وَإِن تَصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَنْتَوِيروا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَآئِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

to jab unhein bhalai milti kehte ye humare liye hai aur jab burai pahunchti to moosa aur uske saath waalo se badshuguni lete sun lo unke naseeba ki shaamat to allah ke yahan hai lekin un mein aksar ko khabar nahin (131)

وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا ۗ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفْصَلَاتٍ ۗ

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٣٣﴾

to bheja humne un par toofan aur tetri aur ghun (ya kulni ya jooein) aur mendak aur khoon juda juda nishaniya to unhone takabbur kiya aur wo mujrim qaum thib(133)

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِيُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٣٤﴾

aur jab un par azaab padta kehte aye moosa humare liye apne rab se dua karo is ahad ke sabab jo uska tumhare paas hai beshak agar tum hum par se azaab utha doge to hum zaroor tum par imaan layenge aur bani israyeel ko tumhare saath kar denge (134)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ آجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾

phir jab unse azaab utha lete ek muddat ke liye jis tak unhein pahunchna hai jabhi wo phir jaate (135)

فَأْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٣٦﴾

humne unse badla liya to unhein darya mein dubo diya isliye ke humari aayatein jhutlate aur unse be khabar the (136)

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۗ وَكَلَّمْتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

aur humne us qaum ko jo daba li gai thi us zameen ke

purab pachhim ka waris kiya jis mein humne barkat rakhi aur tere rab ka achha waada bani israyeel par poora hua badla unke sabr ka aur humne barbad kar diya jo kuchh firaun aur uski qaum banati aur jo chinaiya uthate the (137)

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ۗ قَالُوا
يُمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٧﴾

aur humne bani israyeel ko darya paar utara to unka guzar ek aisi qaum par hua ke apne buto ke aage aasan maare the bole aye moosa humein ek khuda bana de jaise unke liye itne khuda hain bola tum zaroor jahil log ho (138)

إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُمُ فِيهِ وَبِطُلٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾

ye haal to barbadi ka hai jis mein ye log hain aur jo kuchh kar rahe hain nira batil hai (139)

قَالَ اغْيِرِ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾

kaha kya allah ke siwa tumhara koi khuda talash karoon halanki usne tumhein zamane bhar par fazeelat di (140)

وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ يَحْتَبِتُونَ أبنَاءُكُمْ وَ
يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤١﴾

aur yaad karo jab humne tumhein firaun waalo se najaat bakhshi ke tumhein buri maar dete tumhare bete zibah karte aur tumhari betiya baaqi rakhte aur us mein tumhare rab ka bada fazl hua (141)

وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْمَةٍ مِيقَاتِ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۗ
 قَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ

الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤٢﴾

aur humne moosa se tees raat ka waada farmaya aur un mein dus aur badha kar poori ki to uske rab ka waada poori chaalis raat ka hua aur moosa ne apne bhai haroon se kaha meri qaum par mere naaib rehna aur islah karna aur fasadiyo ki raah ko dakhla na dena

(142)

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ۗ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنْ نَرِيكَ
 وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ ۗ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ
 جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَبْحًا ۗ فَلَمَّا أَخَذَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبٰتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾

aur jab moosa humare waada par hazir hua aur usse uske rab ne kalaam farmaya arz ki aye rab mere mujhe apna deedar dikha ke main tujhe dekhon farmaya tu mujhe hargiz na dekh sakega haan us pahad ki taraf dekh ye agar apni jagah par thehra raha to anqareeb tu mujhe dekh lega phir jab uske rab ne pahaad par apna noor chamkaya use paash paash kar diya aur moosa gira behosh phir jab hosh hua bola paaki hai tujhe main teri taraf ruju laaya aur main sabse pehla musalman hoon (143)

قَالَ يُمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي ۗ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ

مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾

farmaya aye moosa maine tujhe logon se chun liya apni risalato aur apne kalaam se to le jo maine tujhe ata farmaya aur shukr waalo mein ho (144)

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخَذَهَا بِقُوَّةٍ
وَأْمَرَ قَوْمَهُ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۗ وَسَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾

aur humne uske liye takhtiyo mein likh di har cheez ki naseehat aur har cheez ki tafseel aur farmaya aye moosa ise mazbooti se le aur apni qaum ko hukm de ke iski achhi baatein ikhteyar karein anqareeb main tumhein dikhaunga be hukmo ka ghar (145)

سَاصِرِفٌ عَنِ الْيَتَّى الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا
لَّا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۗ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ
الْعُغْيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٦﴾

aur main apni aayato se inhein pher dunga zameen mein nahaq apni badai chahte hain aur agar sab nishaniya dekhein un par imaan na laayein aur agar hidayat ki raah dekhein us mein chalna pasand na karein aur gumrahi ka rasta nazar pade to us mein chalne ko maujood ho jaayein ye isliye ke unhone humari aayatein jhutlai aur unse be khabar bane (146)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْأَخْرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۗ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٧﴾

aur jinhone humari aayatein aur aakhirat ke darbar ko

jhutlaya unka sab kiya dhara akarat gaya unhein kya badla milega magar wahi jo karte the (147)

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حَلِيْبِهِمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهُ خِوَارٌ ۗ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيْلًا ۗ اتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾

aur moosa ke baad uski qaum apne zewaro se ek bachhda bana baithi be jaan dhad gaaye ki tarah aawaz karta kya na dekha ke wo unse na baat karta hai aur na unhein kuchh raah bataye use liya aur wo zalim the (148)

وَلَمَّا سَقَطَ فِيْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا ۗ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿١٤٨﴾

aur jab pachhtaye aur samajh ke hum behke bole agar humarw rab hum par muhar na kare aur humein na bakhshhe to hum tabah hue (149)

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ اِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسْفًا ۗ قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُوْنِيْ مِنْ بَعْدِي ۗ اَعَجَلْتُمْ اَمْرًا رَّبِّكُمْ ۗ وَالْتَمَى الْاَلْوٰحَ وَاَخَذَ بِرَاسِ اَخِيْهِ يَجْرُهُ اِلَيْهِ ۗ قَالَ اِبْنُ اَمْرَانَ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِيْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنِيْ ۗ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِيْ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ﴿١٤٩﴾

aur jab moosa apni qaum ki taraf palta ghussa mein bhara jhunjlaya hua kaha tum ne kya buri meri janasheeni ki mere baad tum ne kya apne rab ke hukm se jaldi ki aur takhtiya daal di aur apne bhai ke sar ke baal pakad kar apni taraf kheenchne laga kaha aye mere maa jaaye qaum ne mujhe kamzor samjha aur

qareeb tha ke mujhe maar daalein to mujh par
dushmano ko na hansa aur mujhe zalimo mein na mila
(150)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا تَجْزِي وَلَا تَجْزِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٥٠﴾

arz ki aye mere rab mujhe aur mere bhai ko bakhsh de
aur humein apni rahmat ke andar le le aur tu sab
muhar waalo se badh kar muhar waala (151)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿٥١﴾

beshak wo jo bachhda le baithe anqareeb unhein unke
rab ka ghazab aur zillat pahunchna hai dunya ki
zindagi mein aur hum aisa hi badla dete hain bohtan
haayo ko (152)

وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٥٢﴾

aur jinhone buraiya ki aur un ke baad tauba ki aur
imaan laaye to uske baad tumhara rab bakhshne
waala meharbaan hai (153)

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۗ وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَدُّونَ ﴿٥٣﴾

aur jab moosa ka ghussa thama takhtiya utha li aur
unki tehreer mein hidayat aur rahmat hai unke liye jo
apne rab se darte hain (154)

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّحِقَاتِنَا ۗ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ

شِئْتُمْ أَهْلَكْتَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا ؕ إِنَّ هِيَ إِلَّا
فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ؕ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ
ارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

aur moosa ne apni qaum se sattu mard humare waade ke liye chune phir jab unhein zalzala ne liya moosa ne arz ki aye rab mere tu chahta to pehle hi inhein aur mujhe halaak kar deta kya tu humein is kaam par halaak farmayega jo humare be aqlo ne kiya wo nahin magar tera aazmana to usse behkaye jise chahe aur raah dikhaya jise chahe tu humara maula hai to humein bakhsh de aur hum par muhar kar aur tu sabse behtat bakhshne waala meharbaan hai (155)

وَ اَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّآ هُدُنَا اِلَيْكَ ط قَالَ عَدَايَ
اُصِيبُ بِهٖ مِّنْ اَشْءٍ ؕ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَ
يُؤْتُوْنَ الرِّكُوٰةَ وَ الَّذِيْنَ هُمْ بِاٰتِنَا يُوْمِنُوْنَ ﴿١٥٦﴾

aur humare liye dunya mein bhalai likh aur aakhirat mein beshak hum teri taraf ruju laaye farmaya mera azaab main jise chahu doon aur meri rahmat har cheez ko ghare hai to anqareeb main nemato ko unke liye likh dunga jo darte aur zakaat dete hain aur wo humari aayato par imaan laate hain (156)

الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِٰٔثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ

عَلَيْهِمْ قَالِذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۖ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

wo jo ghulami karenge is rasool be padhe ghaib ki khabrein dene waale ki jise likha hua payenge apne paas taurait aur injeel mein wo unhein bhalai ka hukm dega aur burai se mana farmayega aur suthri cheezein unke liye halal farmayega aur gandi cheezein un par haraam karega aur un par se wo bojh aur gale ke phande jo un par the utarega to wo jo us par imaan laayein aur uski tazeem karein aur use madad dein aur us noor ki pairwi karein jo uske saath utra wahi bamuraad hue (157)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
كَلِمَاتِهِ ۖ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

tum farmao aye logo main tum sab ki taraf us allah ka rasool hoon ke aasman wa zameen ki badshahi usi ko hai uske siwa koi mabood nahin jilaaye aur maatre to imaan laao allah aur uske rasool be padhe ghaib batane waale par ke allah aur uski baato par imaan laate hain aur unki ghulami karo ke tum raah pao (158)

وَمِنْ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ النُّجُومِ نَزَّاجِلًا فَآمَنُوا ۚ فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ سَاءَ لِمَنْ كَفَرَ مَأْوَاهُ ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٥٩﴾

aur moosa ki qaum se ek giroh hai ke haq ki raah batata aur usi se insaf karta (159)

وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمَهُ
 أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
 أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ ۗ كُلُّوْا
 مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۗ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾

aur humne unhein baant diya baarah qabeele giroh
 giroh aur hum ne wahih bheji moosa ko jab usse uski
 qaum ne paani manga ke us patthar par apna asaa
 maaro to us mein se baarah chashme phoot nikle har
 giroh ne apna ghaat pehchan liya aur hum ne un par
 abr saiban kiya aur un par mann wa salwa utara khao
 humari di hui paak cheezein aur unhone humara
 kuchh nuqsan na kiya lekin apni hi jaano ka bura karte
 the (160)

وَإِذ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَ
 ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ ۗ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾

aur yaad karo jab humne unse farmaya gaya us shehar
 mein baso aur us mein jo chaho khao aur kaho gunah
 utre aur darwaze mein sajda karte dakhil ho hum
 tumhare gunah bakhsh denge anqareeb neko ko zyada
 ata farmayenge (161)

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ
 السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾

to un mein ke zalimo ne baat badal di uske khilaf jiska
 unhein hukm tha to humne un par aasman se azaab

bheja badla unke zulm ka (162)

وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ
تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۗ
كَذَلِكَ ۗ نَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٢﴾

aur unse haal puchho us basti ka ke darya kinare thi jab wo hafte ke baare mein hadd se badhte hafte ke din unki machhliya paani par tairti unke samne aati aur jo din hafte ka na hota na aati is tarah hum unhein aazmate the unki be hukmi ke sabab (163)

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۗ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۗ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ۗ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٣﴾

aur jab un mein se ek giroh ne kaha kyun naseehat karte ho un logon ko jinhein allah halaak karne waala hai ya unhein sakht azaab dene waala bole tumhare rab ke huzoor mazrat ko aur shayad unhein dar ho (164)

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَبْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
بِعَذَابٍ بَّيِّنٍ ۖ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾

phir jab wo bhula baithe jo naseehat unhein hui thi humne bacha liye wo jo burai se mana karte the aur zalimo ko bure azaab mein pakda badla unki nafarmani ka (165)

فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٥﴾

phir jab unhone mumanat ke hukm se sarkashi ki

humne unse farmaya ho jao bandar dhutkare hue
(166)

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ۗ إِنَّ
رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٦﴾

aur jab tumhare rab ne hukm suna diya ke zaroor
qiyamat ke din tak un par aise ko bhejta rahunga jo
unhein buri maar chakhaye beshak tumhara rab
zaroor jald azaab dene waala hai beshak wo bakhshne
waala meharbaan hai (167)

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا ۗ مِنْهُمْ الْمُضِلُّونَ وَمِنْهُمْ الْمُهْتَدُونَ ۗ ذَلِكَ وَبَوَّأْنَاهُمْ
بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٧﴾

aur unhein humne zameen mein mutafarriq kar diya
giroh giroh un mein kuchh nek hain aur kuchh aur
tarah ke aur humne unhein bhalaiyo aur buraiyo se
aazmaya ke kahin wo ruju laayein (168)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ
سَيَغْفِرَ لَنَا ۗ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلَهُ يَأْخُذُوهُ ۗ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ
الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۗ وَاللَّارِ الْأَخْرَجَةُ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٨﴾

phir unki jagah unke baad wo na khalaf aaye ke kitab
ke waris hue is dunya ka maal lete hain aur kehte ab
humari bakhshish hogi aur agar waisa hi maal unke
paas aur aaye to le lein kya un par kitab mein ahad na
liya gaya ke allah ki taraf nisbat na karein magar haq

aur unhone use padha aur beshak pichhla ghar behtar hai parhezgaro ko to kya tumhein aql nahin (169)

وَالَّذِينَ يُسْئَلُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٦٩﴾

aur wo jo kitab ko mazboot thaamte hain aur unhone namaz qaaim rakhi hum neko ka neg nahin ginwaate

(170)

وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٠﴾

aur jab humne pahaad uthaya goya wo saibaan hai aur samjhe ke wo un par gir padega lo jo humne tumhein diya zor se aur yaad karo jo us mein hai ke kahin tum parhezgar ho (171)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ ۗ شَهِدْنَا ۗ ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا

غَافِلِينَ ﴿١٧١﴾

aur aye mahboob yaad karo jab tumhare rab ne awlade adam ki pusht se unki nasal nikaal aur unhein khud un par gawah kiya kya main tumhara rab nahin sab bole kyun nahin hum gawah hue ke kahin qiyamat ke din kaho ke humein iski khabar na thi (172)

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ ۗ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا

فَعَلَ الْبُاطِلُونَ ﴿١٧٢﴾

ya kaho ke shirk to pehle humare baap dada ne kiya aur humne unke baad bachhe hue to kya humein is

par halaal farmayega jo ahle batil ne liya (173)

وَكَذَلِكَ نَقُصُّكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٣﴾

aur hum isi tarah aayatein rang rang se bayaan karte hain isliye ke kahin wo phir aayein (174)

وَائْتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخْنَا مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ

الْغَاوِينَ ﴿١٧٤﴾

aur aye mahboob unhein iska ahwaal sunao jise humne apni aayatein di to wo unse saaf nikal gaya to shaitan uske pichhe laga to gumraho mein ho gaya (175)

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ

الْكَلْبِ ۚ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٥﴾

aur hum chahte to aayato ke sabab use utha lete magar wo to zameen pakad gaya aur apni khwahish ka taabe hua to uska haal kutte ki tarah hai tu us par hamla kare to zubaan nikaale aur chhod de to zubaan nikaale ye haal hai unq jinhone humari aayatein jhutlaai to tum naseehat sunao ke kahin wo dhyaan karein (176)

سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٧٦﴾

kya buri kahawat hai un ki jinhone humari aayatein jhutlaai aur apni hi jaan ka bura karte the (177)

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٰ ۚ وَمَنْ يُضِلِّكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٧٧﴾

jise allah raah dikhaye to wahi raah par hai aur jise gumrah kare to wahi nuqsan mein rahe (178)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۗ وَ
لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۗ وَ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَانُوا لِنِعْمِ رَبِّ
هُمُ أَضَلُّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٨﴾

aur beshak humne jahannam ke liye paida kiye bahut jin aur aadmi wo dil rakhte hain jin mein samajh nahin aur wo aankhein jinse dekhte nahin aur wo kaan jinse sunte nahin wo chaupayo ki tarah hain balki unse badh kar gumrah wahi ghaflat mein pade hain (179)

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِهِ ۗ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾

aur allah hi ke hain bahut achhe naam to use un se pukaro aur unhein chhod do jo uske naamo mein haq se nikalte hain wo jald kiya payenge (180)

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَّهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾

aur humare banaye huo mein ek giroh wo hai ke haq batayein aur us par insaf karein (181)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾

aur jinhone humari aayatein jhutlaai jald hum unhein aahista aahista azaab ki taraf le jayenge jahan se unhein khabar na hogi (182)

وَأْمُرِي لَهُمْ ۗ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾

aur main unhein dheel dunga beshak meri khufya

tadbeer bahut pakki hai (183)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَّا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٣﴾

kya sochte nahin ke un ke saahib ko jinno se kuchh ilaqa nahin wo to saaf dar sunane waale hain (184)

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْ عَسَىٰ

أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۚ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾

kya unhone nigah na ki aasmano aur zameen ki saltanat mein aur jo jo cheez allah ne banai aur ye ke shayad unka waada nazdeek aa gaya ho to us ke baad aur kaunsi baat par yaqeen laayenge (185)

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ ۗ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾

jise allah gumrah kare use koi raah dikhane waala nahin unhein chhodta hai ke apni sarkashi mein bhatka karein (186)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۚ لا يُجَلِّيهَا

لَوْ قَتَبَهَا إِلَّا هُوَ ۗ نُنَقِلُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

tum se qiyamat ko puchhte hain ke wo kab ko thehri hai tum farmao iska ilm to mere rab ke paas hai use wahi uske waqt par zaahir karega bhari pad rahi hai aasmano aur zameen mein tum par na aayegi magar achanak tum se aisa puchhte hain goya tum ne ise khoob tehqeeq kar rakha hai farmao iska ilm to allah hi

ke paas hai lekin बहुत log jaante nahin (187)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا
سُتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ ۗ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۗ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٧﴾

tum farmao main apni jaan ke bhale bure ka khud mukhtar nahin magar jo allah chahe aur agar main ghain jaan liya karta yun hota ke maine बहुत bhalai jama kar li aur mujhe koi burai na pahunchi main to yahi dar aur khushi sunane waala hoon unhein jo imaan rakhte hain (188)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا
تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهَا لِنِ اتِّبِنَنَا
صَالِحًا لَنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿١٨٩﴾

wahi hai jisne tumhein ek jaan se paida kiya aur usi mein se uska joda banaya ke usse chain paaye phir jab mard us par chhaya use ek halka sa pet reh gaya to use liye phira phir jab bojhal padi dono ne apne rab allah se dua ki zaroor agar tu humein jaisa chahiye bachha dega to beshak hum shukr guzar honge (189)

فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أُتِيَتْهَا ۖ فَتَعَلَّى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾
phir jab usne unhein jaisa chahiye bachha ata farmaya unhone uski ata mein uske saajhi thehraye to allah ko bartari hai unke shirk se (190)

أَيْشِرْ كُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ۖ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩٠﴾

kya use shareek karte hain jo kuchh na banaye aur wo khud banaye hue hain (191)

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩١﴾

aur na wo un ko koi madad pahuncha sakein aur na apni jaano ki madad karein (192)

وَأِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سُوَاءَ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ

صَامِتُونَ ﴿١٩٢﴾

aur agar tum unhein raah ki taraf bulao to tumhare pichhe na aayein tum par ek sa chahe unhein pukaro ya chup raho (193)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٣﴾

beshak wo jin ko tum allah ke siwa pujte ho tumhari tarah bande hain to unhein pukaro phir wo tumhein jawab dein agar tum sachhe ho (194)

أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبِطُّشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ

بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا ۚ فَلَا

تُنظَرُونَ ﴿١٩٤﴾

kya un ke paaon hain jinse chalein ya unke haath hain jinse giraft karein ya unke aankhein hain jinse dekhein ya unke kaan hain jisne sunein tum farmao ke apne shareeko ko pukaro aur mujh par daao'n chalo aur mujhe mohlat na do (195)

إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۗ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٥﴾

beshak mera waali allah hai jisne kitab utari aur wo
neko ko dost rakhta hai (196)

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٦﴾

aur jinhein uske siwa pujte ho wo tumhari madad
nahin kar sakte aur na khud apni madad karein (197)

وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا

يُبْصِرُونَ ﴿١٩٨﴾

aur agar unhein raah ki taraf bulao to na sunein aur tu
unhein dekhe ke wo teri taraf dekh rahe hain unhein
kuchh nahin soojhta (198)

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

aye mahboob muaaf karna ikhteyar karo aur bhalai ka
hukm do aur jahilo se moonh pher lo (199)

وَأَمَّا يُنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

aur aye sunne waale agar shaitan tujhe koi kuncha de
to allah ki panah maang beshak wahi sunta jaanta hai
(200)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾

beshak wo jo dar waale hain jab unhein kisi shaitani
khayaal ki thes lagti hai to hoshyar ho jaate hain usi
waqt unki aankhein khul jaati hain (201)

وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّوْنَهُمْ فِي الْعَنِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

aur wo jo shaitano ke bhai hain shaitan unhein
gumrahi mein kheenchte hain phir gai nahin karte
(202)

وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۗ
هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾

aur aye mahboob jab tum unke paas koi aayat na laao to kehte hain tumne dil se kyun na banai, tum farmao main to usi ki pairwi karta hoon jo mere rab se wahih hoti hai ye tumhare rab ki taraf se aankhein kholna hai aur hidayat aur rahmat musalmano ke liye (203)

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

aur jab quran padha jaaye to use kaan laga kar suno aur khamosh raho ke tum par raham ho (204)

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

aur apne rab ko apne dil mein yaad karo zaari aur dar se aur be aawaz nikle zuban se subah aur shaam aur ghafilo mein na hona (205)

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ
يَسْجُدُونَ ﴿٢٠٦﴾

beshak wo jo tere rab ke paas hain uski ibadat se takabbur nahin karte aur uski paaki bolte aur usi ko sajda karte hain (206-sajda)

ye aayate sajda hai

Suratul Anfaal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo nihayat meharban rahmat wala

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاصْلِحُوا
ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

ay mehboob tumse ghanimaton ko poochhte hain tum farmao ghanimaton ke malik allah wa rasool hain, to allah se daro aur apne aapas me mel rakho aur allah wa rasool ka hukm maano agar imaan rakhte ho.(1)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ
زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

imaan wale wahi hain ki jab allah yaad kiya jaye unke dil darr jayen aur jab un par usko aayaten padhi jayen unka imaan taraqqi paaye aur apne rabb hi par bharosa karen.(2)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

wo jo namaz qaaim rakhein aur hamare diye se kuchh hamari raah me kharch karen.(3)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

yahi sacche musalman hain unke liye darje hain unke rabb ke paas aur bakhshish hai aur izzat ki rozi.(4)

كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ۝

jis tarah ye mehboob tumhen tunhare rabb ne tunhare ghar se haqq ke sath bar'aamad kiya aur beshak musalmanon ka ek giroh us par nakhush tha.(5)

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

sacchi baat me tum se jhagadte the baad iske ki zahir ho chuki goya wo aankhon dekhi maut ki taraf haanke jate hain.(6)

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّكُوكِ

تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۝

aur yaad karo jab allah ne tumhen wada diya tha ki un dono girohon me ek tunhare liye hai aur tum ye chahte the ki tumhen wo mile jisme kaante ka khatka nahi, aur allah ye chahta tha ki apne kalaam se sach kar dikhaye aur kafiron ki jad kaat de.(7)

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝

ke sach ko sach kare aur jhooth jhootha pade bura maanein mujrim.(8)

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ۝

jab tum apne rabb se fariyad karte the to usne tumhari sun li ki mai tumhen madad dene wala hun hazar firishton ki qataar se.(9)

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

aur ye to allah ne kiya magar tumhari khushi ko aur isliye ki tumhare dil chain payen aur madad nahi

magar allah ki taraf se beshak allah galib. hikmat wala hai.(10)

اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمْنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَ كُفْرًا بِهٖ وَيُذِيبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۝

jab usne tumhen oongh se gher diya to uski taraf se chain thi aur aasman se tum par pani utra ki tumhen usse suthra kar de aur shaitan ki napaki tum se door farma de aur tumhare dilon ko dharas bandhaye aur usse tumhare qadam jamaa den.(11)

اِذْ يُوحِي رُبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَلِّطُوْا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنٰنٍ ۝

jab ay mehboob, tumhara rabb firishton ko wahee bhejta tha ki mai tumhare sath hun tum musalmanon ko sabit rakho, anqareeb mai kafiron ke dilon me haibat daalunga to kafiron ki gardano se upar maaro aur unki ek ek por par zarb lagao.(12)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ الْعِقَابِ ۝

ye isliye ki unhone allah aur uske rasool se mukhalifat ki aur jo allah aur uske rasool se mukhalifat kare to beshak allah ka azab sakht hai.(13)

ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ ۝

ye to chakho aur uske sath ye hai ki kafiron ko aag ka azaab hai.(14)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ۝

ay imaan walon jab kafiron ke laam se tumhara muqabla hoto unhe peeth na do.(15)

وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

aur jo us din unhen peeth dega magar ladai ka hunar karne ya apni jama'at me ja milne ko to wo allah ke ghazab me palta aur uska thikana dozakh hai aur kya buri jagah hai palatne ki.(16)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۖ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ۝

to tum ne unhen qatl na kiya balki allah ne unhen qatl qatl kiya aur ay mehboob wo khaak jo tum ne pheki thi balki allah ne pheki aur isliye ke musalmano ko usse accha inaaam ataa farmaye, beshak allah sunta janta hai.(17)

ذِكْرُكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝

ye to lo aur uske sath ye hai ki allah kafiron ka daanw surat karne wala hai.(18)

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدًا ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

aye kafiro agar tum faisla mangte ho to ye faisla tum par aa chuka aur agar baaz aao to tumhara bhala hai aur agar tum phir shararat karo to hum phir saza

denge aur tumhara jattha tumhein kuchh kaam na dega chahe kitna hi bahut ho aur uske saath ye hai ke allah musalmano ke saath hai (19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿١٩﴾

aye imaan waalo allah aur uske rasool ka hukm maano aur sun suna kar usse na phiro (20)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾

aur jaise na hona jinhone kaha humne suna aur wo nahin sunte (21)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

beshak sab janwaro mein badtar allah ke nazdeek wo hain jo behre gunge hain jinko aql nahin (22)

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٢﴾

aur agar allah un mein kuchh bhalai janta to unhein suna deta aur agar suna deta jab bhi anjaam kaar moonh pher kar palat jaate (23)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَعَلِمُوا

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٣﴾

aye imaan waalo allah wa rasool ke bulane par haazir ho jab rasool tumhein us cheez ke liye bulayein jo tumhein zindagi bakhshegi aur jaan lo ke allah ka hukm aadmi aur uske dili idaro mein haail ho jaata hai aur ye ke tumhein usi ki taraf uthna hai (24)

وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقَابِ ﴿٢٥﴾

aur us fitna se darte raho jo hargiz tum mein khaas zalimo hi ko na pahunchega aur jaan lo ke allah ka azaab sakht hai (25)

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ
فَأُولَئِكَ مِمَّا يَنْصَرِفُ وَأَيُّكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقِكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٥﴾

aur yaad karo jab tum thode the mulk mein dabe hue darte the ke kahin log tumhein uchak na le jaayein to usne tumhein jagah di aur apni madad se roz diya aur suthri cheezein tumhein rozi di ke kahin tum ehsan maano (26)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

aye imaan waalo allah wa rasool se dagha na karo aur na apni amanato mein danista khayanat (27)

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٧﴾

aur jaan rakho ke tumhare maal aur tumhari awlaad sab fitna aur allah ke paas bada sawaab (28)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُغْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ
يَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٨﴾

aye imaan waalo agar allah se daroge to tumhein wo dega jis se haq ko batil se juda kar lo aur tumhari buraiya utar dega aur tumhein bakhsh dega aur allah bade fazl waala hai (29)

وَإِذْ يَبْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الِیْتِیْبُتُونَكَ أَوْ یَقْتُلُونَكَ أَوْ یُخْرِجُونَكَ ۗ وَیَبْكُرُونَ ۗ
یَبْكُرُ اللهُ ۗ وَاللهُ خَیْرُ الْبَکْرِیْنِ ۝

aur aye mahboob yaad karo jab kafir tumhare saath
makr karte the ke tumhein band kar lein ya shaheed
kar dein ya nikaal dein aur wo apna sa makr karte the
aur allah apni khufya tadbeer farmata tha aur allah ki
khufya tadbeer sab behtar (30)

وَإِذَا تَنَلَّى عَلَیْهِمْ اِیْتِنَا قَالُوا قَدْ سَبِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا ۗ اِنْ هَذَا اِلَّا
اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ ۝

aur jab un par humari aayatein padhi jaayein to kehte
hain haan hum ne suna hum chahte to aisi hum bhi
keh dete ye to nahin magar aglo ke qisse (31)

وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطُرْ عَلَیْنَا حِجَارَةً مِّنَ
السَّمَاۗءِ ۙ اَوْ اِثْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝

aur jab bole ke aye allah agar yahi (quran) teri taraf se
haq hai to hum par aasman se patthar barsa ya koi
dardnak azaab hum par la (32)

وَمَا كَانَ اللهُ لَیُعَذِّبَهُمْ ۙ وَ اَنْتَ فِیْهِمْ ۙ وَ مَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ ۙ وَ هُمْ
یَسْتَغْفِرُونَ ۝

aur allah ka kaam nahin ke unhein azaab kare jab tak
aye mahboob tum un mein tashreef farma ho aur allah
unhein azaab karne waala nahin jab tak wo bakhshish
maang rahe hain (33)

وَمَا لَهُمْ اِلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللهُ ۙ وَ هُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۙ وَمَا كَانُوا

أُولِيَاءَهُ ۖ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

aur unhein kya hai ke allah unhein azaab na kare wo to masjide haraam se rok rahe hain aur wo uske ahal nahin us ke auliya to parhezgar hi hain magar un mein aksar ko ilm nahin (34)

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَضَدِيَةً ۖ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾

aur kaaba ke paas unki namaz nahin magar seeti aur taali to ab azaab chakho apne kufr ka (35)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

beshak kafir apne maal kharch karte hain ke allah ki raah rokein to ab unhein kharch karenge phir wo un par pachhtawa honge phir maghloob kar diye jayenge aur kafiro ka hashr jahannam ki taraf hoga (36)

لِيَبَيِّرَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَيْبًا فَیَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٣٧﴾

isliye ke allah gande ko suthre se juda farma de aur najasato ko tale upar rakh kar sab ek dher bana kar jahannam mein daal de wahi nuqsan paane waale hain (37)

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾

tum kafiro se farmao agar wo baaz rahe to jo ho guzra wo unhein muaaf farma diya jayega aur agar phir wahi karein to aglo ka dastoor guzar chuka hai (38)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٨﴾

aur agar un se lado yahan tak ke koi fasaad baaqi na rahe aur saara deen allah hi ka ho jaaye phir agar wo baaz rahein to allah unke kaam dekh raha hai (39)

وَإِن تَوَلَّوْا فاعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۖ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٣٩﴾

aur agar wo phirein to jaan lo ke allah tumhara maula hai to kya hi achha maula aur kya hi achha madadgaar (40)

Duswa Paarah

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

aur jaan lo ki jo kuchh ghanimat lo to uska
paanchwa(1/5) hissa khas allah aur rasool wa qarabat
walon aur yateemo aur mohtajon aur musafiron ka
hai, agar tum imaan laye ho allah par aur us par jo
humne apne bande par faisla ke din utara jis din dono
fauzen mili thi aur allah sab kuchh kar sakta hai.(41)

إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۗ لَوْ
تَوَاعَدْتُمْ لَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ ۗ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۖ
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيْنِنَا وَيُحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَن بَيْنِنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

jab tum naale ke is kinare the aur kafir parle kinare aur
qafila tum se tarai me aur agar tum aapas me koi wada
karte to zaroor waqt par barabar na pahuchte lekin ye
isliye ki allah pura kare jo kaam hona hai, ki jo halaak
ho daleel se halaak ho aur jo jiye daleel se jiye aur
beshak allah zaroor sunta janta hai.(42)

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ لَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْأَمْرِ ۗ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾

jab ki ay mehboob allah tumhen kafiron ko tumhari

khwab me thoda dikata tha aur ay musulmano agar tumhen bahut kar ke dikhata to zaroor tum buzdili karte aur mamle me jhagda dalte magar allah ne bacha liya beshak wo dilon ki baat janta hai.(43)

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقِيْتُمْ فِي آعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آعْيُنِهِمْ لِيَقْضَى اللَّهُ
أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٣﴾

aur jab ladte waqt tumhen kafir thode kar ke dikhaye aur tumhen unki nigahon me thoda kiya ki allah poora kare jo kaam hona hai aur allah ki taraf sab kaamo ki ruju' hai.(44)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٤٤﴾

ay imaan walon jab kisi fauj se tumhara muqabla ho to sabit qadam raho aur allah ki yaad bahut karo ki tum murad ko pahucho.(45)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٥﴾

aur allah aur uske rasool ka hukm maano aur aapas me jhagdo nahi ki fir buzdili karoge aur tumhari bandhi hui hawaa jati rahegi aur sabr karo, beshak allah sabr walon ke sath hai (46)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٦﴾

aur un jaise na hona jo apne ghar se nikle itrare aur

logon ke dikhane ko aur allah ki raah se rokne aur unke sab kaam allah ke qaboo me hain.(47)

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ ۚ فَلَمَّا تَرَ آتِ الْفِتْنَةِ نَكَصَ عَلَى عَقْبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بريءٌ مِّنْكُمْ وَإِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٧﴾

aur jab ke shaitaan ne unki nigaah me unke kaam bhale kar dikhaye aur bola aaj tum par koi shakhs ghalib aane wala nahi aur tum meri panaah me ho to jab dono lashkar aamne samne hue ulte paanw bhaga aur bola mai tum se alag hun, mai wo dekhta hun jo tumhen nazar nahi aata, mai allah se darta hun aur allah ka azaab sakht hai.(48)

إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هُوَ آلاءِ دِينِهِمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٨﴾

jab kehte the munafiq aur wo jinke dilon me aazaar hai ke ye musalman apne deen par magroor hain aur jo allah par bharosa kare to beshak allah ghalib hikmat wala hai.(49)

وَلَوْ تَرَى إِذِ اتَّوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۗ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٤٩﴾

aur kabhi tu dekhe jab firishte kafiron ki jaan nikalte hain maar rahe hain unke muh par aur unki peeth par aur chakho aag ka azaab.(50)

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ كَيْسٌ بظلامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥٠﴾

ye badla hai uska jo tumhare hathon ne aage bheja aur allah bando par zulm nahi karta.(51)

كَذَّابِ الْفِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

jaise firaun walon aur unse aglon ka dastoor wo allah ki aayaton se munkir hue to allah ne unhe unke gunahon par pakda, beshak allah quwwat wala sakht azaab wala hai.(52)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِنِعْمَتِهِ أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ
وَإِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ﴿٥٢﴾

ye isliye ki allah kisi qaum se jo ne'mat unhen di thi badalta nahi jab tak wo khud na badal jayen aur beshak allah sunta janta hai. (53)

كَذَّابِ الْفِرْعَوْنَ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ
بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۗ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾

jaise firaun walon aur unse aglon ka dastoor unhone apne rabb ki aayaten jhutlayi to humne unko unke gunahon ke sabab halaak kiya aur humne firaun walon ko dubo diya aur wo sab zalim the.(54)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾

beshak sab janwaron me badtar allah ke nazdeek wo hai jinhone kufr kiya aur imaan nahi late.(55)

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

wo jinse tum ne muahida kiya tha phir har baar apna

ahad tod dete hain, aur darte nahi.(56)

فَأَمَّا تَشَقَّفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿٥٦﴾

to agar tum kahin unhen ladai me pao to unhen aisa qatl karo jisse unke paasmando ko bhagao is ummeed par ki shayad unhen ibrat ho.(57)

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنْبِذِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْخَائِبِينَ ﴿٥٧﴾

aur agar tum kisi qaum se daghaa ka andesha karo to unka ahad unki tarah fenk do barabari par beshak daghaa wale allah ko pasand nahi.(58)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۗ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٨﴾

aur hargiz kafir is ghamand me na rahen ki wo hath se nikal gaye, beshak wo aajiz nahi karte.(59)

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ۗ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلُمُونَ ﴿٥٩﴾

aur unke liye taiyar rakho jo quwwat tumhen ban pade aur jitne ghode baandh sako ki unse ki unke dilon me dhaak bithao jo allah ke dushman aur tumhare dushman hain, aur unke siwa kuchh auron ke dilon me jinhe tum nahi jante, allah unhen janta hai aur allah ki raah me jo kuchh kharch karoge tumhen poora diya jayega aur kisi tarah ghaate me na rahoge.(60)

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

aur agar ye sulah ki taraf jhuke to tum bhi jhuko aur
allah par bharosa rakho beshak wahi hai sunta
janta.(61)

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۗ هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ۖ
بِالْمُؤْمِنِينَ ۝

aur agar wo tumhen fareb diya chahen to beshak allah
tumhen kafi hai, wahi hai jisne tumhen zor diya apni
madad ka aur musalmano ka.(62)

وَأَلْفَ بَيْنٍ قُلُوبِهِمْ ۗ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ
لَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

aur usne dilon me mel kar diya agar tum zameen me jo
kuchh hai sab kharch kar dete unke dil na mila sakte,
lekin allah ne unke dil mila diye beshak wahi hai ghalib
hikmat wala.(63)

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ۗ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

ay ghaib ki khabar batane wale nabi allah tumhen kafi
hai aur ye jitne musalman tumhare pairo hue.(64)

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ طَيِّبُونَ
يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ
لَا يَفْقَهُونَ ۝

ay ghaib ki khabren batane wale musalmano ko jihaad
ki targheeb do agar tum me ke bees(20) sabr wale
honge, do sau(200) par ghalib honge aur agar tum me
ke sau(100) hon, to kafiron ke hazar par ghalib

aayenge, isliye ki wo samjh nahi rakhte.(65)

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۗ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴿٦٥﴾

ab allah ne tum par se takhfeef farma di aur use maloom hai ki tum kamzor ho to agar tum me sau(100) sabr wale hon ,do sau(200) par ghalib aayenge aur agar tum me ek hazar ho to do hazar par ghalib honge, allah ke hukm se aur allah sabr walon ke sath hai.(66)

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۗ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا
وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾

kisi nabi ko laaiq nahi ki kafiron ko zinda qaid kare jab zameen me unka khoon khoob na bahaye, tum log dunya ka maal chahte ho aur allah aakherat chahta hai, aur allah ghalib hikmat wala hai.(67)

لَوْ لَا كَتَبْنَا مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

agar allah pehle ek baat likh na chuka hota to ay musalmano tumne jo kafiro se badle ka maal le liya usme tum par bada azaab aata hai.(68)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٨﴾

to khao jo ghanimat tumhen mili halaal pakiza aur allah se darte raho beshak allah bakhshne wala meharbaan hai.(69)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ ۖ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا

يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

ay ghaib ki khabren batane wale jo qaidi tumhare hath me hain unse farmao agar allah ne tumhare dilon me bhalai jani to jo tumse liya gaya usse behtar tumhen ataa farmayega aur tumhen bakhsh dega aur allah bakhshane wala meharbaan hai.(70)

وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَابَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

aur ay mehboob agar wo tum se dagha chahenge to usse pehle allah hi ki khayanat kar chuke hain jis par usne itne tumhare qaboo me de diye aur allah janne wala hikmat wala hai.(71)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجُهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَوْلُوا بِبَعْضِهِمْ أَوْلِيَاءَ بَعْضٌ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَمْ يَهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ ۗ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

beshak jo imaan laye aur allah ke liye ghar baar chhode aur allah ki raah me apne maalo aur jaano se lade aur wo jinhone jagah di aur madad ki wo ek dusre ke waris hain aur wo jo imaan laye aur hijrat na ki tumhen unka tarka kuchh nahi pahuchta jab tak hijrat na karen aur agar wo deen me tum se madad chahen to tum par madad dena wajib hai magar aisi qaum par

ki tum me unme muahida hai aur allah tumhare kaam dekh raha hai.(72)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ
كَبِيرٌ ۝

aur kafir aapas me ek dusre me waris hain aisa na karoge to zameen me fitna aur bada fasaad hoga.(73)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ الْأَوْوَابِ وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ
هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۝ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

aur wo jo imaan laye aur hijrat ki aur allah ki raah me lade aur jinhone jagah di aur madad ki wahi sacche iman wale hain, unke liye bakhshish hai aur izzat ki rozi.(74)

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ لِمَعَكُمْ فَأَوْلِيَاءَ مِنْكُمْ ۝ تَوَلَّوْا
الْأَرْضَ حَامِرٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

aur jo baad ko imaan laye aur hijarat ki aur tumhare sath jihad kiya wo bhi tumhi me se hai, aur rishte wale ek se dusre zyada nazdeeq hai allah ki kitab me beshak allah sab kuchh janta hai.(75)

Surah Tauba

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

bezari ka hukm sunana hai allah aur uske rasool ki taraf se un mushriko ko jin se tumhara muahida tha aur wo qaaim na rahe (1)

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝

to chaar mahine zameen par chalo phiro aur jaan rakho ke allah ko thaka nahin sakte aur ye ke allah kafiro ko ruswa karne waala hai (2)

وَإِذْ أَنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۗ وَرَسُولُهُ ۗ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

aur munadi pukaar dena hai allah aur uske rasool ki taraf se sab logon mein bade hajj ke din ke allah bezaar hai mushriko se aur uska rasool to agar tum tauba karo to tumhara bhala hai aur agar moonh phero to jaan lo ke tum allah ko na thaka sakoge aur kafiro ko khushkhabri sunao dardnak azaab ki (3)

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

magar wo mushrik jin se tumhara muahida tha phir unhone tumhare ahad mein kuchh kami na ki aur

tumhare muqabil kisi ko madad na di to allah unka
ahad thehri hui muddat tak poora kari beshak allah
parhezgaro ko dost rakhta hai (4)

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَ
أَحْضِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

phir jab hurmat waale mahine nikal jaayein to
mushriko ko maaro jahan pao aur unhein pakdi aur
qaid karo aur har jagah unki taak mein baitho phir agar
wo tauba karein aur namaz qaaim rakhein aur zakaat
dein to unki raah chhod do beshak allah bakhshne
wala meharbaan hai (5)

وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

aur aye mahboob agar koi mushrik tum se panah
mange to use panah do ke wo allah ka kalaam sune
phir use uski aman ki jagah pahuncha do ye isliye ke
wo nadaan log hain (6)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ عِندَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

mushriko ke liye allah aur uske rasool ke paas koi ahad
kyunkar hoga magar wo jinse tumhara muahida
masjide haraam ke paas hua to jab tak wo tumhare liye

ahad par qaaim rahein tum unke liye qaaim raho
beshak parhezgar allah ko khush aate hain (7)

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۖ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ۝

bhala kyunkar unka haal to ye ke tum par qaabu
paayein to na qarabat ka lihaaz karein na ahad ka apne
moonh se tumhein raazi karte hain aur unke dilo mein
inkar hai aur un mein aksar be hukm hain (8)

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

allah ki aayato ke badle thode daam mol liye to uski
raah se roka beshak wo bahut hi bure kaam karte hain
(9)

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۝

kisi musalman mein na qarabat ka lihaz karein na ahad
ka aur wahi sarkash hain (10)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝

phir agar wo tauba karein aur namaz qaaim rakhein
aur zakaat dein to wo tumhare deeni bhai hain aur
hum aayatein mufassal bayaan karte hain janne walo
ke liye (11)

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ ۖ
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝

aur agar ahad kar ke apni qasmein todein aur tumhare

deen par moonh aayein to kufr ke sarghano se lado beshak unki qasmein kuchh nahin is ummeed par ke shayad wo baaz aa jaayein (12)

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا آيَاتِنَهُمْ وَهُمْ إِبْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوا كُفْرًا
مَرَّةً ۖ اتَّخَشَوْهُمْ ۗ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

kya us qaum se na ladoge jinhone apni qasmein todi aur rasool ke nikaalne ka irada kiya halanki unhi ki taraf se pehal hui hai kya unse darte ho to allah iska zyada mustahiq hai ke usse daro agar imaan rakhte ho (13)

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَكْفُرْ
قَوْمٌ مُؤْمِنِينَ ۝

to unse lado allah unhein azaab dega tumhare haatho aur unhein ruswa karega aur tumhein un par madad dega aur imaan waalo ka jee thanda karega (14)

وَيُدْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝
aur unke dilo ki ghutan door farmayega aur allah jiski chahe tauba qabool farmaye aur allah ilmo hikmat waala hai (15)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ
دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

kya is gumaan mein ho ke yunhi chhod diye jaoge aur abhi allah ne pehchan na karai unki jo tum mein se jihad karenge aur allah aur uske rasool aur musulmano ke siwa kisi ko apne mahrame raaz na banayenge aur

allah tumhare kaamo se khabardar hai (16)

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ۗ
أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ۖ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٦﴾

mushriko ko nahin pahunchta ke allah ki masjid mein aabad karein khud apne kufr ki gawahi de kar unka to sab kiya dhara akarat hai aur wo humesha aag mein rahenge (17)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٧﴾

allah ki masjid mein wahi aabad karte hain jo allah aur qiyamat par imaan laate aur namaz qaaim rakhte aur zakaat dete hain aur allah ke siwa kisi se nahin darte to qareeb hai ke ye log hidayat waalo mein ho (18)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾

to kya tumne hajiyo ki sabeel aur masjid haraam ki khidmat uske barabar thehra li jo allah aur qiyamat par imaan laaya aur allah ki raah mein jihad kiya wo allah ke nazdeek barabar nahin aur allah zalimo ko raah nahin deta (19)

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ أَكْبَرُ
دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿١٩﴾

wo jo imaan laaye aur hijrat ki aur apne maal jaan se

allah ki raah mein lade allah ke yahan unka darja bada hai aur wahi muraad ko pahunche (20)

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢٠﴾

unka rab unhein khushkhabri sunata hai apni rahmat aur apni raza aur un baagho ki jin mein unhein daaimi nemat hai (21)

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾

humesha humesha un mein rahenge beshak allah ke paas bada sawaab hai (22)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢﴾

aye imaan waalo apne baap aur apne bhaiyo ko dost na samjho agar wo imaan par kufr pasand karein aur tum mein jo koi unse dosti karega to wahi zalim hain (23)

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٣﴾

tum farmao agar tumhare baap aur tumhare bete aur tumhare bhai aur tumhari auratein aur tumhara kumba aur tumhari kamai ke maal aur wo sauda jiske nuqsan ka tumhein dar hai aur tumhare pasand ke makaan ye cheezein allah aur uske rasool aur uski raah

mein ladne se zyada pyaari ho to rasta dekhoon yahan
tak ke allah apna hukm laaye aur allah fasiqo ko raah
nahin deta (24)

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۗ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ
تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ ۝

beshak allah ne bahut jagah tumhari madad ki aur
hunain ke din jab tum apni kasrat par itra gaye to wo
tumhare kuchh kaam na aai aur zameen itni wasee ho
kar tum par tang ho gai phir tum peeth de kar phir
gaye (25)

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا
وَكَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ۝

phir allah ne apni taskeen utaari apne rasool par aur
musalmano par aur wo lashkar utaare jo tumne na
dekhe aur kafiro ko azaab diya aur munkiro ki yahi
saza hai (26)

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

phir uske baad allah jise chahega tauba dega aur allah
bakhshne waala meharbaan hai (27)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

aye imaan waalo mushrik nire napaak hain to is baras
ke baad wo masjid haraam ke paas na aane paayein

aur agar tumhein mujtaji ka dar hai to anqareeb allah tumhein daulatmand kardega apne fazl se agar chahe beshak allah ilmo hikmat wala hai (28)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٨﴾

lado unse jo imaan nahin laate allah aur qiyamat par aur haraam nahin maante us cheez ko jisko haraam kiya allah aur uske rasool ne aur sachhe deen ke taabe nahin hote yaani wo jo kitab diye gaye jab tak apne haath se jizya na dein zaleel ho kar (29)

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۗ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٢٩﴾

aur yahoodi bole uzair allah ka beta hai aur nasrani bole maseeh allah ka beta hai ye baatein wo apne moonh se bakte hain agle kafiro ki si baat banate hain allah unhein maare kahan aundhe jaate hain (30)

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۗ وَمَا أُمُورُهُمْ إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٠﴾

unhone apne padriyo aur jogiyo ko allah ke siwa khuda bana liya aur maseeh ibne maryam ko aur unhein hukm na tha magar ye ke ek allah ko pujein uske siwa kisi ki bandagi nahin use paaki hai unke shirk se (31)

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾

chahte hain ke allah ka noor apne moonh se bujha dein aur allah na maanega magar apne noor ka poora karna pade bura maanein kafir (32)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

wahi hai jisne apna rasool hidayat aur sachhe deen ke saath bheja ke use sab deeno par ghalib kare pade bura maanein mushrik (33)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدِّقُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

aye imaan waalo beshak bahut padri aur jogi logon ka maal naahaq kha jaate hain aur allah ki raah se rokte hain aur wo ke jod kar rakhte hain sona aur chandi aur use allah ki raah mein kharch nahin karte unhein khushkhabri sunao dardnaak azaab ki (34)

يَوْمَ يُحْلَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأَطْرُقُهُمْ ۗ
هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾

jis din wo tapaya jayega jahannam ki aag mein phir usse daaghenge unki peshaniya aur karwatein aur peethein ye hai wo jo tum ne apne liye jod kar rakha

tha ab chakho maza us jodne ka (35)

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

beshak mahino ki ginti allah ke nazdeek baarah mahine hain allah ki kitab mein jab se usne aasmano zameen banaye un mein se chaar hurmat waale hai ye seedha deen hai to in mahino mein apni jaan par zulm na karo aur mushriko se har waqt lado jaisa wo tum se har waqt ladte hain aur jaan lo ke allah parhezgaro ke saath hai (36)

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۗ زُرِّيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾

unka mahine pichhe hatana nahin magar aur kufr mein badhna isse kafir behkaye jaate hain ek baras use halaal thehrate hain aur dusre baras haraam maante hain ke us ginti ke barabar ho jaayein jo allah ne haraam farmai aur allah ke haraam kiye hue halal kar lein unke bure kaam unki aankho mein bhale lagte hain aur allah kafiro ko raah nahin deta (37)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۗ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأُخْرَةِ ۗ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأُخْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٧﴾

aye imaan waalo tumhein kya hua jab tum se kaha jaaye ke raahe khuda mein kooch karo to bojh ke maare zameen par baith jaate ho kya tumne dunya ki zindagi aakhirat ke badle pasand kar li aur jeeti dunya ka asbaab aakhirat ke samne nahin magar thoda (38)

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٨﴾

agar na kooch karoge to tumhein sakht saza dega aur tumhari jagah aur log le aayega aur tum uska kuchh na bigaad sakoge aur allah sab kuchh kar sakta hai (39)

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۗ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ
بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾

agar tum mahboob ki madad na karo to beshak allah ne unki madad farmai jab kafiro ki shararat se unhein baahar tashreef le jaana hua sirf do jaan se jab wo dono ghaar mein the jab apne yaar se farmate the gham na kha beshak allah humare saath hai to allah ne us par apna sakeena utara aur un faujo se uski madad ki jo tum ne na dekhi aur kafiro ki baat neeche daali allah hi ka bol baala hai aur allah ghalib hikmat waala hai (40)

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

kooch karo halki jaan se chahe bhari dil se allah ki raah
mein lado apne maal aur jaan se ye tumhare liye
behtar hai agar jaano (41)

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّقَّةُ وَ
سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

agar koi qareeb maal ya mutawassit safar hota to
zaroor tumhare saath jaate magar un par to
mashaqqat ka rasta door pad gaya aur ab allah ki
qasam khayenge ke hum se ban padta to zaroor
tumhare saath chalte apni jaano ko halaak karte hain
aur allah jaanta hai ke wo beshak zaroor jhoote hain
(42)

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ۗ لِمَ أَذْنُتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِينَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ
الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾

allah tumhein muaaf kare tumne unhein kyun izn de
diya jab tak na khule the tum par sachhe aur zaahir na
hue the jhoote (43)

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ
أَنْفُسِهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾

aur wo jo allah aur qiyamat par imaan rakhte hain tum
se chhutti na maangenge isse ke apne maal aur jaan se
jihad karein aur allah khoob jaanta hai parhezgaro ko

(44)

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٤﴾

tum se ye chhutti wahi mangte hain jo allah aur qiyamat par imaan nahin rakhte aur unke dil shak mein pade hain to wo apne shak mein danwa dol hain

(45)

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٥﴾

unhein nikalna manzoor hota to uska samaan karte magar khuda hi ko unka uthna napasand hua to un mein kaahili bhar di aur farmaya gaya ke baith raho baith rehne waalo ke saath (46)

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعَوُا خِلْكَمَ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ ۗ وَفِيكُمْ سَعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٦﴾

agar wo tum mein nikalte to unse siwa nuqsan ke tumhein kuchh na badhta aur tum mein fitna daalne ko tunhare beech mein ghurabein daudate aur tum mein unke jasoos maujood hain aur allah khoob jaanta hai zalimo ko (47)

لَقَدْ ابْتِغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٤٧﴾

beshak unhone pehle hi fitna chaha tha aur aye mahboob tumhare liye tadbeerein ulti palti yahan tak

ke haq aaya aur allah ka hukm zahir hua aur unhein nagawar tha (48)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۗ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٤٨﴾

aur un mein koi tumse yun arz karta hai ke mujhe rukhsat dijiye aur fitna mein na daaliye sun lo wo fitna hi mein pade aur beshak jahannam ghere hue hai kafiro ko (49)

اِنْ تُصِْبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ؕ وَاِنْ تُصِْبَكَ مُصِيبَةٌ يَّقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرًا مِّنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿٤٩﴾

agar tumhein bhalai pahunche to unhein bura lage aur agar tumhein koi musibat pahunche to kahein humne apna kaam pehle hi theek kar liya tha aur khushiya manate phir jaayein (50)

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا ؕ هُوَ مَوْلَانَا ؕ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

tum farmao humein na pahunchega magar jo allah ne humare liye likh diya wo humara maula hai aur musalmano ko allah hi par bharosa chahiye (51)

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهٖ اَوْ بِاَيْدِيْنَا ۗ فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥١﴾

tum farmao tum par kis cheez ka intezaar karte ho magar do khoobiyo mein se ek ka aur hum tum par is intezaar mein hain ke allah tum par azaab daale apne

paas se ya humare haatho to ab raah dekho hum bhi
tumhare saath raah dekh rahe hain (52)

قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِتَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٢﴾

tum farmao ke dil se kharch karo ya nagawari se tumse
hargiz qabool na hoga beshak tum be hukm log ho (53)

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ
الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٣﴾

aur wo jo kharch karte hain uska qabool hona band na
hua magar isliye ke wo allah wa rasool se munkir hue
aur namaz ko nahin aate magar jee haare aur kharch
nahin karte magar nagawari se (54)

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٤﴾

to tumhein unke maal aur unki awlaad ka tajjub na
aaye allah yahi chahta hai ke dunya ki zindagi mein un
cheezo se un par wabaal daale aur kufr hi par un ka
dum nikal jaaye (55)

وَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٥٥﴾

aur allah ki qasmein khate hain ke wo tum mein se
hain aur tum mein se hain nahin haan wo log darte
hain (56)

لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغْرَتٍ أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٦﴾

agar paayein koi panah ya ghaar ya samaa jaane ki
jagah to rassiya tadate udhar phir jayenge (57)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْبِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ۚ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا
إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

aur un mein koi wo hai ke sadqe bantne mein tum par taan karta hai to agar un mein se kuchh mile to raazi ho jaayein aur na mile to jabhi wo naraaz hain (58)

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۗ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

aur kya achha hota agar wo us par raazi hote jo allah wa rasool ne unko diya aur kehte humein allah kaafi hai ab deta hai humein allah apne fazl se aur allah ka rasool allah hi ki taraf raghbat hai (59)

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَبْدِئِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

zakaat to inhi logon ke liye hai mohtaj aur nire nadaat aur jo use tehseel kar ke laayein aur jin ke dilo ko islam se ulfat di jaaye aur gardanein chhudane mein aur qarzdaro ko aur allah ki raah mein aur musafir ko ye thehraya hua hai allah ka aur allah ilmo hikmat waala hai (60)

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ۗ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

aur un mein koi wo hain ke in ghaib ki khabrein dene waale ko sunate hain aur kehte hai wo to kaan hain tum farmao tumhare bhale ke liye kaan hain allah par imaan laate hain aur musalmano ki baat par yaqeen karte hain aur jo tum mein musalman hain unke wasite rahmat hain aur wo jo allah ko izaadete hain unke liye dardnak azaab hai (61)

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ۗ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا

مُؤْمِنِينَ ﴿٦١﴾

tumhare saamne allah ki qasam khate hain ke tumhein raazk kar lein aur allah wa rasool ka haq zaaid tha ke use raazi karte agar imaan rakhte the (62)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ

الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

kya unhein khabar nahin ke jo khilaf kare allah aur uske rasool ka to uske liye jahannam ki aag hai ke humesha us mein rahega yahi badi ruswai hai (63)

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلِ

اسْتَهْزِءُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مِمَّا تَحْذَرُونَ ﴿٦٤﴾

munafiq darte hain ke un par koi surat aisi utre jo unke dilo ki chhupi jata de tum farmao hanse jao allah ko zaroor zahir karna hai jiska tumhein dar hai (64)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ

كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾

aur aye mahboob agar tum unse puchho to kahenge ke hum yunhi hansi khel mein the tum farmao kya allah aur uski aayato aur uske rasool se hanste ho (65)

لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ إِنَّ تَعَفُّ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نَعْدَابٌ
طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٥﴾

bahane na banao tum kafir ho chuke musalman ho kar agar tum mein se kisi ko muaaf karein to auro ko azaab denge isliye ke wo mujrim the (66)

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ
الْفٰسِقُونَ ﴿٦٦﴾

munafiq mard aur munafiq auratein ek thaili ke chatte batte hain burai ka hukm dein aur bhalai se mana karein aur apni mutthi band rakhein wo allah ko chhod baithe to allah ne unhein chhod diya beshak munafiq wahi pakke be hukm hain (67)

وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ هِيَ حَسْبُهُمْ ۗ
وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٧﴾

allah ne munafiq mardo aur munafiq aurato ko jahannam ki aag ka waada diya hai jis mein humesha rahenge wo unhein bas hai aur allah ki un par lanat hai aur unke liye qaaim rehne waala azaab hai (68)

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكَثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۗ فَاسْتَمْتَعُوا
بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَ

خُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ۗ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٩﴾

jaise wo tum se pehle the tum se zor mein badh kar the aur unke maal aur awlaad tum se zyada to wo apna hissa barat gaye to tumne apna hissa barta jaise wo pade the unke amal akarat gaye dunya aur aakhirat mein aur wahi log ghaate mein hain (69)

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۗ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ ۗ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾

kya unhein apne se aglo ki khabar na aai ke nooh ki qaum aur aad aur samood aur ibrahim ki qaum aur madain waale aur wo bastiya ke ulat di gai unke rasool raushan daleelein unke paas laaye the to allah ki shaan na thi ke un par zulm karta balki wo khud hi apni jaano par zalim the (70)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ مِيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

aur musalman mard aur auratein ek dusre ke rafeeq hain bhalai ka hukm dein aur burai se mana karein aur namaz qaaim rakhein aur zakaat dein aur allah wa rasool ka hukm maanein ye hain jin par anqareeb allah reham karega beshak allah ghalib hikmat waala hai

(71)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ
مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۖ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝

allah ne musalman mardo aur aurato ko baagho ka
waada diya hai jin ke niche nehrein rawaa'n un mein
humesha rahenge aur pakiza makano ka basne ke
baagho mein aur allah ki raza sab se badi yahi hai badi
muraad paani (72)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ۖ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَ
بِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

aye ghaib ki khabrein dene waale (nabi) jihad farmao
kafiro aur munafiqo par aur un par sakhti karo aur
unka thikana dozakh hai aur kya hi buri jagah palatne
ki (73)

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا ۖ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَبُوا
بِبَالِهِمْ لِيَقُولُوا ۖ وَمَا تَقَمُّوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا
يَكْ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَ
مَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

allah ki qasam khate hain ke unhone na kaha aur
beshak zaroor unhone kufir ki baat kahi aur islam mein
aa kar kafir ho gaye aur wo chaha tha jo unhein na
mila aur unhein kya bura laga yahi na ke allah wa

rasool ne unhein apne fazl se ghani kar diya to agar wo tauba karein to unka bhala hai aur agar moonh pherein to allah unhein sakht azaab karega dunya wa aakhirat mein aur zameen mein koi na unka himayati hoga na madadgar (74)

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ

الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٤﴾

aur un mein koi wo hain jinhone allah se ahad kiya tha ke agar humein apne fazl se dega to hum zaroor khairat karenge aur hum zaroor bhale aadmi ho jayenge (75)

فَلَمَّا اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٥﴾

to jab allah ne unhein apne fazl se diya us mein lage aur moonh pher kar palat gaye (76)

فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهٗٓ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا

يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٦﴾

to uske pichhe allah ne un ke dilo mein nifaaq rakh diya us din tak ke usse milenge badla iska ke unhone allah se waada jhoota kiya aur badla iska ke jhoot bolte the (77)

اَلَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٧﴾

kya unhein khabar nahin ke allah unke dil ki chhupi aur unki sargoshi ko jaanta hai aur ye ke allah sab ghaibo ka bahut janne waala hai (78)

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمَطَّوْعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا

جُهِدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۖ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

wo jo aib lagate hain un musalmano ko ke dil se khairat karte hain aur unko jo nahin paate magar apni mehnat se to unse hanste hain allah unki hans ki saza dega aur unke liye dardnak azaab hai (79)

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۖ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾

tum unki muaafi chaho ya na chaho agar tum sattaar baar unki muaafi chahoge allah hargiz unhein nahin bakhshega ye isliye ke wo allah aur uske rasool se munkir hue aur allah fasiqo ko raah nahin deta (80)

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۗ لَوْ

كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾

peechhe rah jane wale is par khush hue ki wo rasool ke peechhe baith rahe aur unhe ganwara na hua ki apne maal aur jaan se allah ki raah me lade aur bole kis garmi me na niklo, tum farmao jahannam ki aag sabse sakht garm hai kisi tarah unhen samjh hoti..(81)

فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا ۖ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۗ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

to unhen chahiye ke thoda hanse aur bahut royen, badla uska jo kamate the.(82)

فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ

أَبَدًا ۚ وَلَنْ يُثْقَلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ

الْخُلَفَاءِ ۝۸۳

fir ay mehboob agar allah tumhen unme se kisi giroh ki taraf wapas le jaye aur wo tum se jihad ko nikalne ki ijazat mange to tum farmana, tum kabhi mere sath na chalo aur hargiz mere sath kisi dushman se na lado, tum ne pehli dafa baith rehna pasand kiya to baith raho peechhe rah jane walon ke sath.(83)

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ

رَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝۸۳

aur unme se kisi ki mayyat par kabhi namaz na padhna aur na uski qabr par khade hona, beshak wo allah wa rasool se munkir hue aur fisq hi me mar gaye.(84)

وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ

تَزْهِقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝۸۴

aur unke maal ya aulad par tajjub na karna, allah yahi chahta hai ki use duniya me un par wabaal kare aur kufr hi par unka dum nikal jaye.(85)

وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُو الطَّلَاقِ

مِنْهُمْ وَقَالُوا الذَّرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقُعْدِيِّينَ ۝۸۵

aur jab koi surat utre ki allah par imaan laao aur uske rasool ke hamrah jihad karo to unke maqdoor wale tum se rukhsat maangte hain aur kehte hain hume chhod dijiye ki baith rehne walon ke sath ho len.(86)

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝۸۶

unhen pasand aaya ki peechhe rehne wali aurton ke sath ho jaye aur unke dilon par muhar kar di gayi to wo kuchh nahi samajhte (87)

لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جُهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ
الْخَيْرَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٧﴾

lekin rasool aur jo unke sath imaan laye unhone apne maalo se jihad kiya aur unhi ke liye bhalaiyan hain aur yahi murad ko pahuche.(88)

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

allah ne unke liye taiyar kar rakhi hai bahishten jinke neechhe nehre rawaan hamesha unme rahenge, yahi badi murad milni hai.(89)

وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ
سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾

aur bahane banane wale ganwaar aaye ke unhe rukhsat di jaye aur baith rahe wo jinhone allah wa rasool se jhooth bola tha, jald unme se kafiron ko dadrnak azaab pahuchega.(90)

لَيْسَ عَلَى الضُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿٩١﴾

zaeefo par kuchh haraj nahi aur na bimaron par aur na un par jinhen kharch ka maqdoor na ho jab ki allah wa

rasool ke khairkhwah rahen, neki walon par koi raah nahi, aur allah bakhshne wala meharbaan hai (91)

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا
أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرْنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿٩١﴾

aur na un par jo tumhare huzoor hazir hon ki tum unhen sawari ataa farmao tum se ye jawab payen ki mere paas koi cheez nahi jis par tumhen sawaar karun is par yun wapas jayen ki unki aankhon se aansu ubalte hon is ghum se ki kharch ka maqdoor na paya.(92)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَازُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ
الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٢﴾

mawakhiza to unse hai jo tumse rukhsat maangte hain aur wo daulatmand hai unhen pasand aaya ki aurton ke sath peechhe baith rahe aur allah ne unke dilon me muhar kar di to wo kuchh nahi jante (93)

Gyarahwa Paarah

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۗ قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَنَا ۚ قَدْ تَبَّأْنَا
اللَّهُ مِنْ أَحْبَابِكُمْ ۖ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾

tum se bahane banayenge jab tum unki taraf laut kar
jaoge tum farmana bahane na banao hum hargiz
tumhara yaqeen na karenge allah ne hume tumhari
khabrein de di hain aur ab allah wa rasool tumhare
kaam dekhenge, fir uski taraf palat kar jaoge jo chhupe
aur zahir sabko janta hai wo tumhe jataa dega jo kuchh
tum karte the.(94)

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ۗ
إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ جَزَاءُ ۙ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾

ab tumhare aage allah ki qasam khayenge jab tum unki
taraf palat kar jaoge isliye ki tum unke khayal me na
pado to haan tum unka khayal chhodo ao to nire
paleed hain aur unka thikana jahannam hai badla uska
jo kamate the.(95)

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۗ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

tumhare aage qasame khate hain ki tum unse razi ho
jao to agar tum unse razi ho jao to beshak allah to
fasiq logon se razi na hoga.(96)

الْأَعْرَابِ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾

ganwaar kufr aur nifaq me zyada sakht hain, aur isi qabil hain k allah ne jo hukm apne rasool par utare usse jahil rahe aur allah ilm wa hikmat wala hai.(97)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَائِرِ ۗ عَلَيْهِمُ
دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾

aur kuchh ganwaar wo hai ke jo allah ki raah me kharch karen use taawaan samjhen, aur tum par gardishe aane ke intezaar me rahen, unhin par hai buri gardish aur allah sunta janta hai. (98)

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ
اللَّهِ وَصَلَاتِ الرَّسُولِ ۗ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ۗ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٩﴾

aur kuchh gaon wale hain jo allah aur qiyamat par imaan rakhte hain aur jo kharch karen use allah ki nazdeekiyan aur rasool se duaen lene ka zariya samjhen, haan haan, wo unke liye baaise qurb hai, allah jald unhen apni rahmat me dakhil karega, beshak allah bakhshane wala meharban hai.(99)

وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ ۗ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

aur sab me agle pehle muhajir aur ansaar aur jo bhalai ke sath unke pairo hue, allah unse razi, aur wo allah se razi aur unke liye taiyar kar rakhe hain baagh jinke neeche nehre bahe, hamesha hamesha unme rahen yahi badi kamiyabi hai.(100)

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى
النِّفَاقِ ۗ لَا تَعْلَمُهُمْ ۗ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۗ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ
عَظِيمٍ ۝

aur tumhare aas paas ke kuchh ganwaar munafiq hain aur kuchh madeena wale unki khoo ho gayi hai nifaq tum unhen nahi jante hum unhen jante hain, jald hum unhen dobara azaab karenge fir bade bade azaab ki taraf fere jayenge.(101)

وَأَخْرَجُوا عَتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۗ عَسَىٰ اللَّهُ أَن
يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

aur kuchh aur hain jo apne gunahon ke munkir hue, aur milaya ek kaam achha aur dusra bura, qareeb hai ke allah unki tauba qabool kare, beshak allah bakhshne wala meharban hai.(102)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

ay mehboob unke maal me se zakat tehseel karo jisse tum unhen suthra aur pakiza kar do aur unke haqq me duaen khair karo, beshak tumhari dua unke dilon ka chain hai aur allah sunta janta hai.(103)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

kya unhe khabar nahi ke allah hi apne bandi ki tauba qabool karta hai sadqe khud apne daste qudrat me leta hai aur ye ke allah ki tauba qabool karne wala hai meharban hai.(104)

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

aur tum farmao kaam karo ab tumhare kaam dekhega allah aur uske rasool aur musalman aur jald uski taraf paltoge jo chhupa aur khula sab janta hai, to wo tumhare kaam tumhen jataa dega..(105)

وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

aur kuchh mauqoof rakhe gaye hain allah ke hukm par ya un par azaab kare ya unki tauba qabool kare aur allah ilm wa hikmat wala hai.(106)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ
حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

aur wo jinhone masjid banai nuqsan pahunchane ko aur kufr ke sabab aur musalmano mein tafarqa daalne ko aur uske intezar mein jo allah aur uske rasool ka mukhalif hai aur wo zaroor qasmein khayenge ke

humne to bhalai chahi aur allah gawah hai ke wo
beshak jhoote hain (107)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۖ لَمْ سَجِدْ أَسَسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۖ
فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٧﴾

is masjid mein tum kabhi khadr na hona beshak wo
masjid ke pehle hi din se jis ki bunyad parhezgari par
rakhi gai hai wo is qabil hai ke tum us mein khade ho
us mein wo log hain ke khoob suthra hona chahte hain
aur suthre allah ko pyare hain (108)

أَمِنَ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَى
شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنْهَارُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

to kya jisne apni bunyad rakhi allah se dar aur uski
raza par wo bhala ya wo jisne apni neew chini ek
giraao gadhe ke kinare to wo use le kar jahannam ki
aag mein dhe pada aur allah zalimo ko raah nahin deta
(109)

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾

wo tameer jo chini humesha unke dilo mein khatakti
rahegi magar ye ke unke dil tukde tukde ho jaayein aur
allah ilmo hikmat waala hai (110)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَ
الْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمْ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

beshak allah ne musalmano se unke maal aur jaan khareed liye hain is badle par ke unke liye jannat hai allah ki raah mein ladein to maarein aur marein uske zimma -e- karam par sachha waada taurait aur injeel aur quraan mein aur allah se zyada qaul ka poora kaun to khushiya manao apne saude ki jo tumne usse kiya hai aur yahi badi kamyabi hai (111)

التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِيدُونَ السَّائِحُونَ الرَّكْعُونَ السُّجِدُونَ الْأَمْرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾

tauba waale ibadat waale sarahne waale roze waale ruku waale sajda waale bhalai ke batame waale aur burai se rokne waale aur allah ki hadein nigaah rakhne waale aur khushi sunao musalmano ko (112)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

nabi aur imaan waalo ko laaiq nahin ke mushriko ki bakhshish chaheim agarche wo rishtadar ho jabki unhein khul chuka ke wo dozakhi hain (113)

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَايَاهُ ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ
عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۗ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

aur ibrahim ka apne baap ki bakhshish chahna wo to na tha magar ek waade ke sabab jo usse kar chuka tha

phir jab ibrahim ko khul gaya ke wo allah ka dushman hai usse tinka tod diya beshak ibrahim zaroor bahut aahein karne waala mutahammil hai (114)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٤﴾

aur allah ki shaan nahin ke kisi qaum ko hidayat kar ke gumrah farmaye jab tak unhein saaf na bata de ke kis cheez se unhein bachna chahiye beshak allah sab kuchh jaanta hai (115)

إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْطِي وَيُيَبِّتُ ۖ وَ مَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٥﴾

beshak allah hi ke liye hai aasmano aur zameen ki saltanat jilata hai aur maarta hai aur allah ke siwa tumhara koi waali aur na madadgaar (116)

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٦﴾

beshak allah ki rahmatein mutawajje hui un ghaib ki khabrein batane waale aur un muhajireen aur ansaar par jinhone mushkil ki ghadi mein unka saath diya baad iske ke qareeb tha ke un mein kuchh logon ke dil phir jayein phir un par rahmat se mutawajje hua beshak wo un par nihayat meharban raham waala hai (117)

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا طَحَّتِي إِذَا ضَاقَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ط
إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾

aur un teen par jo mauqoof rakhe gaye the yahan tak ke jab zameen itni wasee ho kar un par tang ho gai aur wo apni jaan se tang aaye aur unhein yaqeen hua ke allah se panah nahin magat usi ke paas phir unki tauba qabool ki ke taab rahein beshak allah hi tauba qabool karne waala meharbaan hai (118)

لِيَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

aye imaan waalo allah se daro aur sachho ke saath ho (119)

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا
يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ط ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا
مَخَصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ
تَيْلًا إِلَّا أَكْتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾

madine waalo aur unke gird dehaat waalo ko laaiq na tha ke rasoolullah se pichhe baith rahein aur na ye ke unki jaan se apni jaan pyaari samjhein ye isliye ke unhein jo pyaas ya takleef ya bhook allah ki raah mein pahunchti hai aur jahan aisi jagah qadam rakhte hain jisse kafiro ko ghaiz aaye aur jo kuchh kisi dushman ka bigaadte hain us sab ke badle unke liye nek amal likha jaata hai beshak allah neko ka neg zaaya nahin karta

(120)

وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٠﴾

aur jo kuchh kharch karte hain chhota ya bada aur jo naala tay karte hain sab unke liye likha jaata hai taaki allah unke sabse behtar kaamo ka unhein sila de (121)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢١﴾

aur musalmano se ye to ho nahin sakta ke sab ke sab niklein to kyun na hua ke unke har giroh mein se ek jama'at nikle ke deen ki samajh haasil karein aur wapas aa kar apni qaum ko dar sunayein is ummeed par ke wo bachein (122)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۗ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٢﴾

aye iman walon jihad karo, un kafiron se jo tumhare qareeb hain aur chahiye ki wo tum me sakhti payen aur jaan rakhi ki allah parhegaron ke sath hai (123)

وَإِذَا مَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ
آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٣﴾

aur jab koi surat utarti hai to unme koi kehne lagta hai ki usne tum me kis ke iman ko taraqqi di to wo jo iman wale hain unke iman ki usne taraqqi di aur wo khushiyan mana rahe hain.(124)

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفْرُونَ ﴿١٢٥﴾

aur jinke dilon me aazaar hai, unhen aur paleedi par paleedi badhai aur kufr hi par mar gaye.(125)

أَوْ لَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

kya unhen nahi soojhta ki har saal ek ya do baar aazmaye jate hain, fir na to tauba karte hain na nasihat mante hain.(126)

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا ۗ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

aur jab koi surat utarti hai usme ek dusre ko dekhne lagta hai ke koi tumhen dekhta to nahi, fir palat jate hain, allah ne unke dil palat diye ke wo nasamjh log hain.(127)

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٢٨﴾

beshak tumhare paas tashreef laye tum me se wo rasool jin par tumhara mashqqat me padna giraan hai, tumhari bhalai ke nihayat chahne wale musulmano par kamaal meharban meharban.(128)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

fir agar wo munh pherein to tum farma do ki mujhe allah kafi hai uske siwa kisi ki bandagi nahi, maine usi par bharosa kiya aur wo bade arsh ka malik hai.(129)

Surah Yunus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

الرَّ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝

ye hikmat waali kitab ki aayatein hain (1)

كَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ
آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّجِرُ
مُبِينٌ ۝

kya logon ko iska achambha hua ke humne un mein ek mard ko wahi bheji ke logon ko dar sunao aur imaan waalo ko khushkhabri do ke unke liye unke rab ke paas sach ka maqam hai kafir bole beshak ye to khula jadugar hai (2)

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۗ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۗ ذٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

beshak tumhara rab allah hai jis ne aasman aur zameen chhe din mein banaye phir arsh par istawa

farmaya jaisa uski shaan ke laaiq hai kaam ki tadbeer farmata hai koi sifarashi nahin magar uski ijazat ke baad ye hai allah tumhara rab to uski bandagi karo to kya tum dhyaan nahin karte (3)

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ إِنَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝

usi ki taraf tum sab ko phirna hai allah ka sachha waada beshak wo pehli baar banata hai phir fana ke baad dobara banayega ke jo imaan laaye aur achhe kaam kiye insaf ka sila de aur kafiro ke liye peene ko khaulta paani aur dardnak azaab badla unke kufr ka (4)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ
السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ۝

wahi hai jisne suraj ko jagmagata banaya aur chand chamakta aur iske liye manzilein thehrai ke tum barso ki ginti aur hisab jaano allah ne use na banaya magar haq nishaniya mufassal bayaan farmata hai ilm waalo ke liye (5)

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَّقُونَ ۝

beshak raat aur din ka badalta aana aur jo kuchh allah ne aasmano aur zameen mein paida kiya un mein

nishaniya hain dar waalo ke liye (6)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ
عَنْ آيَاتِنَا غُفْلُونَ ﴿٦﴾

beshak wo jo humare milne ki ummeed nahin rakhte
aur dunya ki zindagi pasand kar baithe aur us par
mutmain ho gaye aur wo jo humari aayato se ghaflat
karte hain (7)

أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٧﴾

un logon ka thikana dozakh hai badla unki kamai ka (8)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾

beshak jo imaan laaye aur achhe kaam kiye unka rab
unke imaan ke sabab unhein raah dega unke niche
nehrein behti hongy nemat ke baagho mein (9)

دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۗ وَأُخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنْ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩﴾

unki dua is mein ye hogi ke allah tujhe paaki hai aur
unke milte waqt khushi ka pehla bol salam hai aur unki
dua ka khatima ye hai ke sab khubiyo saraha allah jo
rab hai saare jahaan ka (10)

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ۗ فَنَذَرُ
الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٠﴾

aur agar allah logon par burai aisi jald bhejta jaisi wo
bhalai ki jaldi karte hain to unka waada poora ho chuka

hota to hum chhodte unhein jo humse milne ki ummeed nahin rakhte ke apni sarkashi mein bhatka karein (11)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۖ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۗ كَذَلِكَ زِينٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

aur jab aadmi ko takleef pahunchti hai humein pukarta hai lete aur baithe aur khade phir jab hum uski takleef door kar dete hain chal deta hai goya kabhi kisi takleef ke pahunchne par humein pukara hi na tha yunhi bhale kar dikhaye hain hadd se badhne waale ko unke kaam (12)

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونَ مِّن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۗ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾

aur beshak humne tumse pehli sangatein halaak farma di jab wo hadd se badhe aur unke rasool unke paas raushan daleelein le kar aaye aur wo aise the hi nahin ke imaan laate hum yun hi badla dete hain mujrimo ko (13)

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِّن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

phir humne unke baad tumhein zameen mein janasheen kiya ke dekhein tum kaise kaam karte ho (14)

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۗ قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بُرْهَانٍ غَيْرٍ

هُذَا أَوْ بَدَلَهُ ۖ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

aur jab un par humari raushan aayatein padhi jaati hain wo kehne lagte hain jinhein humse milne ki ummeed nahin ke iske siwa aur quran le aaiye ya isi ko badal dijiye tum farmao mujhe nahin pahunchta ke main ise apni taraf se badal doon main to usi ka taabe hoon jo meri taraf wahih hoti hai main agar apne rab ki nafarmani karoon to mujhe bade din ke azaab ka dar hai (15)

قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِمَّنْ
قَبْلِهِ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾

tum farmao agar allah chahta to main ise tum par na padhta na wo tum ko isse khabardar karta to main isse pehle tum mein apni ek umr guzaar chuka hoon to kya tumhein aql nahin (16)

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

to usse badh kar zalim kaun hai jo allah par jhoot bandhe ya uski aayatein jhutlaaye beshak mujrimo ka bhala na hoga (17)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شَفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتَدَّبَّرُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحٰنَهُ وَ
تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

aur allah ke siwa aisi cheez ko pujte hain jo unka na kuchh nuqsan kare aur na kuchh bhala aur kehte hain ke ye allah ke yahan humare sifarashi hain tum farmao kya allah ko wo baat jatate ho jo uske ilm mein na aasmano mein hai na zameen mein use paaki aur bartari hai unke shirk se (18)

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٨﴾

aur log ek hi ummat the phir mukhtalif hue aur agar tere rab ki taraf se ek baat pehle na ho chuki hoti to yahi unke ikhtelafo ka un par faisla ho gaya hota (19)

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا ۗ إِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٢٠﴾

aur kehte hain un par unke rab ki taraf se koi nishani kyun nahin utri tum farmao ghaib to allah ke liye hai ab rasta dekho main bhi tumhare saath raah dekh raha hoon (20)

وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرُؤٌ فِي آيَاتِنَا ۗ قُلْ
اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۗ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَنْكُرُونَ ﴿٢١﴾

aur jab ke hum aadmiyo ko rahmat ka maza dete hain kisi takleef ke baad jo unhein pahunchi thi jabhi wo humari aayato ke saath daaon chalte hain tum farma do allah ki khufya tadbeer sab se jald ho jaati hai beshak humare firishte tumhare makr likh rahe hain (21)

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ طَحْتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ ۚ وَجَرَيْنَ بِهِمْ
 بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ
 ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۗ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ
 لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾

wahi hai ke tumhein khushki aur tari mein chalata hai yahan tak ke jab tum kashti mein ho aur wo achhi hawa se unhein le kar chalein aur us par khush hue un par aandhi ka jhonka aaya aur har taraf lehro ne unhein aa liya aur samajh liye ke hum ghir gaye us waqt allah ko pukarte hain nire uske bande ho kar ke agar tu usse humein bacha lega to hum zaroor shukr guzar honge (22)

فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ طيَايِبَهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ
 عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ۗ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾

phir allah jab unhein bacha leta hai jabhi wo zameen mein nahaq zyadati karne lagte hain aye logo tumhari zyadati tumhare hi jaano ka wabaal hai dunya ke jeete jee barat lo phir tumhein humari taraf phirna hai us waqt hum tumhein jata denge jo tumhare kotak the (23)

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا
 يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ طَحْتَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا
 أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا ۗ أَتَيْتُمَا كَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعْنِ

بِالْأَمْسِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

dunya ki zindagi ki kahawat to aisi hi hai jaise wo paani ke humne aasman se utara to uske sabab zameen se ugne waali cheezein ghani ho kar nikli jo kuchh aadmi aur chaupaye khate hain yahan tak ke jab zameen ne apna singaar le liya aur khoob aarasta ho gai aur uske malik samjhe ke ye humare bas mein aa gai humara hukm us par aaya raat mein ya din mein to humne use kar diya kaati hui goya kal thi hi nahin hum yun hi aayatein mufassal bayaan karte hain ghaur karne waalo ke liye (24)

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ۖ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

aur allah samalati ke ghar ki taraf pukarta hai aur jise chahe seedhi raah chalata hai (25)

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾

bhalai waalo ke liye bhalai hai aur usse bhi zaaid aur unke moonh par na chadhegi siyahi aur na khwari wahi jannat waale hain wo us mein humesha rahenge (26)

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۖ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَا لَهُمْ مِنَ

اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ كَانِبًا ۖ أَعْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ الْبَيْلِ ۗ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ

أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

aur jinhone buraiya kamai to burai ka badla usi jaisa aur un par zillat chadhegi unhein allah se bachane waala koi na hoga goya unke chehro par andheri raat

ke tukde chadha diye hain wahi dozakh waale hain wo
us mein humesha rahenge (27)

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبِيحًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ۖ
فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٧﴾

aur jis din hum un sab ko uthayenge phir mushriko se
hum farmayenge apni jagah raho tum aur tumhare
shareek to hum unhein musalmano se juda kar denge
aur unke shareek unse kahenge tum humein kab pujte
the (28)

فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ﴿٢٨﴾

to allah gawah kaafi hai hum mein aur tum mein ke
humein tumhare pujne ki khabar bhi na thi (29)

هُنَالِكَ تَبْلُو أَكْلَ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٩﴾

yahan har jaan jaanch legi jo aage bheja aur allah ki
taraf phere jaayenge jo unka sachha maula hai aur
unki saari banawatein unse gum jayengi (30)

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَبْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدْبِرُ الْأَمْرَ ۗ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٠﴾

tum farmao tumhein kaun rozi deta hai aasman aur
zameen se ya kaun malik hai kaan aur aankho ka aur
kaun nikaalta hai zinda ko murde se aur nikaalta hai
murda ko zinde se aur kaun tamam kaamo ki tadbeer

karta hai to ab kahenge ke allah to tum farmao to kyun nahin darte (31)

فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۚ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ ۗ فَأَنَّى تُصِرُّونَ ﴿٣١﴾

to ye allah hai tumhara sachha rab phir haq ke baad kya hai magar gumrahi phir kahan phire jaate ho (32)

كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٢﴾

yun hi saabit ho chuki hai tere rab ki baat fasiqo par to wo imaan nahin layenge (33)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٣﴾

tum farmao tumhare shareeko mein koi aisa hai ke awwal banaye phir fana ke baad dobara banaye tum farmao allah banata hai phir fana ke baad dobara banayega to kahan aundhe jaate ho (34)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۗ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ ۗ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٤﴾

tum farmao tumhare shareeko mein koi aisa hai ke haq ki raah dikhaye tum farmao ke allah haq ki raah dikhata hai to kya jo haq ki raah dikhaye uske hukm par chalna chahiye ya uske jo khud hi raah na paaye jab tak raah na dikhaya jaaye to tumhein kya hua kaisa hukm lagate ho (35)

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۗ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

aur un mein aksar to nahin chalte magar gumaan par beshak gumaan haq ka kuchh kaam nahin deta beshak allah un ke kaamo ko jaanta hai (36)

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾

aur is quran ki ye shaan nahin ke koi apni taraf se bana le be allah ke utare haan wo agli kitabo ki tasdeeq hai aur lauh mein jo kuchh likha hai sab ki tafseel hai is mein kuchh shak nahin parwardigare aalam ki taraf se hai (37)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَعْتَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

kya ye kehte hain ke unhone ise bana liya hai tum farmao to is jaisi koi ek soorat le aao aur allah ko chhod kar jo mil sakein sab ko bula laao agar tum sachhe hon(38)

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا بِهِمْ وَلَكِنِّي أَلَمْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ كَذَّبُوا بِآيَاتِي
فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾

balki ise jhutlaya jiske ilm par qaabu na paaya aur abhi unhone iska anjaam nahin dekha hai aise hi un se aglo ne jhutlaya tha to dekho zalimo ka anjaam kaisa hua (39)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٠﴾

aur un mein koi is par imaan laata hai aur un mein koi is par imaan nahin laata aur tumhara rab mufsid ko khoob jaanta hai (40)

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ عَمَلُكُمْ ؕ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ
مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤٠﴾

aur agar wo tumhein jhutlayein to farma do ke mere liye meri karni aur tumhare liye tumhari karni tumhein mere kaam se ilaqa nahin aur mujhe tumhare kaam se talluq nahin (41)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ؕ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤١﴾

aur un mein koi wo hain jo tumhari taraf kaan lagate hain to kya tum bahro ko suna doge agarche unhein aql na ho (42)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ ؕ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٢﴾

aur un mein koi tumhari taraf yakta hai kya tum andho ko raah dikha doge agarche wo na soojhein (43)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٣﴾

beshak allah logon par kuchh zulm nahin karta haan log hi apni jaano par zulm karte hain (44)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُوا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ؕ قَدْ

حَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٤٤﴾

aur jis din unhein uthayega goya dunya mein na rahe the magar us din ki ek ghadi aapas mein pehchan karenge poore ghaate mein rahe wo jinhone allah se milne ko jhutlaya aur hidayat par na the (45)

وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا مَرَجَعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ

عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾

aur agar hum tumhein dikha dein kuchh us mein se jo unhein waada de rahe hain ya tumhein pehle hi apne paas bula lein bahar haal unhein humari taraf palat kar aana hai phir allah gawah hai unke kaamo par (46)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

aur har ummat mein ek rasool hua jab unka rasool unke paas aata un par insaf ka faisla kar diya jaata aur un par zulm na hota (47)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾

aur kehte hain ye waada kab aayega agar tum sachhe ho (48)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ

أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿٤٩﴾

tum farmao main apni jaan ke bhalr bure ka zaati ikhteyar nahin rakhta magar jo allah chahe har giroh ka ek waada hai jab unka waada aayega to ek ghadi na pichhe hatein na aage badhein (49)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

tum farmao bhala batao to agar iska azaab tum par raat ko aaye ya din ko to is mein wo kaunsi cheez hai ke mujrimo ko jiski jaldi hai (50)

أَلَمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنْتُمْ بِهِ طَالُنْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥١﴾

to kya jab ho padega us waqt uska yaqeen karoge kya ab maante ho pehle to iski jaldi macha rahe the (51)

ثُمَّ قَبِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اذْ قُوتُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ
تَكْسِبُونَ ﴿٥١﴾

phir zalimo se kaha jayega humesha azaab chakho tumhein kuchh aur badla na milega magar wahi jo kamate the (52)

وَيَسْتَلْبِغُونَكَ اِحْقَ هُوَ ۗ قُلْ اِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌّ ۗ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٢﴾

aur tum se puchhte hain kya wo haq hai tum farmao haan mere rab ki qasam beshak wo zaroor haq hai aur tum kuchh thikana na sakoge (53)

وَلَوْ اَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ ۗ وَاَسْرُوا التَّدَامَةَ لَمَّا رَاوُا
العَذَابَ ۗ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٣﴾

aur agar har zalim zameen mein jo kuchh hai sab ki malik hoti zaroor apni jaan chhudane mein deti aur dil mein chupke pasheman hue jab azaab dekha aur un mein insaf se faisla kar diya gaya aur un par zulm na hoga (54)

اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٤﴾

sun lo beshak allah hi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur zameen mein sun lo beshak allah ka waada sachha hai magar un mein aksar ko khabar nahin (55)

هُوَ يَخْبِي وَيُخِيْتُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٥﴾

wo jilata aur maarta hai aur usi ki taraf phiroge (56)

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۗ وَهُدًى
وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٦﴾

aye logo tumhare paas tumhare rab ki taraf se
naseehat aai aur dilo ki sihat aur hidayat aur rahmat
imaan waalo ke liye (57)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٧﴾

tum farmao allah hi ke fazl aur usi ki rahmat aur usi
par chahiye ke khushi karein wo un ke sab dhan daulat
se behtar hai (58)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ۗ قُلْ اللَّهُ
أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٨﴾

tum farmao bhala batao to wo jo allah ne tumhare liye
rizq utara us mein tumne apni taraf se haraam wa
halaal thehra liya tum farmao kya allah ne iski tumhein
ijazat di hai ya allah par jhoot bandhthe ho (59)

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٥٩﴾

aur kya gumaan hai unka jo allah par jhoot bandhthe
hain ke qiyamat mein unka kya haal hoga beshak allah
logon par fazl karta hai magar aksar log shukr nahin
karte (60)

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۗ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي

الْأَرْضِ وَالْأَفْئِطِ السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

aur tum kisi kaam mein ho aur uski taraf se kuchh quran padho aur tum log koi kaam karo hum tum par gawah hote hain jab tum usko shuru karte ho aur tumhare rab se zarra barabar bhi koi cheez ghaaib nahin zameen mein na aasman mein aur na usse chhoti aur na usse badi koi cheez jo ek raushan kitab mein na ho (61)

الْآلَانَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

sun lo beshak allah ke waliyo par na kuchh khauf hai na kuchh gham (62)

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

wo jo imaan laaye aur parhezgari karte hain (63)

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

unhein khushkhabri hai dunya ki zindagi mein aur aakhirat mein allah ki baatein badal nahin sakti yahi badi kamyabi hai (64)

وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾

aur tum unki baato ka gham na karo beshak izzat saari allah ke liye hai sunta wahi sunta jaanta hai (65)

الْآلَانَ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ

اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

sun lo beshak allah hi ki milk hain jitne aasmano mein

hain aur jitne zameeno mein aur kaahe ke pichhe ja rahe hain wo jo allah ke siwa shareek pukaar rahe hain wo to pichhe nahin jaate magar gumaan ke aur wo to nahin magar atkalein daudate (66)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٦﴾

wahi hai jisne tumhare liye raat banai ke us mein chain paaon aur din banaya tumhari aankhein kholta beshak us mein nishaniya hain sunne waalon ke liye (67)

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اِنۡ عِنۡدَكُمۡ مِّنۡ سُلۡطٰنٍ بِهٰذَا ۗ اَتَقۡوُلُوۡنَ عَلٰى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿٦٧﴾

bole allah ne apne liye awlaad banai paaki usko wahi hai be niyaaz hai usi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein tumhare paas uski koi bhi sanad nahin kya allah par wo baat batate ho jiska tumhein ilm nahin (68)

قُلۡ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَفۡتَرُوۡنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا يَفۡلِحُوۡنَ ﴿٦٨﴾

tum farmao wo jo allah par jhoot bandhte hain unka bhala na hoga (69)

مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيۡقُهُمُ الْعَذٰبَ الشَّدِيۡدَ بِمَا كٰنُوۡا يَكۡفُرُوۡنَ ﴿٦٩﴾

dunya mein kuchh barat lena hai phir unhein humari taraf wapas aana phir hum unhein sakht azaab chakhayenge badla unke kufr ka (70)

وَ اٰتٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوْحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يَقُوْمِرِ اِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَ
تَذٰكِرِيْ بِآيٰتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْبِعُوْا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ
اَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا اِلَيّْ وَلَا تَنْظُرُوْنَ ۝

aur unhein nooh ki khabar padh kar sunao jab usne apni qaum se kaha aye meri qaum agar tum par shaaq guzra hai mera khada hona aur allah ki nishaniya yaad dilana to maine allah hi par bharosa kiya to mil kar kaam karo aur apne jhoote maboodo samet apna kaam pakka kar lo tumhare kaam mein tum par kuchh ganjlak na rahe phir jo ho sake mera karlo aur mujhe mohlat na do (71)

فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُمْ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ ۚ وَ اَمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

phir agar tum moonh phero to main tumse kuchh ujrath nahin maangta mera ajr to nahin magar allah par aur mujhe hukm hai ke main musalmano se hoon (72)

فَكَذَّبُوْهُ فَتَجَبَّيْنٰهُ وَ مَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْنٰهُمْ خَلِيْفَ وَ اَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
بِآيٰتِنَا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذٰكِرِيْنَ ۝

to unhone use jhutlaya to humne use aur jo uske saath kashti mein the unko najaat di aur unhein humne naaib kiya aur jinhone humari aayatein jhutlai unko humne dubo diya to dekho daraye huo ka anjaam kaisa hua (73)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهٖ رُسُلًا اِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَاَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا اِلَّيْهُمْنَ اٰبِا

كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۖ كَذَلِكَ نَنْبِئُ عَلَى قُلُوبِ الْمُتَعَدِّينَ ﴿٧٤﴾

phir uske baad aur rasool humne unki qaumo ki taraf bheje to wo unke paas raushan daleelein laaye to wo aise na the ke imaan laate is par jise pehle jhutla chuke the hum yunhi muhar laga dete hain sarkasho ke dilo par (74)

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٧٥﴾

phir unke baad humne moosa aur haroon ko firaaun aur uske darbariyo ki taraf apni nishaniya le kar bheja to unhone takabbur kiya aur wo mujrim log the (75)

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٦﴾

to jab unke paas humari taraf se haq aaya bole ye to zaroor khula jadu hai (76)

قَالَ مُوسَىٰ اتَّقُوا اللَّهَ لِمَا جَاءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّحْرُونَ ﴿٧٧﴾

moosa ne kaha kya haq ki nisbat aisa kehte ho jab wo tumhare paas aaya kya ye jaadu hai aur jadugar muraad ko nahin pahunche (77)

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَلْفِتْنَا عَمَّآ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾

bole kya tum humare paas isliye aaye ho ke humein usse pher do jis par humne apne baap dada ko paaya aur zameen mein tumhi dono ki badaai rahe aur hum tum par imaan laane ke nahin (78)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾

aur firauun bola har jadugar ilm waale ko mere paas le aao (79)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَى الْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٠﴾

phir jab jadugar aaye unse moosa ne kaha daalo jo tumhein daalna hai (80)

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾

phir jab unhone daala moosa ne kaha ye jo tuk laaye ye jaadu hai ab allah ise batil kar dega allah mufsid ka kaam nahin banata (81)

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

aur allah apni baato se haq ko haq kar dikhata hai pade bura maanein mujrim (82)

فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٨٣﴾

to moosa par imaan na laaye magar uski qaum ki awlaad se kuchh log firauun aur uske darbariyo se darte hue ke kahin unhein hatne par majboor na kar dein aur beshak firauun zameen mein sar uthane waala tha aur beshak wo hadd se guzar gaya (83)

وَقَالَ مُوسَى يُقَوْمِ إِنِ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾

aur moosa ne kaha aye meri qaum agar tum allah par imaan laaye to usi par bharosa karo agar islam rakhte

ho (84)

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۗ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٨٤﴾

bole humne allah hi par bharosa kiya ilahi hum ko zalim logon ke liye aazmaish na bana (85)

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٨٥﴾

aur apni rahmat farma kar humein kafiro se najaat de (86)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّأِ الْقَوْمَ مَكْمَلًا بِرُحْمٍ يُبُوتُونَ وَيُؤْتُونَكَ مِنَ الْقَوْمِ شَتْرًا ﴿٨٦﴾

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

aur humne moosa aur uske bhai ko wahih bheji ke misr mein apni qaum ke liye makanaat banao aur apne gharo ko namaz ki jagah karo aur namaz qaaim rakho aur musalmano ko khushkhabri suna (87)

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا

يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾

aur moosa ne arz ki aye rab humare tune firaun aur uske sardaro ko aaraish aur maale dunya ki zindagi mein diye aye rab humare isliye ke teri raah se behkawein aye rab humare unke maal barbad kar de aur unke dil sakht kar de ke imaan na laayein jab tak dardnak azaab na dekh lein (88)

قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقْبَمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

farmaya tum dono ki dua qabool hui to saabit qadam

raho aur nadaano ki raah na chalo (89)

وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا ۖ طَحَّتْ
إِذَا آذَرَكَهُ الْغَرَقُ ۖ قَالَ أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ أَنَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

aur hum bani israyeel ko darya paar le gaye to firauun
aur uske lashkaro ne unka pichha kiya sarkashi aur
zulm se yahan tak ke jab use dubone aa liya bola main
imaan laaya ke koi sachha mabood nahin siwa uske jis
par bani israyeel imaan laaye aur main musalman
hoon (90)

أَلَسَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٩٠﴾

kya ab aur pehle se nafarman raha aur tu fasadi tha
(91)

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ
أَيْتِنَا لَغَفُؤُونَ ﴿٩١﴾

aaj hum teri lash ko utra denge ke tu apne pichhlo ke
liye nishani ho aur beshak log humari aayato se ghafil
hain (92)

وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مَبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا
حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنبَأُ كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

aur beshak humne bani israyeel ko izzat di jagah di aur
unhein suthri rozi ata ki to ikhtelaf mein na pade
magar ilm aane ke baad beshak tumhara rab qiyamat

ke din un mein faisla kar dega jis baat mein jhagadte the (93)

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

aur aye sunne waale agar tujhr shubha ho is mein jo humne teri taraf utara to unse puchh dekh jo tujhse pehle kitab padhne waale hain beshak tere paas tere rab ki taraf se haq aaya to tu hargiz shak waalo mein na ho (94)

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

aur hargiz un mein na hona jinhone allah ki aayatein jhutlai ke tu khasare waalo mein ho jayega (95)

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

beshak wo jin par tere rab ki baat theek pad chuki hai imaan na layenge (96)

وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

agarche sab nishaniya sab un ke paas aayein jab tak dardnak azaab na dekh lein (97)

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ أَمَنَتْ فَنَنَفَعَهَا آيَاتُنَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ۚ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا

عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُرْزِيِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ۝

to hui hoti na koi basti ke imaan laati to uska imaan kaam aata haan yunus ki qaum jab imaan laaye humne unse ruswai ka azaab dunya ki zindagi mein hata diya aur ek waqt tak unhein baratne diya (98)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

aur agar tumhara rab chahta zameen mein jitne hain
sab ke sab imaan le aate to kya tum logon ko
zabardasti karoge yahan tak ke musalman ho jaayein
(99)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

aur kisi jaan ki qudrat nahin ke imaan laaye magar
allah ke hukm se aur azaab un par daalta hai jinhein
aql nahin (100)

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

tum farmao dekho aasmano aur zameen mein kya kya
hai aur aayatein aur rasool unhein kuchh nahin dete
jinke naseeb mein imaan nahin (101)

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿١٠٢﴾

to unhein kaahe ka intezaar hai magar unhi logon ke se
dino ka jo unse pehle ho guzre tum farmao to intezaar
karo main bhi tumhare saath intezaar mein hoon (102)

ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ ۗ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

phir hum apne rasoolo aur imaan waalo ko najaat
denge baat yahi hai humare zimma karam par haq hai

musalmano ko najaat dena (103)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ وَلَٰكِن أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

tum farmao aye logon agar tum mere deen ki taraf se
kisi shubha mein ho to main to use na pujunga jise
tum allah ke siwa pujte ho haan us allah ko puja hoon
jo tumhari jaan nikaalega aur mujhe hukm hai ke
imaan waalo mein hoon (104)

وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

aur na ye ke apna moonh deen ke liye seedha rakh sab
se alag ho kar aur hargiz shirk waalo mein na hona
(105)

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِن
الظَّالِمِينَ ۝

aur allah ke siwa uski bandagi na kar jo na tera bhala
kar sake na bura phir agar aisa karega to us waqt tu
zalimo se hoga (106)

وَإِنْ يَسْأَلْكَ اللَّهُ بَضْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۗ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۗ
يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

aur agar tujhe allah koi takleef pahunchaye to uska koi
taalne waala nahin uske siwa aur agar tera bhala
chahe to uske fazl ka radd karne waala koi nahin use
pahunchata hai apne bando mein jise chahe aur wahi
bakhshne waala meharbaan hai (107)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾

tum farmao aye logon tumhare paas tumhare rab ki taraf se haq aaya to jo raah par aaya wo apne bhale ko raah par aaya aur jo behka wo apne bure ko behka aur kuchh mein kadoda nahin (108)

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

aur us par chalo jo tum par wahih hoti hai aur sabr karo yahan tak ke allah hukm farmaye aur wo sabse behtar hukm farmane waala hai (109)

Surah Hood

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

الرَّٰلِ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

ye ek aisi kitab hai jiski aayatein hikmat bhari hain phir tafseel ki gai hikmat waale khabardar ki taraf (1)

أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي لَكُمْ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾

ke bandagi na karo magar allah ki beshak main tumhare liye uski taraf se dar aur khushi sunane waala hoon (2)

وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُبْتَغِمْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَ

يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۝

aur ye ke apne rab se muaafi maango phir uski taraf tauba karo tumhein bahut achha baratna dega ek thehraye waada tak aur har fazeelat waale ko uska fazl pahunchayega aur agar moonh phero to main tum par bade din ke azaab ka khauf karta hoon (3)

إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

tumhein allah hi ki taraf phirna hai aur wo har shay par qadir hai (4)

أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ۗ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ۖ

يَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ ۗ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

suno wo apne seene dohre karte hain ke allah se parda karein suno jis waqt wo apne kapdo se saara badan dhaanp lete hain us waqt bhi allah unka chhupa aur zaahir sab kuchh janta hai beshak wo dilo ki baat janne waala hai (5)

Baarahwa Paarah

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ^ط
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ①

aur zameen par chalne waala koi aisa nahin jis ka rizq allah ke zimma -e- karam par na ho aur jaanta hai ke kahan thehrega aur kahan sipurd hoga sab kuchh ek saaf bayaan karne waali kitab mein hai (6)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ^ط وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّا كُفْرًا لَمَنْ بَعَثْتُمْ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ①

aur wahi hai jisne aasmano aur zameen ko chhe din mein banaya aur uska arsh paani par tha ke tumhein aazmaye tum mein kiska kaam achha hai aur agar tum farmao ke beshak tum marne ke baad uthaye jaoge to kafir zaroor kahenge ke ye to nahin magar khula jadu (7)

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ^ط الْآيَوْمَ
يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ①

aur agar hum unse azaab kuchh ginti ki muddat tak hata dein to zaroor kahenge kis cheez ne use roka hai sun lo jis din un par aayega unse phera na jayega aur unhein gher lega wahi azaab jiski hanshi udaate the (8)

وَلَيْنُ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۗ إِنَّهُ لَكَفُورٌ ﴿٩﴾

aur agar hum aadmi ko apni kisi rahmat ka maza dein phir us se chheen lein zaroor wo bada naummeed nashukra hai (9)

وَلَيْنُ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْتَهْلِكَةٍ لِّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۗ إِنَّهُ لَفَرِحٌ

فَخُورٌ ﴿١٠﴾

aur agar hum uwe nemat ka maza dein us musibat ke baad jo use pahunchi to zaroor kahega ke buraiya mujh se door hui beshak wo khush hone waala badai maarne waala hai (10)

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

magar jinhone sabr kiya aur achhe kaam kiye unke liye bakhshish aur bada sawab hai (11)

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ

كِتَابٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

to kya jo wahih tumhari taraf hoti hai us mein se kuchh tum chhod doge aur us par dil tang hoge is bina par ke wo kehte hain unke saath koi khazana kyun utra ya un ke saath koi firishta aata to tum dar sunane waale ho aur allah har cheez par muhafiz hai (12)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ ۖ وَادْعُوا مَن

اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

kya ye kehte hain ke unhone use jee se bana liya tum farmao ke tum aisi banai hui dus sooratein le aao aur

allah ke siwa jo mil sakein sab ko bula lo agar sachhe
ho (13)

فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣﴾

to aye musalmano agar wo tumhari us baat ka jawab
na de sakein to samajh lo ke wo allah ke ilm hi se aur
ye ke uske siwa koi sachha mabood nahin to kya ab
tum maanoge (14)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ ﴿١٤﴾

jo dunya ki zindagi aur aaraish chahta ho hum us mein
unka poora phal de denge aur us mein kami na denge
(15)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلَّ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

ye hain wo jinke liye aakhirat mein kuchh nahin magar
aag aur akarat gaya jo kuchh wahan karte the aur
nabood hue jo unke amal the (16)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَ
رَحْمَةً ۗ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ۗ فَلَا
تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۗ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦﴾

to kya wo jo apne rab ki taraf se raushan daleel par ho
aur us par allah ki taraf se gawah aaye aur isse pehle
moosa ki kitab peshwa aur rahmat wo us par imaan

laate hain aur jo uska munkir ho saare giroho mein to aag uska waada hai to aye sunne waale tujhe kuchh is mein shak na ho beshak wo haq hai tere rab ki taraf se lekin bahut aadmi imaan nahin rakhte (17)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ
الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝

aur usse badh kar zalim kaun jo allah par jhoot bandhe wo apne rab ke huzoor pesh kiye jayenge aur gawah kahenge ke ye hai jinhone apne rab par jhoot bola tha are zalimo par khuda ki lanat (18)

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

jo allah ki raah se rokte hain aur us mein kuji chahte hain aur wahi aakhirat ke munkir hain (19)

أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ۗ
يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ۗ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝

wo thakane waale nahin zameen mein aue na allah se juda un ke koi himayati unhein azaab par azaab hoga wo na sun sakte the aur na dekhte (20)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

wahi hain jinhein apni jaan ghaate mein daali aur unse khoi gai jo baatein jodte the (21)

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخْسَرُونَ ۝

khwah nakhwa wahi aakhirat mein sabse zyada nuqsan mein hain (22)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٣﴾

beshak jo imaan laaye aur achhe kaam kiye aur apne rab ki taraf ruju laaye wo jannat waale hain wo us mein humesha rahenge (23)

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّبَّيْعِ ۗ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

dono fareeq ka haal aisa hai jaise ek andha aur behra aur dusra dekhta aur sunta kya in dono ka haal ek sa hai to kya tum dhyaan nahin karte (24)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾

aur beshak humne nooh ko uski qaum ki taraf bheja ke main tumhare liye sareeh dar sunane waala hoon (25)

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ آيَاتِنَا ﴿٢٦﴾

ke allah ke siwa kisi ko na pujo beshak main tum par ek musibat waale din ke azaab se darta hoon (26)

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِآدَائِ الرَّأْيِ ۗ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾

to uski qaum ke sardar jo kafir hue the bole hum to tumhein apne hi jaisa aadmi dekhte hain aur hum nahin dekhte ke tumhari pairwi kisi ne ki ho magar humare kameeno ne sarsari nazar se aur hum tum mein apne upar koi badai nahin paate balki hum

tumhein jhoota khayal karte hain (27)

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعَبَّيْتُمْ
عَلَيْكُمْ ۖ أَنْزِلْ مُكُوبَهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿٢٧﴾

bola aye meri qaum bhala batao to agar main apne rab ki taraf se raushan daleel par hoon aur usne mujhe apne paas se rahmat bakhshi to tum usse andhe rahe kya hum use tumhare gale chapet dein aur tum bezaar ho (28)

وَيَقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآ ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ
أَمَنُوا ۖ إِنَّهُمْ مُلْقُوا رَبَّهُمْ وَلَكِنِّي أَرْكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٨﴾

aur aye qaum main tum se kuchh is par maal nahin maangta mera ajr to allah hi par hai aur main musalmano ko door karne waala nahin beshak wo apne rab se milne waale hain lekin main tum ko nire jahil log paata hoon (29)

وَيَقَوْمٍ مَّن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُّهُمْ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٩﴾

aur aye qaum mujhe allah se kaun bacha lega agar main unhein door karunga to kya tumhein dhyaan nahin (30)

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا
أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ
إِنِّي إِذًا لِّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾

aur main tumse nahin kehta ke mere paas allah ke khazane hain aur na ye ke main ghaib jaan leta hoon

aur na ye kehta hoon ke main firishta hoon aur main unhein nahin kehta jin ko tumhari nigahein haqeer samajhti hain ke hargiz unhein allah koi bhalai na dega allah khoob jaanta hai jo unke dilo mein hai aisa karoon to zaroor main zalimo mein se hoon (31)

قَالُوا يَنْوُحُ قَدْ جِدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَكُنَا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ

الصّٰدِقِيْنَ ۝

bole aye nooh tum humse jhagde aur bahut hi jhagde to le aao jiska humein waada de rahe ho agar sachhe ho (32)

قَالَ إِنَّمَا يَا تُبَيِّكُم بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

bola wo to allah tum par layega agar chahe aur tum thaka na sakoge (33)

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ

رَبُّكُمْ ۝ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

aur tumhein meri naseehat nafa na degi agar main tumhara bhala chahu jabki allah tumhari gumrahi chahe wo tumhara rab hai aur usi ki taraf phiroge (34)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَامِي ۚ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝

kya ye kehte hain ke unhone use jee se bana liya tum farmao agar maine bana liya hoga to mera gunah mujh par hai aur main tumhare gunah se alag hoon (35)

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا

يَفْعَلُونَ ۝

aur nooh ko wahih hui ke humari qaum se musalman na honge magar jitne imaan la chuke to gham na kha us par jo wo karte hain (36)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٣٦﴾

aur kashti bana humare samne aur humare hukm se aur zalimo ke baare mein mujhse baat na karna wo zaroor dubaye jayenge (37)

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ ۗ وَكَلَّمَ مَرَّةً عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۗ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٧﴾

aur nooh kashti banata hai jab uski qaum ke sardar us par guzarte us par hanste bola agar tum hum par hanste ho to ek waqt hum tum par hansenge jaisa tum hanste ho (38)

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٨﴾

to ab jaan jaoge kis par aata hai wo azaab ke use ruswa kare aur utarta hai wo azaab jo humesha rahe (39)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۗ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۗ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ أَمِنَ ۗ وَمَا أَمِنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٩﴾

yahan tak ke jab humara hukm aaya aur tanoor ubla humne farmaya kashti mein sawar kar le har jins mein se ek joda nar wa maada aur jin par baat pad chuki hai unke siwa apne ghar waalo aur baaqi musalmano ko aur uske saath musalman na the magar thode (40)

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا ۗ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٤١﴾

aur bola is mein sawaar ho allah ke naam par iska
chalna aur iska theharna beshak mera rab zaroor
bakhshne waala meharbaan hai (41)

وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ۗ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنَى
ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

aur wo unhein liye ja rahi hai aisi maujo mein jaise
pahaad aur nooh apne bete ko pukara aur wo usse
kinare tha aye mere bachhe humare saath sawaar ho
ja aur kafiro ke saath na ho (42)

قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ۗ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا
مَنْ رَّحِمَ ۗ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ﴿٤٣﴾

bola ab main kisi pahaad ki panah leta hoon wo mujhe
paani se bacha lega kaha aaj allah ke azaab se koi
bachane waala nahin magar jis par wo reham kare aur
unke beech mein mauj aade aai to wo dubto mein reh
gaya (43)

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَّاءِ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ
عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

aur hukm farmaya gaya ke aye zameen apna paani
nigal le aur aye aasman tham ja aur paani khushk kar
diya gaya aur kaam tamam hua aur kashti kohe joodi
par thehri aur farmaya gaya ke door ho be insaf log
(44)

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ

الْحَكِيمِينَ ﴿٤٥﴾

aur nooh ne apne rab ko pukara arz ki aye mere rab mera beta bhi to mera ghar waala hai aur beshak tera waada sachha hai aur tu sab se badh kar hukm waala

(45)

قَالَ يُنوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنِّي أَعْظَمُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

farmaya aye nooh wo tere ghar waalo mein nahin beshak uske kaam bade nalaiq hain to mujhse wo baat na maang jiska tujhe ilm nahin main tujhe naseehat farmata hoon ke nadaan na ban (46)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۗ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي

أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾

arz ki aye mere rab main teri panaah chahta hoon ke tujhse wo cheez maangu jiska mujhe ilm nahin aur agar tu mujhe na bakhshhe aur reham na kare to main ziyaa'n kaar ho jaaun (47)

قِيلَ يُنوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ ۗ وَأُمَّمٌ

سَنُتَبِعُهُمْ ثُمَّ يَمْسُهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨﴾

farmaya gaya aye nooh kashti se utar humari taraf se salam aur barkato ke saath jo tujh par hain aur tere saath ke kuchh giroho par aur kuchh giroh wo hain jinhein hum dunya baratne denge phir unhein humari

taraf se dardnak azaab pahunchega (48)

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ
هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

ye ghaib ki khabrein hain ke hum tumhari taraf wahih karte hain unhein na tum jaante the na tumhari qaum isse pehle to sabr karo beshak bhala anjaam parhezgaro ka (49)

وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُوَذَا ۖ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنْتُمْ
إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

aur aad ki taraf unke hum qaum hood ko kaha aye meri qaum allah ko pujo uske siwa tumhara koi mabood nahin tum to nire muftari ho (50)

يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾
aye qaum main is par tumse kuchh ujrath nahin maangta meri mazdoori to usi ke zimma hai jisne mujhe paida kiya to kya tumhein aql nahin (51)

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَ
يَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾

aur aye meri qaum apne rab se muaafi chaho phir uski taraf ruju laao tum par zor ka paani bhejega aur tum mein jitni quwwat hai usse aur zyada dega aur jurm karte hue rugardani ka kare (52)

قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾

bole aye hood tum koi daleel le kar humare paas na aaye aur hum khaali tumhare kahe se apne khudao ko chhodne ke nahin na tumhari baat par yaqeen laayein

(53)

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ ۗ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَ أَشْهَدُ وَآئِنِّي
بِرَبِّي ۗ وَمِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٣﴾

hum to yahi kehte hain ke humare kisi khuda ki tumhein jhapat pahunchi kaha main allah ko gawah karta hoon aur tum sab gawah ho jao ke main bezaar hoon in sab se jinhein tum allah ke siwa uska shareek thehrate ho (54)

مِنْ دُونِهِ فَكَيْدٌ وَنِي جَبِيحًا ۖ ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ ﴿٥٤﴾

tum sab mil kar mera bura chaho phir mujhe mohlat na do (55)

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۗ إِنَّ رَبِّي عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

maine allah par bharosa kiya jo mera rab hai aur tumhara rab, koi chalne waala nahin jiski choti uske qabza -e- qudrat mein na ho beshak mera rab seedhe rasta par milta hai (56)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ
وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٦﴾

phir agar tum moonh phero to main tumhein pahuncha chuka jo tumhari taraf le kar bheja gaya aur

mera rab tumhari jagah auro ko le aayega aur tum uska kuchh na bigaad sakoge beshak mera rab har shay par nighban hai (57)

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۖ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٧﴾

aur jab humara hukm aaya humne hood aur uske saath ke musalmano ko apni rahmat farma kar bacha liya aur unhein sakht azaab se najaat di (58)

وَتِلْكَ عَادٌ ۖ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كِبِيرًا ۖ عَنِيدٍ ﴿٥٨﴾

aur ye aad hain ke apne rab ki aayato se munkir hue aur uske rasoolo ki nafarmani ki aur har bade sarkash hatdharm ke kehne par chale (59)

وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۖ أَلَّا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴿٥٩﴾

aur unke pichhe lagi is dunya mein lanat aur qiyamat ke din sun lo beshak aad apne rab se munkir hue are door ho aad hood ki qaum (60)

وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ ضَلِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۖ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦٠﴾

aur samood ki taraf unke ham qaum saaleh ko kaha aye meri qaum allah ko pujo uske siwa tumhara koi mabood nahin usne tumhein zameen se paida kiya aur is mein tumhein basaya to usse muaafi chaho phir uski

taraf ruju laao beshak mera rab qareeb hai dua sunne
wala (61)

قَالُوا يُصْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهِنَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦١﴾

bole aye saaleh isse pehle to tu hum mein honhaar
maloom hote the kya tum humein isse mana karte ho
ke apne baap dada ke maboodo ko pujein aur beshak
jis baat ki taraf humein bulate ho hum usse ek bade
dhoka daalne waale shak mein hain (62)

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَيْنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَبْصُرُنِي
مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴿٦٢﴾

bola aye meri qaum bhala batao agar main apne rab ki
taraf se raushan daleel par hoon aur usne mujhe apne
paas se rahmat bakhshi to mujhe usse kaun
bachayega agar main uski nafarmani karoon to tum
mujhe siwa nuqsan ke kuchh na badhaoge (63)

وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
فِيأُخَذَ كُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٦٣﴾

aur aye meri qaum ye allah ka naaqa hai tumhare liye
nishani to use chhod do ke allah ki zameen mein khaye
aur use buri tarah haath na lagana ke tumko nazdeek
azaab pahunchega (64)

فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَتَّبِعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۖ ذَٰلِكَ وَعَدَّ غَيْرُ مَكْدُوبٍ ﴿٦٤﴾

to unhone uski koochein kaati to saaleh ne kaha apne
gharo mein teen din aur barat lo ye waada hai ke

jhoota na hoga (65)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا طَلْحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِن خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٥﴾

phir jab humara hukm aaya humne saaleh aur uske saath ke musalmano ko apni rahmat farma kar bacha liya aur is din ki ruswai se beshak tumhara rab qawi izzat waala hai (66)

وَآخِذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِيمِينَ ﴿٦٦﴾

aur zalimo ko chingaadh ne aa liya to subah apne gharo mein ghutno ke bal pade reh gaye (67)

كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ الْآلَآنَ تَبُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعِدَ الشُّؤْدُ ﴿٦٨﴾

goya kabhi yahan base hi na the sun lo beshak samood apne rab se munkir hue are lanat ho samood par (68)

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ

بِعِجْلِ حَنِينٍ ﴿٦٩﴾

aur beshak humare firishte ibrahim ke paas muzda le kar aaye bole salam kaha salam phir kuchh der na ki ke ek bachhda bhuna le aaye (69)

فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۗ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا

أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾

phir jab dekha ke unke haath khane ki taraf nahin pahunchte unko upri samjha aur jee hi jee mein unse darne laga bole dariye nahin hum qaume loot ki taraf bheje gaye hain (70)

وَأَمْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ۗ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾

aur uski bibi khadi thi wo hansne lagi to humne use
ishaaq ki khushkhabri di aur ishaaq ke pichhe yaqoob
ki (71)

قَالَتْ يَوْمَ يُلْتَمَىٰ أَعْلَىٰ وَاَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾

boli haaye kharabi kya mere bachha hoga aur main
boodhi hoon aur ye hain mere shauhar boodhe
beshak ye to achambhe ki baat hai (72)

قَالُوا اتَّعَجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ ﴿٧٣﴾

firishte bole kya allah ke kaam ka achambha karti ho
allah ki rahmat aur uski barkatein tum par aye is ghar
waalo beshak wahi hai sab khoobiyo waala izzat waala
(73)

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾

phir jab ibrahim ka khauf zaail hua aur use
khushkhabri mili humse qaume looth ke baare mein
jhadne laga (74)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴿٧٥﴾

beshak ibrahim tahammul waala bahut aahein karne
waala ruju laane waala hai (75)

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ لَأَتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ

مَرْدُودٍ ﴿٧٦﴾

aye ibrahim is khayal mein na pad beshak tere rab ka

hukm aa chuka aur beshak un par azaab aane waala
hai ke phera na jayega (76)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْطًا سِئَاءَ بِيَهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٦﴾

aur jab looth ke paas humare firishte aaye use unka
gham hua aur unke sabab dil tang hua aur bola ye badi
sakhti ka din hai (77)

وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ط قَالَ يَقَوْمِ
هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط أَلَيْسَ مِنْكُمْ
رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴿٧٧﴾

aur uske paas uski qaum daudti aai aur unhein aage hi
se bure kaamo ki aadat padi thi kaha aye qaum ye meri
qaum ki betiya hain ye tumhare liye suthri hain to allah
se daro aur mujhe mere mehmano mein ruswa na
karo kya tum mein ek aadmi bhi nek chala nahin (78)

قَالُوا الْقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ؕ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿٧٨﴾

bole tumhein maloom hai ke tumhari qaum ki betiyo
mein humara koi haq nahin aur tum zaroor jaante ho
jo humari khwahish hai (79)

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِنِّي إِلَىٰ رُبِّي شَدِيدٌ ﴿٧٩﴾

bola aye kaash mujhe tumhare muqabil zor hota ya kisi
mazboot paaye ki panah leta (80)

قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِبْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْيَلْدِ وَلَا
يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرَاتَكَ ط إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ط إِنَّ مَوْعِدَهُمُ
الصُّبْحُ ط أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨٠﴾

تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

aur aye meri qaum naap aur taul mein insaf ke saath poori karo aur logon ko unki cheezein ghata kar na do aur zameen mein fasaad machate na phiro (85)

بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ۝

allah ka diya jo bach rahe wo tumhare liye behtar hai agar tumhein yaqeen ho aur main kuchh tum par nighban nahin (86)

قَالُوا يَشْعِيبُ أَسْلَوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۗ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۝

bole aye shuaib kya tumhari namaz tumhein ye hukm deti hai ke hum apne baap dadao ke khudao ko chhod dein ya apne maal mein jo chahein na karein haan ji tumhi bade aqlmand nek chalan ho (87)

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ عَنْهُ ۗ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۗ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

kaha aye meri qaum bhala batao to agar main apne rab ki taraf se ek raushan daleel par hoon aur usne mujhe apne paas se achhi rozi di aur main nahin chahta hoon ke jis baat se tumhein mana karta hoon aap uska khilaf karne lagoon main to jahan tak bane sanwarna hi chahta hoon aur meri taufiq allah hi ki taraf se hai maine usi par bharosa kiya aur usi ki taraf

ruju karta hoon (88)

وَيَقَوْمٍ لَا يُجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ
أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٨٨﴾

aur aye meri qaum tumhein meri zidd ye na kamwa de
ke tum par pade jo pada tha nooh ki qaum ya hood ki
qaum ya saaleh ki qaum par aur looth ki qaum to
tumse kuchh door nahin (89)

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

aur apne rab se muaafi chaho phir uski taraf ruju laao
beshak mera rab meharban muhabbat waala hai (90)

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ
لَرَجَمْنَاكَ ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٩١﴾

bole aye shuaib humari samajh mein nahin aati
tumhari bahut si baatein aur beshak hum tumhein
apne mein kamzor dekhte hain aur agar tumhara
kumba na hota to hum ne tumhein pathrao kar diya
hota aur kuchh humari nigah mein tumhein izzat nahin
(91)

قَالَ يَقَوْمِ أَرْهَطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاتَّخَذْتُمْ مِثْلَهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي
بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٩٢﴾

kaha aye meri qaum kya tum par mere kumba ka
dabao allah se zyada hai aur use tum ne apni peeth ke
pichhe daal rakha beshak jo kuchh tum karte ho sab
mere rab ke bas mein hai (92)

وَيَقُولُ مِرَاعِمُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ
يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

aur aye qaum tu apni jagah apna kaam kiye jao main
apna kaam karta hoon ab jaana chahte ho kis par aata
hai wo azaab ke use ruswa karega aur kaun jhoota hai
aur intezar karo main bhi tumhare saath intezar mein
hoon (93)

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۖ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿٩٤﴾

aur jab humara hukm aaya humne shuaib aur uske
saath ke musalmano ko apni rahmat farma kar bacha
liya aur zalimo ko chinghaad ne aa liya to subah apne
gharo mein ghutno ke bal pade reh gaye (94)

كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ۖ آلا بُعْدَ الْمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ ثُبُودُ ﴿٩٥﴾

goya kabhi wahan base hi na the are door ho madain
jaise door hue samood (95)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩٦﴾

aur beshak humne moosa ko apni aayato aur sareeh
ghalabe ke saath (96)

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَلَآئِكَ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٩٧﴾

firaun aur uske darbariyo ki taraf bheja to wo firaun ke
kehne par chale aur firaun ka kaam raasti ka na tha
(97)

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمُرُودُ ﴿٩٨﴾

apni qaum ke aage hoga qiyamat ke din to unhein dozakh mein la utarega aur wo kya hi bura ghaat utarne ka (98)

وَأْتِبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُبْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٩٨﴾

aur unke pichhe padi is jahaan mein lanat aur qiyamat ke din kya bura inaam jo unhein mila (99)

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿٩٩﴾

ye bastiyo ki khabrein hain ke hum tumhein sunate hain un mein koi khadi hai aur koi kat gai (100)

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَشَابَهُ ۖ ﴿١٠٠﴾

aur humne un par zulm na kiya balki khud unhone apna bura kiya to unke mabood jinhein allah ke siwa pujte the unke kuchh kaam na aaye jab tumhare rab ka hukm aaya aur unse unhein halaak ke siwa kuchh na badha (101)

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿١٠١﴾

aur aisi hi pakad hai tere rab ki jab bastiyo ko pakadta hai unke zulm par beshak uski pakad dardnak karri hai (102)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ ۚ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ

يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ﴿١٠٢﴾

beshak is mein nishani hai uske liye jo aakhirat ke azaab se dare wo din hai jis mein sab log ikatthe honge aur wo din haziri ka hai (103)

وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ ۝

aur hum use pichhe nahin hatate magar ek gini hui
muddat ke liye (104)

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۝

jab wo din aayega koi be hukme khuda baat na karega
to un mein koi badbakhy hai aur koi khushnaseeb
(105)

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝

to wo jo badbakht hain wo to dozakh mein hain wo us
mein gadhe ki tarah rengenge (106)

خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا
يُرِيدُ ۝

wo us mein rahenge jab tak aasman wa zameen
rahenge magar jitna tumhare rab ne chaha beshak
tumhara rab jab jo chahe kare (107)

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا
شَاءَ رَبُّكَ ۚ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُودٍ ۝

aur wo jo khushnaseeb hue wo jannat mein hain
humesha us mein rahenge jab tak aasman wa zameen
rahenge magar jitna tumhare rab ne chaha ye
bakhshish hai kabhi khatm na hogi (108)

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِّن قَبْلُ ۚ
وَإِنَّا لَمَوْفُوهُم نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝

to aye sunne waale dhoke mein na pad isse jise kafir

pujte hain ye waisa hi pujte hain jaisa pehle unke baap
dada pujte the aur beshak hum unka hissa unhein
poora pher denge jis mein kami na hogi (109)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۗ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَرِيبٍ ﴿١٠٩﴾

aur beshak humne moosa ko kitab di to us mein phoot
pad gai agar tumhare rab ki taraf ki ek baat pehle na
ho chuki hoti to jabhi unka faisla kar diya jaata aur
beshak wo uski taraf se dhoka daalne waale sham
mein hain (110)

وَإِنَّ كَلَّا لَلْمَالِيُّ فِيْنَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١٠﴾

aur beshak jitne hain ek ek ko tumhara rab uska amal
poora bhar dega use unke kaamo ki khabar hai (111)

فَاسْتَقِمُّ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١١﴾

to qaaim raho jaisa tumhein hukm hai aur jo tumhare
saath ruju laaya aur aye logo sarkashi na karo beshak
wo tumhare kaam dekh raha hai (112)

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ۖ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٢﴾

aur zalimo ki taraf na jhuko ke tumhein aag chhuyegi
aur allah ke siwa tumhara koi himayati nahin phir
madad na paoge (113)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ۗ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ۗ
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكْرَيْنِ ﴿١١٣﴾

aur namaz qaaim rakho din ke dono kinaro aur kuchh raat ke hisso mein beshak nekiya buraiyo ko mita deti hain ye naseehat hai naseehat manne waalo ko (114)

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٤﴾

aur sab karo ke allah neko ka neg zaaya nahin karta
(115)

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَنَّهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا

مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾

to kyun na hue tum se agli sangato mein aise jin mein bhalai ka kuchh hissa laga raha hota ke zameen mein fasaad se rokte haan un mein thode the wahi jin ko humne najaat di aur zalim isi aish ke pichhe pad rahe jo unhein diya gaya aur wo gunahgar the (116)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْطَحُونَ ﴿١١٧﴾

aur tumhara rab aisa nahin ke bastiyo ko be wajah halaak kar de aur unke log achhe ho (117)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾

aur agar tumhara rab chahta to sab aadmiyo ko ek hi ummat kar deta aur wo humesha ikhtelaf mein rahenge (118)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْ

الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

magar jin par tumhare rab ne reham kiya aur log isiliye

banaye hain aur tumhare rab ki baat poori ho chuki ke
beshak zaroor jahannam bhar dunga jinno aur
aadmiyon ko mila kar (119)

وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٩﴾

aur sab kuchh hum tumhein rasoolo ki khabrein
sunate hain jisse tumhara dil thehrayein aur is soorat
mein tumhare paas haq aaya aur musalmano ko
pando naseehat (120)

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ۚ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢٠﴾

aur kafiro se farmao tum apni jagah kaam kiye jao
hum apna kaam karte hain (121)

وَأَنْتَظِرُونَ ۗ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٢١﴾

aur raah dekho hum bhi raah dekhte hain (122)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۗ

مَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

aur allah hi ke liye aasmano aur zameen ke ghaib aur
usi ki taraf sab kaamo ki ruju hai to iski bandagi karo
aur is par bharosa rakho aur tumhara rab tumhare
kaamo se ghafil nahin (123)

Surah Yusuf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo nihayat meharban raham wala.

الرَّٰثِرَاتِ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

ye raushan kitab ki aayaten hain.(1)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

beshak humne ise arabi qur'an utara ki tum samjho.(2)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۚ وَإِنْ كُنْتَ

مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝

hum tumhen sabse accha bayan sunate hain, isliye ki humne tumhari taraf is qur'an ki wahee bheji, agarche beshak isse pehle tumhen khabar na thi.(3)

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

yaad karo jab yusuf ne apne baap se kaha ay mere baap maine gyarah(11) taare aur suraj aur chand dekhe unhen apne liye sajda karte dekha.(4)

قَالَ يَبْنَؤُا لَآ تَقْضَىٰ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۗ إِنَّ الشَّيْطَانَ

لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

kaha aye mere bacche apna khwab apne bhaiyon se na kehna ki wo tere sath koi chaal chalenge, beshak

shaitan aadmi ka khula dushman hai.(5)

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمَتِّعُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥﴾

aur isi tarah tujhe tera rabb chun lega aur tujhe baaton ka anjaam nikaalna sikhayega aur tujh par apni ne'amat poori karega aur yaqoob ke ghar walon par jis tarah tere pehle dono baap dada ibraheem aur is'haaq par poori ki, beshak tera rabb ilm wa hikmat wala hai.(6)

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلِّسَّالِينَ ﴿٧﴾

beshak yusuf aur uske bhaiyon me poochhne walon ke liye nishaniyaan hain.(7)

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧﴾

jab bole ki zaroor yusuf aur uska bhai hamare baap ko humse zyada pyare hain aur hum ek jamat hain, beshak hamare baap sarahatan unki muhabbat me doobe hue hain.(8)

اِقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا ضَالِحِينَ ﴿٩﴾

yusuf ko maar daalo ya kahin zameen me fenk aao ki tumhare baap ka muh sirf tumhari hi taraf rahe aur uske baad fir nek ho jana.(9)

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهَ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ
السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿١٠﴾

unme se kehne wala bola, yusuf ko maro nahi aur use
andhe kuen me daal do ki koi chalta use aa kar le jaye
agar tumhen karna hai.(10)

قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ﴿١١﴾

bole ay hamare baap aapko kya hua ki yusuf ke mamle
me hamara aitebar nahi karte aur hum to iske
khairkhwah hain.(11)

أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ﴿١٢﴾

kal ise hamare sath bhej dijiye ki mewe khaye aur
khele aur beshak hum iske nighbaan hain.(12)

قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿١٣﴾

bola beshak mujhe ranj dega ki ise le jao aur darta hun
ke ise bhediya kha le aur tum isse bekhabar raho.(13)

قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُونَ ﴿١٤﴾

bole agar ise bhadiya kha jaye aur hum ek jama'at hain
jab to hun kisi masraf ke nahi.(14)

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِّ ؕ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

fir jab use le gaye aur sab ki raay yahi thehri ki use
andhe kuen me daal den aur humne use wahee bheji
ki zaroor tu unhen unka ye kaam jataa dega, aise waqt
ke wo na jante honge.(15)

وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝

aur raat hue apne baap ke paas rote aaye.(16)

قَالُوا يَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّبُّ ۗ وَمَا

أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝

bole ay hamare baap hum daud karte nikal gaye aur yusuf ko apne asbaab ke paas chhoda to use bhediya kha gaya aur aap kisi tarah hamara yaqeen na karenge agarche hum sacche hon.(17)

وَجَاءُوا عَلَى قَبِيلِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۗ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرٌ

جَبِيلٌ ۗ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝

aur uske kurte par ek jhootha khoon laga laye kaha balki tumhare dilon ne ek baat tumhare waste bana li hai, to sabr accha aur allah hi se madad chahta hun un baaton par jo tum bata rahe ho.(18)

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ ۗ قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا غُلْمٌ ۗ وَ

أَسْرُوهُ بَضَاعَةً ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝

aur ek qafila aaya, unhone apna pani lane wala bheja to usne apna dol dala bola aaha! kaisi khushi ki baat hai, ye to ek ladka hai aur use ek punji bana kar chhupa liya aur allah janta hai jo wo karte hain.(19)

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۗ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝

aur bhaiyon ne use khote daamo ginti ke rupyon par bech dala, aur unhen isme kuchh ragbat na thi.(20)

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لَا مِرَاتَهُ أَكْرَمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ

تَتَّخِذُهُ وِلْدَانًا ۖ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ
الْأَحَادِيثِ ۗ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾

aur misr ke jis shakhs ne use khareeda wo apni aurat se bola inhen izzat se rakhi shayad inse hume nafa pahuche ya inko hum beta bana len, aur isi tarah humne yusuf ko is zameen me jamaaw diya aur isliye ek ise baaton ka anjaam sikhayen aur allah apne kaam par ghalib hai magar aksar aadmi nahi jaante.(21)

وَلَبَّابِكُمْ أَشَدُّهُ أَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

aur jab apni poori quwwat ko pahucha humne use hukm aur ilm ataa farmaya aur hum aisa sila dete hain nekon ko.(22)

وَرَأَوْنَاهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ۗ قَالَ
مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ۗ إِنَّهُ لَا يُغْلِقُ الظُّلُمُونَ ﴿٢٣﴾

aur wo jis aurat ke ghar me tha usne use lubhaya ki apna aapa na roke aur darwaze sab band kar diye aur boli aao tumhi se kehti hun, kaha allah ki panah wo azeez to mera rabb yani parwarish karne wala hai usne mujhe acchi tarah rakha hai beshak zalimon ka bhala nahi hota.(23)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأْبُهَا رَبِّهِ ۗ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ
الْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾

aur beshak aurat ne uska irada kiya aur wo bhi aurat ka irada karta agar apne rabb ki daleel na dekh leta, humne yunhi kiya ke usse burai aur be hayai ko fer

den beshak wo humare chune hue bando me hai.(24)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط قَالَتْ مَا
جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

aur dono darwaze ki taraf daude aur aurat ne uska kurta peeche se cheer liya aur dono ko aurat ka miyan darwaze ke paas mila boli kya saza hai iski jisne teri ghar wali se badi chahi magar ye ki qaid kiya jaye ya dukh ki maar.(25)

قَالَ هِيَ رَأَوْ دَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ءَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ
قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

kaha usne mujh ko lubhaya ke mai apni hifazat na karun aur aurat ke ghar walon me se ek gawaah ne gawahi di agar inka kurta aage se chira hai to aurat sacchi hai aur inhone ghalat kaha.(26)

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

aur agar inka kurta peeche se chaak hua to aurat jhooti hai aur ye sacche.(27)

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ ؕ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝

fir jab azeez ne uska kurta peechhe se chira dekha, bola beshak ye tum aurton ka charitra hai, beshak tumhara charitra bada hai.(28)

يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ۖ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخٰطِئِينَ ۝

aye yusuf tum iska khyal na karo aur aye aurat apne gunah ki maafi maang beshak tu khatawaron me hai.(29)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ
 إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٠﴾

aur shehar me kuchh auraten boli ke azeez ki biwi apne naujawan ka dil lubhati hai beshak unki muhabbat uske dil me pair gayi hai hum to use sareeh khud rafta pate hain.(30)

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ
 مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ
 وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

to jab zulekha ne unka chakrawa suna to un aurato ko bula bheja aur unke liye masnadein tayyar ki aur un mein har ek ko ek chhuri de di aur yusuf se kaha in par nikal aao jab aurato ne yusuf ko dekha uski badai bolne lagi aur apne haath kaat liye aur boli allah ko paaki hai ye to jinse bashar se nahin ye to nahin magar koi muazzaz firishta (31)

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْتَنَّيَ فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۗ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرْتُهُ لَيَسْجُنَنَّ ۖ وَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّغِيرِينَ ﴿٣٢﴾

zulekha ne kaha to ye hain wo jin par tum mujhe taana deti thi aur beshak maine inka jee lubhana chaha unhone apne aap ko bachaya aur beshak agar wo ye kaam na karenge jo main unse kehti hoon to zaroor qaid mein padenge aur wo zaroor zillat uthayenge (32)

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ

إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾

yusuf ne arz ki aye mere rab mujhe qaid khana zyada pasand hai us kaam se jiski taraf ye mujhe bulati hain aur agar tu mujhse inka makr na pherega to main inki taraf maail hongya aur nadaan banunga (33)

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

to uske rab ne uski sun li aur usse aurato ka makr pher diya beshak wahi sunta jaanta (34)

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَ جُنْدَهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٣٥﴾

phir sab kuchh nishaniya dekh dikha kar pichhli mat unhein yahi aai ke zaroor ek muddat tak use qaidkhana mein daalein (35)

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ۗ وَقَالَ الْآخَرُ
إِنِّي أَرَانِي أَحْبِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ۗ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَارِيكَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٦﴾

aur uske saath qaidkhana mein do jawan dakhil hue un mein ek bola maine khwab dekha ke sharab nichodta hoon aur dusra bola maine khwab dekha ke mere sar par kuchh rotiya hain jin mein se parind khate hain humein iski tabeer bataiye beshak hum aapko nekokaar dekhte hain (36)

قَالَ لَا يَا تُبَيِّئُكُمْ طَعَامًا تُرْزِقْنَهُ إِلَّا نَبَأْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۗ ذَلِكُمَا مِمَّا
عَلَّمَنِي رَبِّي ۗ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

yusuf ne kaha jo khana tumhein mila karta hai wo

tumhare paas na aane payega ke main iski tabeer iske aane se pehle tumhein bata dunga ye un ilmo mein se hai jo mujhe mere rab ne sikhaya hai beshak maine un logon ka deen na maana jo allah par imaan nahin laate aur wo aakhirat se munkir hain (37)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

aur maine apne baap dada ibrahim aur ishaaq aur yaqoob ka deen ikhteyar kiya humein nahin pahunchta ke kisi cheez ko allah ka shareek thehrayein ye allah ka ek fazl hai hum par aur logon par magar aksar log shukr nahin karte (38)

يُصَاحِبِي السِّجْنِ ۖ أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٣٨﴾
aye mere qaidkhana ke dono sathiyo kya juda juda rab achhe ya ek allah jo sab par ghalib (39)

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۗ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾

tum uske siwa nahin pujte magar nire naam jo tumne aur tumhare baap dada ne tarash liye hain allah ne inki koi sanad na utaari hukm nahin magar allah ka usne farmaya hai ke uske siwa kisi ko na pujo ye seedha deen hai lekin aksar log nahin jaante (40)

يُصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْ فَيَسْتَقِي رَبَّهُ حَمْرًا ۗ وَأَمَا الْآخَرُ فَيُضَلِّبُ فَيَتَاكَلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۗ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝

aye qaidkhana ke dono sathiyon mein ek to apne rab (badshah) ko sharab pilayega raha dusra wo sooli diya jayega to parinde uska sar khayenge hukm ho chuka is baat ka jiska tum sawal karte the (41)

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ
فَكَذَّبَ فِي السِّجْنِ بِضَعِّ سِنِينٍ ۝

aur yusuf ne un dono mein se jise bachta samjha usse kaha apne rab (badshah) ke paas mera zikr karna to shaitan ne use bhula diya ke apne rab (badshah) ke samne yusuf ka zikr kare to yusuf kai baras aur jelkhana mein raha (42)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُبْسِتُ ۗ طَيَّا بِهَا الْمَلَأَ أَفْتُونًا فِي رُءُوسِهَا إِنْ كُنْتُمْ لِرُءُوسِهَا تَعْبُرُونَ ۝

aur badshah ne kaha maine khwab mein dekhi saat gaayen farba ke unhein saat dubli gaayen kha rahi hain aur saat baali hari aur dusri saat sookhi aye darbariyon meri khwab ka jawab do agar tumhein khwab ki tabeer aati ho (43)

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۗ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعِلْمِينَ ۝

bole pareshan khwabein hain aur hum khwab ki tabeer nahin jaante (44)

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝

aur bola wo jo un dono mein se bacha tha aur ek muddat baad use yaad aaya main tumhein iski tabeer bataunga mujhe bhejo (45)

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَبَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٍ ۗ لَعَلَّكَ آرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

aye yusuf aye siddiq humein tabeer dijiye saat farba gaayo ki jinhein saat dubli khati hain aur saat hari baali aur dusri saat sookhi shayad main logon ki taraf laut kar jaaun shayad wo aagah ho (46)

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تَأْكُلُونَ ﴿٤٦﴾

kaha tum kheti karoge saat baras lagataar to jo kaato use uski baal mein rehne do magar yhoda jitna kha lo (47)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
تُحْصِنُونَ ﴿٤٧﴾

phir uske baad saat karre baras aayenge ke kja jayenge jo tum ne unke liye pehle jama kar rakha tha magar thoda jo bacha lo (48)

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعِصْرُونَ ﴿٤٨﴾
phir unke baad ek baras aayega jis mein logon ko meenh diya jayega aur us mein ras nichodenge (49)

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أُنْزِلُ بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ
النَّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۗ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿٤٩﴾

aur badshah bola ke unhein mere paas le aao to jab uske paas elchi aaya kaha apne rab (badshah) ke paas palat ja phir usse puchha kya haal hai un aurato ka jinhone apne haath kaate the beshak mera rab fareb jaanta hai (50)

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَوْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ طُفُلًا حَاشَ اللَّهُ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ
مِنْ سُوءٍ طَقَالَتْ امْرَأَاتُ الْعَزِيزِ الْتَمَّ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٠﴾

badshah ne kaha aye aurato tumhara kya kaam tha jab tum ne yusuf ka jee lubhana chaha boli allah ko paaki hai humne un mein koi badi na paai azeez ki aurat boli ab asli baat khul gaiaine inka jee lubhana chaha tha aur wo beshak sachhe hain (51)

ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥١﴾

yusuf ne kaha ye maine isliye kiya ke azeez ko maloom ho jaaye ke maine peeth pichhe iski khayanat na ki aur allah daghabazo ka makr nahin chalne deta (52)

Terahwa Paarah

وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾

aur mai apne nafs ko be qusoor nahi batata, beshak nafs to burai ka bada hukm dene wala hai magar jis par mera rabb raham kare, beshak mera rabb bakhshne wala meharban hai.(53)

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ۚ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدِينَنَا
مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

aur baadshah bola unhen mere paas le aao ki mai unhen khas apne liye chun lun, fir jab usse baat ki, kaha beshak aaj aap hamare yahan moazzaz mo'tamad hain.(54)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

yusuf ne kaha mujhe zameen ke khazane par kar de beshak mai hifazat wala ilm wala hun.(55)

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۚ يَتَّبِعُونَ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۗ لِنُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا
مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

aur yunhi humne yusuf ko us mulk par qudrat bakhshi usme jahan chahe rahe hum apni rahmat jise chahe pahuchayen aur hum nekon ka neg zaya nahi karte.(56)

وَلَا جُرْأَ الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

aur beshak aakherat ka sawab unke liye behtar jo
imaan laye aur parhezgar rahe.(57)

وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٨﴾

aur yusuf ke bhai aaye to uske paas hazir hue to yusuf
ne unhen pehchan liya aur wo usse anjaan rahe.(58)

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآخِ لَكُمْ مِّنْ آبِيكُمْ ؕ آلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي

الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٥٩﴾

aur jab unka saman muhaiya kar diya kaha apna
sautela bhai mere paas le aao, kya nahi dekhte ke mai
poora maapta hun aur mai sabse behtar mehman
nawaz hun.(59)

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرُبُونِ ﴿٦٠﴾

fir agar use le kar mere paas na aao to tumhare liye
mere yahan maaf nahi aur mere paas na fatakna.(60)

قَالُوا سَرَّأَوْدُ عَنهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفِعْلُونَ ﴿٦١﴾

bole hum uski khwahish karenge uske baap se aur
hume ye zaroor karna hai.(61)

وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَى

أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾

aur yusuf ne apne gulamo se kaha unki punji unki
kharajjiyon me rakh do, shayad wo use pehchane jab
apne ghar ki taraf laut kar jayen, shayd wo wapas
aayen.(62)

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانًا نَّكَتُلُ وَ
إِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ﴿٦٣﴾

fir jab wo apne baap ki taraf laut kar gaye bole ay hamare baap humse galla rok diya gaya hai to hamare bhai ko hamare sath bhej lijiye ke galla layen aur hum zaroor uski hifazat karenge.(63)

قَالَ هَلْ أَمْنَكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَ
هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٦٤﴾

kaha kya iske bare me tum par waise hi aitebar kar lun jaisa pehle iske bhai ke bare me kiya tha to allab sabse behatr nighbaan aur wo har meharban se badh kar meharban.(64)

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۗ
هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَبِيرٌ أَهْلْنَا وَنَحْفَظُ آخَانًا وَنَزَدًا دُكَيْلٌ بَعِيرٌ ۚ ذَٰلِكَ
كَيْلٌ يَّسِيرٌ ﴿٦٥﴾

aur jab unhone apna asbaab khola apni punji payi ke unko pher di gayi hai, bole ay hamare baap ab hum aur kya chahein ye hai hamari punji ke hume wapas kar di gayi aur hum apne ghar ke liye galla layen aur apne bhai ki hifazat karen aur ek oont ka bojh aur zyada payen ye dena badshah ke samne kuchh nahi.(65)

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۗ
فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

kaha mai hargiz use tunhare sath na bhejunga jab tak tum mujhe allah ka ye ahad na de do ke zaroor use le kar aaoge magar ye ki tum ghir jao fir jab unhone yaqoob ko ahad de diya, kaha allah ka zimma hai un baaton par jo hum keh rahe hain.(66)

وَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِن أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٦﴾

aur kaha aur mere beton ek darwaze se na dakhil hona juda juda darwaze se jana, mai tumhen allah se bacha nahi sakta hukm to sab allah hi ka hai maine usi par bharosa kiya aur bharosa karne walon ko usi par bharosa chahiye.(67)

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۖ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ۗ وَإِنَّهُ لَدُوٌّ عَلِيمٌ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

aur jab wo dekhil hue jahan se unke baap ne hukm diya tha wo kuchh unhen allah se bacha na sakta ,haan yaqoob ke jee ki ek khwahish thi jo usne poori kar li aur beshak wo sahabe ilm hai hamare dikhaye se magar aksar log nahi jante.(68)

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾

aur jab wo yusuf ke paas gaye usne apne bhai ko apne

paas jagah di, kaha yaqeen jaan mai hi tera bhai hun to
ye jo kuchh karte hain uska gham na kha.(69)

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذِنَ مَوْذِنٌ أَيْتَهَا
الْعَيْرُ أَنْكُمْ لَسْرِقُونَ ﴿٦٩﴾

fir jab unka saman muhayya kar diya pyala apne bhai
ke kajawe me rakh diya fir ek munadi ne nida ki ay
qafila walon beshak tum chor ho.(70)

قَالُوا وَقَبِلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ ﴿٧٠﴾

bole aur unki taraf mutawajjah hue tum kya nahi paate
(71)

قَالُوا أَنْفَقِدُ صَوَاعِ الْمَالِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧١﴾

bole badshah ka paimana nahi milta aur jo use layega
uske liye ek oont ka bojh hai aur main uska zaamin
hun.(72)

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا لَسْرِقِينَ ﴿٧٢﴾

bole khuda ki qasam tumhen khoob maloom hai ki
hum zameen me fasaad karne na aaye aur na hum
chor.(73)

قَالُوا فَمَا جَزَاءُؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿٧٣﴾

bole fir kya saza hai uski agar tum jhoothhe ho.(74)

قَالُوا جَزَاءُؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٤﴾

bole uski saza ye hai ki jiske asbaab me mile wahi uske
badle me gulam bane hamare yahan zalimon ki yahi
saza hai.(75)

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ط كَذَلِكَ كِدْنَا
لِيُوسُفَ ط مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ط نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ
نَشَاءُ ط وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٦﴾

to awwal unki khurjiyon se talashi shuru ki apne bhai ki khurji se pehle fir use apne bhai ki khurji se nikal liya, humne yusuf ko yahi tadbeer batai baadshahi qanoone ise nahi pahuchta rha ki apne bhai ko le le magar ye ki khuda chahe, hum jise chahe darjo buland karen aur har ilm wale se upar ek ilm wala hai.(76)

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرِقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاسْرَهَا يُّوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَكَمْ
يُبْدِيهَا لَهُمْ ؕ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَمَّكَانَا ؕ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾

bhai bole agar ye chori kare to beshak isse pehle ek bhai chori kar chuka hai, to yusuf ne ye baat apne dil me rakhi aur un par zahir na ki, jee me kaha, tum badtar jagah ho aur allah khoob janta hai jo baaten banate ho.(77)

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ؕ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾

bole ay azeez! iske ek baap hain budhe bade to hum me iski jagah kisi ko le lo beshak hum tumhare ehsan dekh rahe hain.(78)

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ؕ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴿٧٩﴾

kaha khuda ki panah ke hum len magar usi ko jiske paas hamara maal mila, jab to hum zalim honge.(79)

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ
أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ
حَتَّى يَأْتِيَ لِي أَوْيَاحُكُمْ اللَّهُ لِي ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيمِينَ ﴿٨٠﴾

fir jab usse na-ummeed hue alag ja kar sargoshi karne lage, unka bada bhai bola kya tumhen khabar nahi ki tumhare baap ne tumse allah kaa ahad le liya tha aur isse pehle yusuf ke haqq me tum ne kaisi taqdeer ki to mei yahan se na talunga yahan tak ke mere baap mujhe ijazat den ya allah mujhe hukm farmaye aur uska hukm sabse behtar.(80)

إِرْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا
كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

apne baap ke paas laut kar jao fir arz karo ay hamare baap beshak aapke bete ne chori ki aur hum to unti hi baat ke gawah hue the jitne hamare ilm me thi aur hum gaib ke nighbaan na the.(81)

وَسُئِلَ الْقُرَيْبَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْغَيْرِ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ﴿٨٢﴾

aur us basti se poochh dekhiye jisme hum the aur us qafila se jisme hum aaye aur hun beshak sacche hain.(82)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبِرْ جَبِيلًا ۗ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ
جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾

kaha tumhare nafs ne tumhen kuchh heela bana diya to accha sabr hai, qareeb hai ki allah un sab ko mujh se

milaye beshak wahi ilm wa hikmat wala hai.(83)

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَى عَلَى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٣﴾

aur unse muh fera aur kaha jaye afsos yusuf ki judai par aur uski aankhen gham se safed ho gayi to wo gussa khata raha.(84)

قَالُوا اتَّاللَّهُ تَفْتُوًّا تَدْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٤﴾

bole khuda ki qasam aap humesha yusuf ki yaad karte rahenge yahan tak ke gor kinare ja lage ya jaan se guzar jayen.(85)

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٥﴾

kaha mai to apni pareshani aur gham ki fariyad allah hi se karta hun aur mujhe allah ki wo shane maloom hain jo tum nahi jante.(86)

يٰبَنِيَّ ادْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٦﴾

ay beton jao yusuf aur uske bhai ka suraag lagao aur allah ki rahmat se na-ummeed na ho, beshak allah ki rahmat se na-ummeed nahi hote magar kafir log.(87)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٧﴾

phir jab wo yusuf ke paas pahuche bole ay azeez hume aur hamare ghar walon par musibat pahuchi aur hum be-qadr punji le kar aaye hain to aap hume poora maap dijiye aur hum par khairaat kijiye beshak allah khairaat walon ko sila deta hai.(88)

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿٨٩﴾

bole kuchh khabar hai tum ne yusuf aur uske bhai ke sath kya kiya tha jab tum naadan the.(89)

قَالُوا عَرَانِكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ

مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

bole kya sachmuch aap hi yusuf hain? kaha mai yusuf hun, aur ye mera bhai beshak allah ne hum par ehsan kiya beshak jo parhezgaro aur sabr kare to allah neko ka neg zaya nahi karta.(90)

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَتَرَكْنَا اللَّهَ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ ﴿٩١﴾

bole khuda ki qasam beshak allah ne aapko hum par fazeelat di aur beshak hum khatawar the.(91)

قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٩٢﴾

kaha aaj tum par kuchh malammat nahi allah tumhen muaf kare aur wo sab meharbano se badh kar meharban hai.(92)

إِذْ هَبُوا بِقَبِيصِي هَذَا فَالْقَوَّةَ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بِصِيرًا ۗ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾

mera ye kurta le jao isse mere baap ke muh par dalo unki aankhe khul jayengi aur apne sab ghar bhar mere paas le aao.(93)

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَنْ تَفْنَدُونِ ﴿٩٤﴾

jab qafila misr se juda hua yahan unke baap ne kaha beshak yusuf ki khushboo pata hun agar mujhe ye na

kaho ke sath (60 years) gaya.(94)

قَالُوا تَأْتِيكَ لَنِي ضَلِيلِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٤﴾

bete bole khuda ki qasam aap apni usi purani khud raftagi me hain.(95)

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۗ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي
أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

fir jab khushi sunane wala aaya usne wo kurta yaqoob ke muh par dala usi waqt uski aankhe fir aayi, kaha mai na kehta tha ki mujhe allah ki wo shane maloom hain jo tum nahi jante.(96)

قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٦﴾

bole ay hamare baap hanare gunaho ki muafi mangiye beshak hum khatawar hain.(97)

قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٧﴾

kaha jald mai tumhari bakhshish apne rabb se chahunga beshak wahi bakhshane wala meharbaan hai.(98)

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُسُفَ أَوْسَىٰ إِلَيْهِ أَبُويَهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ
أَمِينًا ﴿٩٨﴾

fir jab wo sab yusuf ke paas pahuche usne apne maa baap ko apne paas jagah di aur kaha misr me dakhil ho allah chahe to amaan ke sath.(99)

وَرَفَعَ أَبُو يَهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۗ وَقَالَ يَا بَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ
قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ

مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۗ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا
يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾

aur apne maa baap ko takht par bithaya aur wo sab uske liye sajde me gire aur yusuf ne kaha ay mere baap ye mere pehle khwab ki tabeer hai, beshak use mere rabb ne saccha kiya, aur beshak usne mujh par ehsaan kiya ki mujhe qaid se nikala aur aap sabko gaon se le aaya baad iske ke shaitan ne mujh me aur mere bhaiyon me nachaki kara di thi, beshak mera rabb jis baat ko chahe aasan kar de, beshak wahi ilm wa hikmat wala hai.(100)

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۗ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾
ay mere rabb beshak tune mujhe ek saltanat di aur muje kuchh baaton ka anjaam nikalna sikhaya, ay aasmano aur zameen ke banane wale tu mera kaam banane wala hai, duniya aur aakherat me mujhe musalman itna aur unse mila jo tere qurbe khas ke laaiq hain.(101)

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ
يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾

ye kuchh gaib ki khabren hain jo hum tunhari taraf wahi karte hain aur tum unke paas na the jab unhone apna kaam pakka kiya tha aur wo daanw chal rahe the.(102)

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

aur aksar aadmi tum kitna hi chaho imaan na layenge.(103)

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٤﴾

aur tum us par unse kuchh ujrat nahi mangte ye to nahi magar sare jahan ko nasihat.(104)

وَكَآيِنٌ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾

aur kitni nishaniyan hain aasmano aur zameen mein ke aksar log un par guzarte hain aur unse bekhabar rehte hain.(105)

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

aur unme aksar wo hain ki allah par yaqeen nahi laate magar shirk karte hue.(106)

أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا

يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾

kya unse nidar ho baithe ki allah ka azaab unhe aa kar gher le ya qiyamat un par achanak aa jaye aur unhen khabar na ho.(107)

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ سَعٰى بَصِيْرَةٌ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِى ۗ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ مَا

اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٠٨﴾

tum farmao ye meri raah hai mai allah ki taraf bulata hun mai aur jo mere qadamo par dil ki aankhen rakhte hain aur allah ko paki hai aur mai shareek karne wala nahi.(108)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ۗ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾

aur humne tumse pehle bheje sab mard hi the jinhen hum wahih karte aur sab shehar ke sakin the, to kya ye log zameen me chale nahi to dekhte unse pehlon ka kya anjaam hua aur beahak aakherat ka ghar parhezgaro ke liye behtar to kya tumhe aql nahi. (109)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ
نَشَاءُ ۗ وَلَا يُرِيدُ بِأَسْنَانِ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١٠﴾

yahan tak jab rasool ko zahir asbab ki ummeed na rahi aur log samjhe ke rasoolon ne unse galat kaha tha, us waqt humari madad aayi to jise humne chaha bacha liya gaya aur humara azaab mujrim logon se fera nahi jata. (110)

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

beshak unki khabaro se aqlmando ki aankhen khulti hain, ye koi banawat ki baat nahin lekin apne se agle kaamo ki tasdeeq hai aur har cheez ka mufassal bayan aur musulmano ke liye hidayat wa rahmat. (111)

Surah Raad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

الْمَاءِ تَتَلَقَّ أَيْتُ الْكِتَابِ ۖ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

ye kitab ki aayatein hain aur wo jo tumhari taraf
tumhare rab ke paas se utra haq hai magar aksar
aadmi imaan nahin laate (1)

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ۝

allah hai jisne aasmano ko buland kiya be sutoono ke
ke tum dekho phir arsh par istawa farmaya jaisa uski
shaan ke laaiq hai aur suraj aur chand ko musakkhar
kiya har ek ek thehraye hue waada tak chalta hai allah
kaam ki tadbeer farmata aur mufassal nishaniya
batata hai ke kahin tum apne rab ka milna yaqeen karo
(2)

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۖ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ
فِيهَا زَوْجِينَ مِثْلَيْنِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

aur wahi hai jisne zameen ko phailaya aur us mein

langar aur nehrein banai aur zameen mein har qism ke phal do do tarah ke banaye raat se din ko chhupa leta hai beshak is mein nishaniya hain dhyaan karne waalo ko (3)

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ
صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ وَنُفِضَ لُبُغْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكْلِ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

aur zameen ke mukhtalif qat'ae hain aur hain paas paas baagh hain angooto ke aur kheti aur khajoor ke ped ek thaale se uge aur alag alag sab ko ek hi paani diya jaata hai aur phalo mein hum ek dusre se behtar karte hain beshak is mein nishaniya hain aqlmando ke liye (4)

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ۖ إِذَا كُنَّا تُرَابًا ۖ أَوَّانًا لِّمَنْ خَلَقَ جَدِيدٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ ۖ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝

aur agar tajjub karo to unke us kehne ka hai ke kya hum mitti ho kar phir naye banenge wo hain jo apne rab se munkir hue aur wo hain jin ki gardano mein tauq honge aur wo dozakh waale hain unhein usi mein rehna (5)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ وَكَدَّ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ ۖ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَدُوٌّ مَّغْفِرَةٌ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

aur tum se azaab ki jaldi karte hain rahmat se pehle

aur un se aglo ki sazayein ho chuki aur beshak tumhara rab to logon ke zulm par bhi unhein ek tarah ki muaafi deta hai aur beshak tumhare rab ka azaab sakht hai (6)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ

هَادٍ ۝

aur kafir kehte hain un par unke rab ki taraf se koi nishani kyun nahin utri to dar sunane waale ho aur har qaum ke haadi (7)

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِإِقْدَارٍ ۝

allah jaanta hai jo kuchh kisi maada ke pet mein hai aur pet jo kuchh ghat'te aur badhte hain aur har cheez us ke paas ek andaze se hai (8)

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝

har chhupe aur khule ka janne waala sab se bada bulandi waala (9)

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَن أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ

بِالنَّهَارِ ۝

barabar hain jo tum mein baat aahista kahe aur jo aawaz se aur jo raat mein chhupa hai aur jo din mein raah chalta hai (10)

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۗ وَمَا

لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾

aadmi ke liye badli waale firishte hain uske aage aur pichhe ke bahukme khuda uski hifazat karte hain beshak allah kisi qaum se apni nemat nahin badalta jab tak wo khud apni haalat na badal dein aur jab allah kisi qaum se burai chahe to wo phir nahin sakti aur uske siwa unka koi himayati nahin (11)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾

wahi hai ke tumhein bijli dikhata hai dar ko aur ummeed ko aur bhari badliya uthata hai (12)

وَيَسْبِغُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۗ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ﴿١٣﴾

aur garj use sarahti hui uski paaki bolti hai aur firishte uske dar se aur kadak bhejta hai to use daalta hai jis par chahe aur wi allah mein jhagadte hote hain aur uski pakad sakht hai (13)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۗ وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي

ضَلَلٍ ﴿١٤﴾

usi ka pukarna sachha hai aur uske siwa jinko pukarte hain wo unki kuchh bhi nahin sunte magar uski tarah jo paani ke saamne apni hatheliya phailaye baitha hai ke uske moonh mein pahunch jaaye aur wo hargiz na pahunchega aur kafiro ki har dua bhatakti phirti hai

(14)

usne aasman se paani utara to naale apne apne laaiq beh nikle to paani ki ru us par ubhre hue jhaag utha laai aur jis par aag dahkate hain gahna ya aur asbaab banane ko usse bhi waise hi jhaag uthte hain allah batata hai ke haq aur batil ki yahi misaal hai to jhaag to phuk kar door ho jaata hai aur wo jo logon ke kaam aaye zameen mein rehta hai allah yun hi misalein bayaan farmata hai (17)

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۗ وَمَأْوَاهُمْ
جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٧﴾

jin logon ne apne rab ka hukm maana unhi ke liye bhalai hai aur jinhone uska hukm na maana agar zameen mein jo kuchh hai wo sab aur us jaisa aur unki milk mein hota to apni jaan chhudane ko de dete yahi hain jinka bura hisab hoga aur unka thikana jahannam hai aur kya hi bura bichhona (18)

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ
الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

to kya wo jo jaanta hai jo kuchh tumhari taraf tumhare rab ke paas se utra haq hai wo us jaisa hoga jo andha hai naseehat wahi maante hain jinhein aql hai (19)

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ۗ ﴿٢٠﴾

wo jo allah ka ahad poora karte hain aur qaul baandh kar phirte nahin (20)

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ

الْحِسَابِ ۝

aur wo ke jodte hain use jiske jodne ka allah ne hukm diya aur apne rab se darte aur hisab ki burai se andesha rakhte hain (21)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ

عَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝

aur wo jinhone sabr kiya apne rab ki raza chahne ko aur namaz qaaim rakhi aur humare diye se humari raah mein chhupe aur zaahir kuchh kharch kiya aur burai ke badle bhalai kar ke taalte hain unhi ke liye pichhle ghar ka nafa hai (22)

جَنَّتْ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْبَلَيْكَةُ

يَدْخُلُونَ عَلَيْهِنَّ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝

basne ke baagh jin mein wo dakhil honge aur jo laaiq ho unke baap dada aur biwiyo aur awlad mein aur firishte har darwaze se un par ye kehte aayenge (23)

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

salamati ho tum par tumhare sabr ka badla to pichhla ghar kya hi khoob mila (24)

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ

يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

aur wo jo allah ka ahad uske pakke hone ke baad todte aur jiske jodne ko allah ne farmaya use qata karte aur

zameen mein fasaad phailate hain unka hissa lanat hi hai aur unka naseeba bura ghar (25)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٥﴾

allah jiske liye chahe rizq kushada aur tang karta hai aur kafir dunya ki zindagi par itra gaye aur dunya ki zindagi aakhirat ke muqabil nahin magar kuchh din barat lena (26)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَرَادَ ﴿٢٦﴾

aur kafir kehte hain un par koi nishani unke rab ki taraf se kyun na utri tum farmao beshak allah jise chahe gumrah karta hai aur apni raah use deta hai jo uski taraf ruju laaye (27)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٧﴾

wo jo imaan laaye aur unke dil allah ki yaad se chain paate hain sun lo allah ki yaad hi mein dilo ka chain hai (28)

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٨﴾

wo jo imaan laaye aur achhe kaam kiye un ko khushi hai aur achha anjaam (29)

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّةً لَّتَنَلُّوا عَلَيْهِمُ الذِّمَّةَ أَوْ حِينَا
إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ۗ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
مَتَابٌ ﴿٢٩﴾

isi tarah humne tumko us ummat mein bheja jis se pehle ummatein guzri ke tum unhein padh kar sunao jo humne tumhari taraf wahi ki aur wo rahman ke munkir ho rahe hain tum farmao wo mera rab hai uske siwa kisi ki bandagi nahin maine usi par bharosa kiya aur usi ki taraf meri ruju hai (30)

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُفِّرَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَبِيئًا ۚ أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِّكْرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ۝

aur agar koi aisa quran aata jisse pahaad tal jaate ya zameen phat jaati ya murde baatein karte jab bhi ye kafir na maante balki sab kaam allah hi ke ikhteyar mein hain to kya musalman isse na ummeed na hue ke allah chahta to sab aadmiyo ko hidayat kar deta aur kafiro ko humesha unke kiye par sakht dhamak pahunchti rahegi ya unke gharo ke nazdeek utregi yahan tak ke allah ka waada aaye beshak allah waada khilaf nahin karta (31)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرَسُولٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

aur beshak tum se agle rasoolo par bhi hansa ki gai to maine kafiro ko kuchh dino dheel di phir unhein pakda to mera azaab kaisa tha (32)

أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۗ قُلْ سَمُّوهُمْ ۗ
 أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَبْظَاهِرُونَ مِنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زَيْنَ لِدِينِ
 كَفَرُوا وَمَكُرُوهُمْ ۗ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝

to kya wo jo har jaan par uske aamaal ki nigehtasht rakhta hai aur wo allah ke shareek thehrate hain tum farmao unka naam to lo ya use wo batate ho jo uske ilm mein saari zameen mein nahin ya yun hi upri baat balki kafiro ki nigah mein unka fareb achha thehra hai aur raah se roke gaye aur jise allah gumrah kare use koi hidayat karne waala nahin (33)

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ

وَأَقِ ۝

unhein dunya ke jeete azaab hoga aur beshak aakhirat ka azab sabse sakht hai aur unhein allah se bachane waala koi nahin (34)

مِثْلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۗ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ أَكْلُهَا دَائِمٌ ۖ وَظِلُّهَا ۗ
 تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝

ahwaal us jannat ka ke dar waalo ke liye jiska waada hai uske niche nehrein behti hain uske mewe humesha aur uska saaya dar waalo ka to ye anjaam hai aur kafiro ka anjam aag (35)

وَالَّذِينَ اتَّيَبْتُمْ بِهِمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ
 بَعْضَهُ ۗ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبٍ ۝
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ

الْعِلْمُ مَالِكٌ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا وَاقٍ ۝

aur isi tarah humne ise arabi faisla utara aur aye sunne waale agar tu un ki khwahisho par chalega baad iske ke tujhe ilm aa chuka to allah ke aage na tera koi himayati hoga na bachane waala (37)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَ مَا كَانَ لِرَسُولٍ
أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝

aur beshak humne tum se pehle rasool bheje aur unke liye bibiya aur bachhe kiye aur kisi rasool ka kaam nahin ke koi nishani le kar aaye magar allah ke hukm se har waada ki ek likhat hai (38)

يُنْحُوا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۝

allah jo chahe mitata aur saabit karta hai aur asal likha hua usi ke paas hai (39)

وَإِنْ مَا تُرِيدُونَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَفَّيْنَاكُمْ فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا
الْحِسَابُ ۝

aur agar humein tumhein dikha dein koi waada jo unhein diya jaata hai ya pehle hi apne paas bulayein to behar haal tum par to sirf pahunchana hai aur hisab humara zimma (40)

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ
لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝

kya unhein nahin soojhta ke hum har taraf se unki aabadi ghatate aa rahe hain aur allah hukm farmata

hai uska hukm pichhe daalne waala koi nahin aur use
hisab lete der nahin lagti (41)

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ط يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ط
سَيَعْلَمُ الْكُفْرَ لِمَنْ عُقِبَى الدَّارِ ۝

aur unse agle fareb kar chuke hain to saari khufya
tadbeer ka malik to allah hi hai jaanta hai jo kuchh koi
jaan kamaye aur ab janna chahte hain kafir kise milta
hai pichhla ghar (42)

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ط قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ
مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

aur kafir kehte hain tum rasool nahin tum farmai allah
gawah kaafi hai mujh mein aur tum mein aur wo jise
kitab ka ilm hai (43)

Surah Ibrahim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

ek kitab hai ke humne tumhari taraf utari ke tum logon
ko andheriyo se ujale mein laao un ke rab ke hukm se
uski raah ki taraf jo izzat waala sab khubiyo waala hai

(1)

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ
شَدِيدٍ ۝

allah ke usi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein aur kafiro ki kharabi hai ek sakht azaab se (2)

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ
يَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

jinhein aakhirat se dunya ki zindagi pyari hai aur allah ki raah se rokhte aur us mein kuji chahte hain wo door ki gumrahi mein hain (3)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۗ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

aur humne rasool uski qaum hi ki zuban mein bheja ke wo unhein saaf bataye phir allah gumrah karta hai jise chahe aur wo raah dikhata hai jise chahe aur wahi izzat hikmat waala hai (4)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَ
ذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝

aur beshak humne moosa ko apni nishaniya de kar bheja ke apni qaum ko andheriyo se ujale mein la aur unhein allah ke din yaad dila beshak is mein nishaniya hain har bade sabr waale shukr guzaar ko (5)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُدَّبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۗ وَفِي

ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾

aur jab moosa ne apni qaum se kaha yaad karo apne upar allah ka ehsan jab usne tumhein firaun waalo se najaat di jo tumko buri maar dete the aur tumhare beto ko zibah karte aur tumhari betiya zinda rakhte aur is mein tumhare rab ka bada fazl hua (6)

وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

aur yaad karo jab tumhare rab ne suna diya ke agar ehsan mano to main tumhein aur dunga aur agar nashukri karo to mera azaab sakht hai (7)

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۖ قَالَ اللَّهُ لَعْنَىٰ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

aur moosa ne kaha agar tum aur zameen mein jitne hain sab kafir ho jao to beshak allah be parwah sab khoobiyo waala hai (8)

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثمودَ ۗ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۗ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۗ طَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ

مُرِيبٍ ﴿٩﴾

kya tumhein unki khabrein na aai jo tumse pehle the nooh ki qaum aur aad aur samood aur jo unke baad hue unhein allah hi jaane unke paas unke rasool raushan daleelein le kar aaye to wo apne haath apne moonh ki taraf le gaye aur bole hum munkir hain uske jo tumhare haath bheja gaya aur jis raah ki taraf

humein bulate ho us mein humein wo shak hai ke baat
khulne nahin deta (9)

قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي اللَّهُ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيَّ ۖ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۖ تُرِيدُونَ
أَنْ تَصُدُّونَنَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٩﴾

unke rasoolo ne kaha kya allah mein shak hai aasmano
aur zameen ka banane waala tumhein bulata hai ke
tumhare kuchh gunah bakhshhe aur maut ke muqarrar
waqt tak tumhari zindagi be azaab kaat de bole to tum
humi jaise aadmi ho tum chahte ho ke humein usse
baaz rakho jo humare baap dada pujte the ab koi
raushan sanad humare paas le aao (10)

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِّنْ
عِبَادِهِ ۖ وَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

unke rasoolo me unse kaha hum hain to tumhari tarah
insan magar allah apne bando mein se jis par chahe
ehsan farmata hai aur humara kaam nahin ke hum
tumhare paas kuchh sanad le aayein magar allah ke
hukm se aur musalmano ko allah hi par bharosa
chahiye (11)

وَ مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۗ
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١١﴾

aur humein kya hua ke allah par bharosa na karein

usne to humari raahein humein dikhai aur tum jo humein suna rahe ho hum zaroor us par sabr karenge aur bharosa karne waalo ko allah hi par bharosa chahiye (12)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۗ
فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝

aur kafiro ne apne rasoolo se kaha hum zaroor tumhein apni zameen se nikaal denge ya tum humare deen par ho jao to unhein unke rab ne wahih bheji ke hum zaroor un zalimo ko halaak karenge (13)

وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ۝

aur zaroor hum tum ko unke baad zameen meij basayenge ye isliye hai jo mere huzoor khade hone se dare aur maine jo azaab ka hukm sunaya hai usse khauf kare (14)

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

aur unhone faisla maanga aur har sarkash hatdharm na muraad hua (15)

مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ۝

jahannam uske pichhe lagi aur use peep ka paani pilaya jayega (16)

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۗ وَمِنْ

وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝

bamushkil uska thoda ghunt lega aur gale se niche

utarne ki ummeed na hogi aur use har taraf se maut aayegi aur marega nahin aur uske piche ek gaadha azaab (17)

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ
لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ۝١٧ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ۝

apne rab se munkiro ka haal aisa hai ke unke kaam hain jaise raakh ke us par hawa ka sakht jhonka aaya aandhi ki din mein saari kamai mein se kuchh haath na laga yahi hai door ki gumrahi (18)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّ يَشَاءُ يَذْهَبِكُمْ ۖ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ
جَدِيدٍ ۝

kya tu ne na dekha ke allah ne aasman wa zameen haq ke saath banaye agar chahe to tumhein le jaaye aur ek nai makhlooq le aaye (19)

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

aur ye allah par kuchh dushwar nahin (20)

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ
مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدٰيْنٰكُمْ ۗ سَوَآءٌ
عَلَيْنَا اَجْرُ عَنَّا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۝

aur sab allah ke huzoor alaniya haazir honge to jo kamzor the wo badai waalo se kahenge ke hum tumhare taabe the kya tumse ho sakta hai ke allah ke azaab mein se kuchh hum par se taal do kahenge allah humein hidayat karta to hum tumhein karte hum par

ek sa hai chahe beqarari karein ya sabr se rahein
humein kahin panah nahin (21)

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَبَّأَقْضَىٰ الْأَمْرَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ
فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۗ
فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَمَؤَا أَنفُسِكُمْ ۗ مَا أَنَا بِبُصْرٍ خَيْرٍ ۚ وَمَا أَنْتُمْ بِبُصْرٍ خَيْرًا ۗ إِنِّي
كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

aur shaitan kahega jab faisla ho chukega beshak allah
ne tum ko sachha waada diya tha aur maine jo tum ko
waada diya tha wo maine tumse jhoota kiya aur mera
tum par kuchh qaabu na tha magar yahi ke maine tum
ko bulaya tumne meri maan li to ab mujh par ilzaam
na rakho khud apne upar ilzaam rakho jq main
tumhari faryad ko pahunch saku na tum meri faryad
ko pahunch sako wo jo pehle tumne mujhe shareek
thehraya tha main usse sakht bezaar hoon beshak
zalimo ke liye dardnak azaab hai (22)

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿٢٢﴾

aur wo jo imaan laaye aur achhe kaam kiye wo baagho
mein dakhil kiye jayenge jinke niche nehrein rawaan
humesha un mein rahein apne rab ke hukm se us mein
unke milte waqt ka ikraam salaam hai (23)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي
السَّمَاءِ ﴿٢٣﴾

kya tum ne na dekha allah ne kaisi misaal bayaan farmai pakeeza baat ki jaise pakiza darakht jis ki jad qaaim aur shaakhein aasman mein (24)

تَوْنِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِأَذْنِ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾

har waqt apna phal deta hai apne rab ke hukm se aur allah logon ke liye misalein bayaan farmata hai ke kahin wo samjhein (25)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ
قَرَارٍ ﴿٢٥﴾

aur gandi baat ki misaal jaise ek ganda ped ke zameen ke upar se kaat diya gaya ab use koi qiyaam nahin (26)

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ
اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٦﴾ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٦﴾

allah sabit rakhta hai imaan waalo ko haq baat par dunya ki zindagi mein aur aakhirat mein aur allah zalimo ko gumrah karta hai aur allah jo chahe kare (27)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ ﴿٢٧﴾

kya tumne unhein na dekha jinhone allah ki nemat ki nashukri se badal di aur apni qaum ko tabahi ke ghar la utara (28)

جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٨﴾

wo jo dozakh hai uske andar jayenge aur kya hi buri theharne ki jagah (29)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۖ

aur allah ke liye barabar thehraye ke uski raah se behkawein tum farmao kuchh barat lo ke tumhara anjaam aag hai (30)

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ۖ

mere un bando se farmao jo imaan laaye ke namaz qaaim rakhein aur humare diye mein se kuchh humari raah mein chhupe aur zaahir kharch karein us din ke aane se pehle jis mein na saudagari hogi na yarana (31)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ

الأنهر ۖ

allah hai jisne aasman aur zameen banaye aur aasman se paani utara to uske kuchh phal tumhare khane ko paida kiye aur tumhare liye kashti ko musakkhar kiya ke uske hukm se darya mein chale aur tumhare liye nadiya musakkhar ki (32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۖ

aur tumhare liye sooraj aur chand musakkhar kiye jo barabar chal rahe hain aur tumhare liye raat aur din musakkhar kiye (33)

وَاتَّسَمَّوْا مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۗ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ

لَقَلْبُومٌ كَفَّارٌ ۖ

aur tumhein bahut kuchh moonh manga diya aur agar allah ki nematein gino to shumar na kar sakoge beshak aadmi bada zalim nashukra hai (34)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ ۖ

aur yaad karo jab ibrahim ne arz ki aye mere rab is shehar ko amaan waala kar de aur mujhe aur mere beto ko buto ke pujne se bacha (35)

رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۗ فَمَنْ تَبِعْنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي
فَأِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

aye mere rab beshak buto ne bahut log behka diye to jisne mera saath diya wo to mera hai aur jis ne mera kaha na maana to beshak tu bakhshne waala meharbaan hai (36)

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ دُونِ بَيْتِي بَوَادِ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝

aye mere rab maine apni kuchh awlaad ek naale mein basai jis mein kheti nahin hoti tere hurmat waale ghar ke paas aye humare rab isliye ke wo namaz qaaim rakhein to tu logon ke kuchh dil inki taraf maail kar de aur inhein kuchh phal khane ko de shayad wo ehsan maanein (37)

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا

في السماء ﴿٣٨﴾

aye humare rab tu jaanta hai jo hum chhupate hain
aur zahir karte aur allah par kuchh chhupa nahin
zameen mein na aasman mein (38)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَبِيحٌ

الدُّعَاءُ ﴿٣٩﴾

sab khubiya allah ko jisne mujhe budhape mein
ismayeel wa ishaaq diye beshak mera rab dua sunne
wala hai (39)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

aye mere rab mujhe namaz ka qaaim karne wala rakh
aur kuchh meri awlaad ko aye humare rab aur meri
dua sun le (40)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

aye hamare rabb mujhe bakhsh de aur mere maa baap
ko aur sab musalmano ko jis din hisab qaeem
hoga.(41)

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾

aur hargiz allah ko bekhabar na janna zalimo ke kaam
se unhen dheel nahi de raha hai magar aise din ke liye
jisme aankhe khuli ki khuli reh jayengi.(42)

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رِعْءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۗ وَأَفَلَيْتَهُمْ هَوَاءُ ﴿٤٣﴾

be-tahasha daudte niklenge apne sar uthaye hue ki

unki palak unki taraf laut'ti nahi aur unke dilon me kuchh sakat na hogi.(43)

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا آخِرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبُ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أَوْ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ ۖ

aur logon ko us din se darao jab un par azaab aayega to zalim kahenge ay hamare rabb thodi der hume muhlat de ke hum tera bulana mane aur rasoolon ki ghulami karen, to kya tum pehle qasam na kha chuke the ke hume duniya se kahin hat kar jana nahi.(44)

وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِنٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۖ

aur tum unke gharo me base jinhone apna bura kiya tha aur tum par khoob khul gaya humne unke sath kaisa kiya aur humne tumhe misale de de kar bata diya.(45)

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۖ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ

aur beshak wo apna sa daanw chale aur unka daanw allah ke qaboo me hai aur unka daanw kuchh aisa na tha ke jisse ye pahaad tal jayein.(46)

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفَ وَعْدِهِ ۗ رُسُلَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۖ

to hargiz khyaal na karna ke allah apne rasoolon se wada khilaf karega beshak allah ghalib hai badla lene

wala.(47)

يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٧﴾

jis din badal di jayegi zameen is zameen ke siwa aur aasman aur log sab nikal khade honge, ek allah ke samne jo sab par ghalib hai.(48)

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾

aur us din tum mujrimo ko dekhoge ke bediyon me ek dusre se jude honge.(49)

سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ وَتَعْشَىٰ جُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾

unke kurte raal ke honge aur unke chehre aag dhaanp legi.(50)

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾

isliye ke allah har jaan ko uski kamai ka badla de beshak allah ki hisab karte kuchh der nahi lagti.(51)

هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو

الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾

ye logon ko hukm pahuchta hai aur isliye ke wo usse daraye jayen aur isliye ke wo jaan len ke wo ek hi ma'abood hai aur isliye ke aql wale nasihat mane.(52)

Surah Hijr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo nihayat meharban raham wala.

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝۱

alif laam raa, ye aayatein hain kitab aur raushan qur'an ki.(1)

Chaudhwa Paara

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝۲

bahut aarzooyein karenge kafir kaash musalman hote.(2)

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهَهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝۳

unhen chhodo ke khayen aur barten aur ummeed unhen khel me daale to ab jana chahte hain.(3)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۝۴

aur ji basti humne halaak ki uska ek jaana hua nawishta tha.(4)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝۵

koi giroh apne wada se na aage badhe na peechhe hate.(5)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

aur bole ki ay wo jin par qur'an utra beshak tum
majnoon ho.(6)

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

hamare paas firishte kyu nahi late agar tum sacche
ho.(7)

مَا نُنزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ۝

hum firishte bekar nahi utarte aur wo utre to unhen
muhat na mile.(8)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ۝

beshak humne utara hai ye quraan aur beshak hun
khud iske nighbaan hain.(9)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِبَعِ الْأَوَّلِينَ ۝

aur beshak humne tum se pehle agli ummat me rasool
bheje.(10)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

aur unke paas koi rasool nahi aata magar usse hans
karte hain.(11)

كَذَلِكَ نَسُكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

aise hi hun us hans ko un mujrimo ke dilo me raah
dete hain.(12)

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝

wo is par imaan nahi laate aur aglon ki raah pad chuki
hai.(13)

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

aur agar hun unke liye aasman me koi darwaza khol den ke din ko usme chadhte.(14)

لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾

jab bhi yahi karte ke humari nigaah baandh di gayi hai balki hun par jadu hua hai.(15)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾

aur beshak humne aasman me burj banaye aur use dekhne walo ke liye aarasta kiya.(16)

وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٧﴾

aur use humne har shaitan mardood se mahfooz rakha.(17)

إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٨﴾

magar jo chori chhupe sunne jaye to uske peechhe pasta hai raushan shola.(18)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُودٍ ﴿١٩﴾

aur humne zameen failai aur usme langar daale aur usme har cheez andaze se ugai.(19)

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ﴿٢٠﴾

aur tumhare liye usme roziyaan kar di aur wo kar diye jinhen tum rizq nahi dete.(20)

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ لَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

aur koi cheez nahi jiske humare paas khazane na hon aur humne use nahi utara magar ek maloom andaze

se.(21)

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ۗ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ

بِخَزِينٍ ﴿٢١﴾

aur humne hawayen bheji baadalo ko baarwar karne waliyaan to humne aasman se paani utara fir wo tumhen peene ko diya aur tum kuchh uske khazanchi nahi.(22)

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٍ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿٢٢﴾

aur beshak hum hi jilayen aur hun hi maaren aur hum hi waris hain.(23)

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٣﴾

aur beshak hume maloom hai jo tum aage badhe aur beshak hune maloom hai jo tum me peechhe rahe.(24)

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۗ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

aur beshak tumhara rabb hi unhen qiyamat me uthayega beshak wahi ilm wa hikmat wala hai.(25)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَبَاٍ مَسْنُونٍ ﴿٢٥﴾

aur beshak humne aadmi ko bajti hui mitti se banaya jo asal me ek siyah badbudaar gara thi.(26)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السُّمُورِ ﴿٢٦﴾

aur jinn ko usse pehle banaya be dhuwen ki aag se.(27)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبَاٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٧﴾

aur yaad karo jab tumhare rabb ne firishton se farmaya ki mai aadmi ko banane wala hun bajti mitti se

jo badbudaar siyah gaare se hai.(28)

فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٨﴾

to jab main use theek kar lun aur apni taraf ki khas moazzaz rooh foonk dun to us ke liye sajde me gir padna.(29)

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٢٩﴾

to jitne firishte the sabke sab sajde me gire.(30)

إِلَّا ابْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٠﴾

siwa iblees ke, usne sajda walon ka saath na mana.(31)

قَالَ يَا بَلِيسَ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

farmaya ay iblees tujhe kya hua ke sajda karne walo se alag raha.(32)

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٣٢﴾

bola mujhe zeba nahi ke bashar ko sajda karun jise tune bajti mitti se banaya jo siyah boodaar gaare se thi.(33)

قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ﴿٣٣﴾

farmaya tu jannat se nikal ja ke tu mardood hai.(34)

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣٤﴾

aur beshak qiyamat tak tujh par laa'nat hai.(35)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْني إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٥﴾

bola ay mere rabb tu mujhe mohlat de us dil tak ke wo uthaye jayen.(36)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٣٦﴾

farmaya tu unme hai jinko.(37)

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٣٧﴾

us maloom waqt ke din tak mohlat hai.(38)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾

bola ay rabb mere qasam iski ke tune mujhe gumrah kiya main unhen zameen me bhulawe dunga aur zaroor main un sab ko be-raah kar dunga.(39)

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾

magar jo unme tere chune hue bande hain.(40)

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾

farmaya ye rasta seedha meri taraf aaya hai.(41)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَايِبِينَ ﴿٤٢﴾

beshak mere bando par tere kuchh qaboo nahi siwa un gumraho ke jo tera sath de.(42)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾

aur beshak jahannam un sab ka wada hai.(43)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾

uske saat(7) darwaze hain, har darwaze ke liye unme se ek hisse bata hua hai.(44)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

beshak darr wale baagho aur chashmo me hain.(45)

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِينَ ﴿٤٦﴾

unme dakhil ho salamati ke sath amaan me.(46)

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾

aur humne unke seeno me jo kuchh keene the sab
kheench liye aapas me bhai hain rakhti par rubru
baithe.(47)

لَا يَسْتَهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٧﴾

na unhen kuchh takleef pahuche na wo usme se
nikaale jayen.(48)

نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٤٨﴾

khabar do mere bando ko ki beshak mai hi hun
bakhshne wala meharban.(49)

وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٤٩﴾

aur mera hi azaab dardnak azaab hai.(50)

وَنَبِّئُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿٥٠﴾

aur unhen ahwaal sunao ibraheem ke mehmano
ka.(51)

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ؕ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجُودٌ ﴿٥١﴾

jab wo uske paas aaye to bole salam kaha hume tum
se darr maloom hota hai.(52)

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلَيْمِ ﴿٥٢﴾

unhone kaha dariye nahi hum aapko ek ilm wale ladke
ki basharat dete hain.(53)

قَالَ ابَشِّرْ تُؤْمِنِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَا تَبَشِّرُونَ ﴿٥٣﴾

kaha kya is par mujhe basharat dete ho ke mujhe
budhapa pahuch gaya ab kahe par basharat dete
ho.(54)

قَالُوا بَشِّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْفٰظِيْنَ ﴿٥٥﴾

kaha humne aapko sacchi basharat di hai aap na-ummeed na hon.(55)

قَالَ وَمَنْ يَّقْنُظْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

kaha apne rabb ki rahmat se kaun na-ummeed ho magar wahi jo gumrah hue.(56)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اِيَّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾

kaha fir tumhara kya kaam hai ay firishton.(57)

قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٨﴾

bole hum ek mujrim qaum ki taraf bheje gaye hain.(58)

اِلَّا اَل لُّوْطِ ۗ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥٩﴾

magar looth ke ghar wale un sab ko hum bacha lenge.(59)

اِلَّا اَمْرٰتُهُ قَدَّرْنَا ۗ اِنَّهَا لَيِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٦٠﴾

magar uski aurat hum thehra chuke hain ke wo peechhe reh jane walon me hai.(60)

فَلَمَّا جَاءَ اَل لُّوْطِ الْمُرْسَلُونَ ﴿٦١﴾

to jab loot ke ghar firishte aaye.(61)

قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ﴿٦٢﴾

kaha tum to kuchh begane log ho.(62)

قَالُوا بَلْ جُنُنْكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُونَ ﴿٦٣﴾

kaha balki hum to aapne paas wo laye hain jisme ye log shak karte the.(63)

وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٦٤﴾

aur hun aapke paas saccha hukm laye hain aur hum beshak sacche hain.(64)

فَأَسْرِبَ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا

حَيْثُ تُوْمَرُونَ ﴿٦٥﴾

to apne ghar walon ko kuchh raat rahe le kar bahar jaiye aur aap unke peechhe chaliye aur tum me koi peechhe fir kar na dekhe aur jahan ko hukm hai seedha chale jaiye.(65)

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُ هُوَ لَأَمْقَطٌ مُّصْبِحِينَ ﴿٦٦﴾

aur shehar wale khushiyan manate aaye.(67)

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٧﴾

aur shehar wale khushiyan manate aaye.(67)

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٦٨﴾

looth ne kaha ye mere mehman hain mujhe fazeelat na karo.(68)

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ ﴿٦٩﴾

aur allah se daro aur mujhe ruswa na karo.(69)

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالِيْنَ ﴿٧٠﴾

bole kya humne tumhen mana na kiya tha ke auro ke muamle me dakhil na do.(70)

قَالَ هَؤُلَاءِ بَنِيَّ إِن كُنْتُمْ فَعَلِينَ ﴿٧١﴾

kaha ye qaum ki auraten meri betiyan hain agar tumhen karna hai.(71)

لَعْنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٢﴾

ay mehboob tumhari jaan ki qasam beshak wo apne nashe me bhataak rahe hain.(72)

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾

to din nikalte unhen chinghaad ne aa liya.(73)

فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾

to humne us basti ka upar ka hissa uske neeche ka hissa kar diya aur un par kankar ke patthar barsaye.(74)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْتَوَسَّيْنَ ﴿٧٥﴾

beshak isme nishaniyan hain farasat walon ke liye.(75)

وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٦﴾

aur beshak wo basti us raah par hai jo ab tak chalti hai.(76)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾

beshak isme nishaniyan hain iman walon ko.(77)

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾

aur beshak jhaadi wale zaroor zalim the.(78)

فَأَنْتَقَبْنَا مِنْهُمْ مُّوَائِنًا لِّبِأَمَامِ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾

to humne unse badla liya aur beshak ye dono bastiyan khule raste par padti hai (79)

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٨٠﴾

aur beshak hijr walo ne rasoolon ko jhutlaya.(80)

وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨١﴾

aur humne unko apni nishaniyan di to wo unse moonh phere rahe.(81)

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿٨١﴾

aur wo pahado me ghar tarashte the be-khauf.(82)

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّبْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٢﴾

to unhen subha hote chinghaad ne aa liya.(83)

فَمَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٣﴾

to unki kamai kuchh unke kaam na aayi.(84)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ

فَأَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَبِيلَ ﴿٨٤﴾

aur humne aasman aur zameen aur jo kuchh unke darmiyan hai abas na banaya aur beshak qiyamat aane wali hai to tum acchi tarah darguzar karo.(85)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٥﴾

beshak tumhara rabb hi bahut paida karne wala janne wala hai.(86)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿٨٦﴾

aur beshak humne tum ko saat aayeten di jo dohrai jati hai aur azmat wala qur'an.(87)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ

جَنَاحَكَ لِمَنِ الْمُنِيرِينَ ﴿٨٧﴾

apni aankh utha kar us cheez ko na dekho jo humne unke kuchh jodo ko baratne ko di, aur unka kuchh gham na khao aur musalmano ko apne rahmat ke paro

me le lo.(88)

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿٨٨﴾

aur farmao ke mai hi hun saaf darr sunane wala(us
azaab se).(89)

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ﴿٩٠﴾

jaisa humne baantne walon par utara.(90)

الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩١﴾

jinhone kalame ilahi ko tikke boti kar liya.(91)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾

to tumhare rabb ki qasam hum zaroor un sabse
poochenge.(92)

عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

jo kuchh wo karte the.(93)

فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

to ailaniya keh do jis baat ka tumhein hukm hai aur
mushriko se moonh pher lo.(94)

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿٩٥﴾

beshak un hansne walon par hum tumhen kifayat
karte hain.(95)

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾

jo allah ke sath dusra ma'abood the rate hain to ab
jaan jayenge.(96)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

aur beshak hume maloom hai ki unki baaton se tum dil

tang hote ho.(97)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٧﴾

to apne rabb ko sarahate hue uski paki bolo aur sajda walon me ho.(98)

وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٨﴾

aur marte dum tak apne rabb ki ibadat me raho.(99)

Surah Nahl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعَلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١﴾

ab aata hai allah ka hukm to iski jaldi na karo paaki aur bartari hai use unke shareeko se (1)

يُنزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴿٢﴾

malaiko ko imaan ki jaan yaani wahih le kar apne jin bando par chahe utarta hai ke dar sunao ke mere siwa kisi ki bandagi nahin to mujhse daro (2)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾

usne aasman aur zameen baja banaye wo unke shirk se bartal hai (3)

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤﴾

aadmi ko ek nithri boond se banaya to jabhi khula
jhagdalu hai (4)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾

aur chaupaye paida kiye un mein tumhare liye garam
libas aur manfatein hain aur un mein se khaate ho (5)

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

aur tumhara un mein tajammul hai jab unhein shaam
ko wapas laate ho aur jab charne ko chhodte ho (6)

وَتَحِيلَ أَنْتُمْ إِلَىٰ بَدَلِكُمْ لَمْ تَكُونُوا بِالْبَلِغِيهِ إِلَّا إِنشِقَ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

aur wo tumhare bojh utha kar le jaate hain aise shehar
ki taraf ke tum us tak na pahunchte magar adhmare
ho kar beshak tumhara rab nihayat meharban reham
wala hai (7)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

aur ghode aur khachchar aur gadhe ke un par suwar
ho aur zeenat ke liye aur wo paida karega jiski tumhein
khabar nahin (8)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۗ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

aur beech ki raah theek allah tak hai aur koi raah tedhi
hai aur chahta to tum sab ko raah par laata (9)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسَبُّونَ ﴿١٠﴾

wahi hai jisne aasman se paani utara usse tumhara
peena hai aur usse darakht hain jin se charate ho (10)

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

us paani se tumhare liye kheti ugata hai aur zaitoon aur khajoor aur angoor aur har qism ke phal beshak is mein nishani hai dhyaan karne waalo ko (11)

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

aur usne tumhare liye musakkhar kiye raat din aur suraj aur chand aur sitare uske hukm ke baandhe hain beshak us mein nishaniya hain aqlmando ko (12)

وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾

aur wo jo tumhare liye zameen mein paida kiya rang rang beshak us mein nishani hai yaad karne waalo ko (13)

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

aur wahi hai jisne tunhare liye darya musakkhar kiya ke us mein se taaza gosht khate ho aur us mein se gahna nikaalte ho jise pehante ho aur tu us mein kashtiya dekhe ke paani cheer kar chalti hain aur isliye ke tum uska fazl talash karo aur kahin ehsan mano (14)

وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

aur usne zameen mein langar daale ke kahin tumhein
le kar na kaanpe aur nadiya aur raste ke tum raah
paaon (15)

وَعَلَيْتُمْ وَبِالتَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

aur alamatein aur sitare se wo raah paate hain (16)

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾

to kya jo sunaye wo aisa ho jaayega jo na banaye to
kya tum naseehat nahin maante (17)

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧﴾

aur agar allah ki nematein gino to unhein shumar na
kar sakoge beshak allah bakhshne waala meharbaan
hai (18)

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٨﴾

aur allah jaanta hai jo chhupate aur zaahir karte ho
(19)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩﴾

aur allah ke siwa jin ko pujte hain wo kuchh bhi nahin
banate aur wo khud banaye hue hain (20)

أَمْوَاتٌ غَيْرٌ أَحْيَاءٍ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ ۗ أَلَيْسَ يُبْعَثُونَ ﴿٢٠﴾

murde hain zinda nahin aur unhein khabar nahin log
kab uthaye jayenge (21)

إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ

مُستَكْبِرُونَ ﴿٢١﴾

tumhara mabood ek mabood hai wo jo aakhirat par

imaan nahin laate unke dil munkir hain aur wo maghroor (22)

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

fil haqeeqat allah jaanta hai jo chhupate aur zahir karte hain beshak wo maghrooro ko pasand nahin farmata (23)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

aur jab unse kaha jaaye ke tumhare rab ne kya utara kahein aglo ki kahaniya hain (24)

لِيُحِبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ
أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝

ke qiyamat ke dinn apne bojh poore uthayein aur kuchh bojh unke jinhein apni jahalat se gumrah karte hain sun lo kya hi bura bojh uthate hain (25)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ
السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

beshak unse aglo ne fareb kiya tha to allah ne unki chinai ko neew se liya to upar se un par chhat gir padi aur azaab un par wahan se aaya jahan ki unhein khabar na thi (26)

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ ۗ
قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

phir qiyamat ke din unhein ruswa karega aur farmayega kahan hain mere wo shareek jin mein tum

jhagadte the ilm waale kahenge aaj saari ruswai aur burai kafiro par hai (27)

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ
سُوءٍ طَبْلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

wo ke firishte unki jaan nikalte hain is haal par ke wo apna bura kar rahe the ab salah daalenge ke hum to kuchh burai na karte the haan kyun nahin beshak allah khoob jaanta hai jo tumhare kotak the (28)

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خُلْدًا فِيهَا فَكَلِمَاتٌ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾

ab jahannam ke darwazo mein jaaao ke humesha us mein raho to kya hi bura thikana maghrooro ka (29)

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا طِلِّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةً طَوْلِدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ طَوْلِنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾

aur dar waalo se kaha gaya tumhare rab ne kya utara bole khoobi jinhone is dunya mein bhalai ki unke liye bhalai hai aur beshak pichhla ghar sabse behtar aur zaroor kya hi achha ghar parhezgaro ka (30)

جَدَّتْ عَدْنٌ يَدُ خُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ طَكَذَلِكَ
يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿٣١﴾

basne ke baagh jin mein jayenge un ke niche nehrein rawaan unhein wahan milega jo chahein allah aisa hi sila deta hai parhezgaro ko (31)

الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾

wo jin ki jaan nikaalte hain firishte suthre pan mein ye
kehte hue ke salamati ho tum par jannat mein jaao
badla apne kiye ka (32)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ رَبِّكَ ۗ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٢﴾

kaahe ke intezar mein hain magar iske ke firishte un
par aayein ya tumhare rab ka azaab aaye un se aglo ne
bhi aisa hi kiya aur allah ne un par kuchh zulm na kiya
haan wo khud hi apni jaano par zulm karte the (33)

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾

to unki buri kamaiya un par padi aur unhein gher liya
usne jis par hanste the (34)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَ
لَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ فَهَلْ عَلَى
الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٣٤﴾

aur mushrik bole allah chahta to uske siwa kuchh na
pujte na hum aur na humare baap dada aur na usse
juda ho kar koi cheez haraam thehrate aisa hi unse
aglo ne kiya to rasoolo par kya hai magar saaf
pahuncha dena (35)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَنْ
هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۗ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾

aur beshak har ummat mein se hum ne ek rasool bheja ke allah ko pujo aur shaitan se bacho to un mein kisi ko allah ne raah dikhai aur kisi par gumrahi theek utri to zameen mein chal phir kar dekho kaisa anjaam hua jhutlane waalo ka (36)

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٣٦﴾
agar tum unki hidayat ki hirs karo to beshak allah hidayat nahin deta jise gumrah kare aur inka koi madadgar nahin (37)

وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمُوتٍ طَبْلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا ۚ
لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾

aur unhone allah ki qasam khai apne halaf mein hadd ki koshish se ke allah murde na uthayega haan kyun nahin sachha waada uske zimme par lekin aksar log nahin jaante (38)

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾
isliye ke unhein saaf bata de jis baat mein jhagadte the aur isliye ke kafir jaan lein ke wo jhote the (39)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٠﴾
jo chees hum chahein usse humara farmana yahi hota hai ke hum kahein ho jaa wo fauran ho jaati hai (40)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلَا جُزْ
الْآخِرَةَ أَكْبَرَ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

aur jinhone allah ki raah mein apne ghar baar chhode mazloom ho kar zaroor hum unhein dunya mein achhi

jagah denge aur beshak aakhirat ka sawaab bahut
bada hai kisi tarah log jaante (41)

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤١﴾

wo jinhone sabr kiya aur apne rab hi par bharosa karte
hain (42)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَاءَ لَوْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

aur humne tumse pehle na bheje magar mard jin ki
taraf hum wahih karte to aye logo ilm waalo se puchho
agar tumhein ilm nahin (43)

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

raushan daleelein aur kitabein le kar aur aye mahboob
humne tumhari taraf ye yadgaar utari ke tum logon se
bayaan kar do jo unki taraf utra aur kahin wo dhyaan
karein (44)

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾

to kya jo log bure makar karte hain isse nahin darte ke
allah unhein zameen mein dhansa de ya unhein wahan
se azaab aaye jahan se unhein khabar na ho (45)

أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٦﴾

ya unhein chalte phirte pakad le ke wo thaka nahin
sakte (46)

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٥٠﴾

ya unhein nuqsan dete giraftar kar le beshak tumhara rab nihayat meharban reham waala hai (47)

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلُّهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ

سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دُخِرُونَ ﴿٥١﴾

aur kya unhone na dekha ke jo cheez allah ne banai hai uski parchhaiya dahine aur baayein jhukti hain allah ko sajda karti aur wo uske huzoor zaleel hain (48)

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا

يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٢﴾

aur allah hi ko sajda karte hain jo kuchh aasmano aur jo kuchh zameen mein chalne waala hai aur firishte aur wo ghuroor nahin karte (49)

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٣﴾

apne upar apne rab ka khauf karte hain aur wahi karte hain jo unhein hukm ho (50-sajda)

ye aayate sajda hai

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْئِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿٥٤﴾

aur allah ne farmaya do khuda na thehrao wo to ek hi mabood ha to mujhi se daro (51)

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاٰصْبًا ۗ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٥﴾

aur usi ka hai jo kuchh aasmano aur zameen mein hai aur usi ki farmanbardari lazim hai to kya allah ke siwa kisi dusre se daroge (52)

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٣﴾

aur tumhare paas jo nemat hai sab allah ki taraf se hai phir jab tumhein takleefein pahunchti hai to usi ki taraf panaah le jaate ho (53)

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾

phir wo jab tum se burai taal deta hai to tum mein ek giroh apne rab ka shareek thehrane lagta hai (54)

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَعْتُوا نَفْسَ مَا تَكْفُرُونَ ﴿٥٥﴾

ke humari di hui nemato ki nashukri karein to kuchh barat lo ke anqareeb jaan jaoge (55)

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۗ تَاللَّهِ لَتَسْتَلْنَ عَمَّا كُنْتُمْ

تَفْتَرُونَ ﴿٥٦﴾

aur anjani cheezo ke liye humari di hui rozi mein se hissa muqarrar karte hain khuda ki qasam tumse zaroor sawal hona hai jo kuchh jhoot bandhte the (56)

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ ۗ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٧﴾

aur allah ke liye betiya thehrate hain paaki hai usko aur apne liye jo apna jee chahta hai (57)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾

aur jab un mein kisi ko beti hone ki khushkhabri di jaati hai to din bhar uska moonh kaala rehta hai aur wo ghussa khaata hai (58)

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۗ أَيُّسِرُّهُ عَلَىٰ هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ

أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

logon se chhupta phirta hai us basharat ki burai ke sabab kya use zillat ke saath rakhega ya use mitti mein daba dega are bahut hi bura hukm lagate hain (59)

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿٥٩﴾

jo aakhirat par imaan nahin laate unhi ka bura haal hai aur allah ki shaan sabse buland aur wahi izzat wa hikmat waala hai (60)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَا لَكِن يُؤْخِرُ هُمْ إِلَىٰ

أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٦٠﴾

aur agar allah logon ko unke zulm par giraft karta to zameen par koi chalne waala nahin chhodta lekin unhein thehraye waade tak mohlat deta hai phir jab unka waada aayega na ek ghadi pichhe hatenge na aage badhein (61)

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۗ لَا

جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿٦١﴾

aur allah ke liye wo thehrate hain jo apne liye nagawar hai aur unki zubanein jhooto kehti hain ke unke liye bhalai hai to aap hi hua ke uske liye aag hai aur wo hadd se guzare hue hain (62)

تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَ لِيَهُمْ

الْيَوْمَ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

khuda ki qasam humne tumse pehle kitni ummato ki

taraf rasool bheje to shaitan ne unke kotak unki aankho mein bhale kar dikhaye to aaj wahi unka rafeeq hai aur unke liye dardnak azaab hai (63)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٣﴾

aur humne tum par ye kitab na utari magar isliye ke tum logon par raushan kar do jis baat mein ikhtelaf karein aur hidayat aur rahmat imaan waalo ke liye (64)

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٤﴾

aur allah ne aasman se paani utara to usse zameen ko zinda kar diya uske mare piche beshak is mein nishani hai un ko jo kaan rakhte hain (65)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا
خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ بَيْنَ ﴿٦٥﴾

aur beshak tumhare liye chaupayo mein nigah haasil hone ki jagah hai hum tumhein pilaate hain us cheez mein se jo unke pet mein hai gobar aur khoon ke beech mein se khalis doodh gale se sehal utarta peene waalo ke liye (66)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾

aur khajoor aur angoor ke phalo mein se ke usse nabeez banate ho aur achha rizq beshak us mein

nishani hai aql waalo ko (67)

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

يَعْرِشُونَ ﴿٦٧﴾

aur tumhare rab ne shehad ki makkhi ko ilhaam kiya ke pahado mein ghar bana aur darakhto mein aur chhatto mein (68)

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۗ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

phir har qism ke phal mein se kha aur apne rab ki raahein chal ke tere liye narm wa aasan hain us ke pet se ek peene ki cheez rang birang nikalti hai jis mein logon ki tandrusti hai beshak is mein nishani hai dhyaan karne waalo ko (69)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۗ وَمِنكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ

عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

aur allah ne tumhein paida kiya phir tumhari jaan qabz karega aur tum mein koi sabse naqis umr ki taraf phera jaata hai ke janne ke baad kuchh na jaane beshak allah sab kuchh jaanta sab kuchh kar sakta hai (70)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

aur allah ne tum mein ek ko dusre par rizq mein badai di to jinhein badai di hai wo apna rizq apne bandi

ghulamo ko na pher denge ke wo sab us mein barabar ho jaayein to kya allah ki nemat se makr karte hain (71)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ بَنِينَ وَ
حَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ۝

aur allah ne tumhare liye tumhari jins se auratein banai aur tumhare liye tumhari aurato se bete aur pote aur nawase paida kiye aur tumhein suthri cheezo se rozi di to kya jhooti baat par yaqeen laate hain aur allah ke fazl se munkir hote hain (72)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا
يَسْتَطِيعُونَ ۝

aur allah ke siwa aiso ko pujte hain jo unhein aasman aur zameen se kuchh bhi rozi dene ka ikhteyar nahin rakhte na kuchh kar sakte hain (73)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

to allah ke liye manind na thehrao beshak allah jaanta hai aur tum nahin jaante (74)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ
يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۝ هَلْ يَسْتَوُونَ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۝ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

allah ne ek kahawat bayaan farmai ek banda hai dusre ki milk aap kuchh maqdoor nahin rakhta aur ek wo jise humne apni taraf se achhi rozi ata farmai to wo us mein se kharch karta hai chhupe aur zahir kya wo

barabar ho jayenge sab khubiya allah ko hain balki un mein aksar ko khabar nahin (75)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۖ
أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٥﴾

aur allah ne kahawat bayaan farmai do mard ek goonga jo kuchh kaam nahin kar sakta aur wo apne aaqa par bojh hai jidhar bheje kuchh bhalai na laaye kya barabar ho jayega ye aur wo jo insaaf ka hukm karta hai aur wo seedhi raah par hai (76)

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٦﴾

aur allah hi ke liye hain aasmani aur zameen ki chhupi cheezein aur qiyamat ka muamla nahin magar jaise ek palak ka maarna balki is se bhi qareeb beshak allah sab kuchh kar sakta hai (77)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ
الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾

aur allah ne tumhein tumhari maaon ke pet se paida kiya ke kuchh na jaante the aur tumhein kaan aur aankh aur dil diye ke tum ehsan maano (78)

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ ۗ مَا يُنْسِكُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

kya unhone parinde na dekhe hukm ke baandhe

aasman ki fiza mein unhein koi nahin rokta siwa khuda ke beshak is mein nishaniya hain imaan waalo ko (79)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا
تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۚ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
أَثْقَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٧٩﴾

aur allah ne tumhein ghar diye basne ko aur tumhare liye chaupayo ki khaalo se kuchh ghar banaye jo tumhein halke padte hain tumhare safar ke din aur manzilo par theharne ke din aur unki oon aur babri aur baalo se kuchh girasti ka samaan aur baratne ki cheezein ek waqt tak (80)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْهَا خَلْقَ ظِلَالٍ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ
سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

aur allah ne tumhein apni banai hui cheezo se saaye diye aur tumhare liye pahado mein chhupne ki jagah banai aur tumhare liye kuchh pehnawe ke ladai mein tumhari hifazat karein yunhi apni nemat tun par poori karta hai ke tum farmaan maano (81)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٨١﴾

phir agar wo moonh pherein to aye mahboob tum par nahin magar saaf pahuncha dena (82)

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْفَرُوا ۚ أُولَٰئِكَ الْأَكْفَرُونَ ﴿٨٢﴾

allah ki nemat pehchante hain phir us se munkir hote

hain aur un mein aksar kafir hain (83)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٨٣﴾

aur jis din hum uthayenge har ummat mein se ek gawah phir kafiro ko na ijazat ho na wo manaye jaayein

(84)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٨٤﴾

aur zulm karne waale jab azaab dekhenge usi waqt se na wo un par se halka ho na unhein mohlat mile (85)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا

مِنْ دُونِكَ ۚ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٨٥﴾

aur shak karne waale jab apne shareeko ko dekhenge kahenge aye humare rab ye hain humare shareek ke hum tere siwa pujte the to wo un par baat phekenge ke tum beshak jhoote ho (86)

وَأَلْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٨٦﴾

aur us din allah ki taraf aajizi se girenge aur unse gum ho jayengi jo banawatein karte the (87)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا

يُفْسِدُونَ ﴿٨٧﴾

jinhone kufr kiya aur allah ki raah se roka humne azaab par azaab badhaya badla unke fasaad ka (88)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى

هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

aur jis din hum giroh mein ek gawah unhi mein se uthayenge un par gawahi de aur aye mahboob tumhein un sab par shahid bana kar layenge aur humne tum par ye quran utara ke har cheez ka raushan bayaan aur hidayat aur rahmat aur basharat musalmano ko (89)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

beshak allah hukm farmata hai insaf aur neki aur rishtadaro ke dene ka aur mana farmata hai be hayai aur buri baat aur sarkashi se tumhein naseehat farmata hai ke tum dhyaan karo (90)

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

aur alkah ka ahad poora karo jab qaul bandho aur qasmein mazboot kar ke na todo aur tum allah ko apne upar zaamin kar chuke ho beshak allah tumhare kaam jaanta hai (91)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَّضُوا عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۗ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

aur us aurat ki tarah na ho jisne apna soot mazbooti ke baad reza reza kar ke tod diya apni qasmein aapas

mein ek be asal bahana batane ho ke kahin ek giroh
dusre giroh se zyada na ho allah to us se tumhein
aazmata hai aur zaroor tum par saaf zaahir kar dega
qiyamat ke din jis baat mein jhagadte the (92)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ
لَتَسْعَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾

aur allah chahta to tum ko ek ummat karta lekin allah
gumrah karta hai jise chahe aur raah deta hai jise
chahe aur zaroor tumse tumhare kaam puchhe
jayenge (93)

وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِنَا كَمَا دَخَلْنَا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا
صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٣﴾

aur apni qasmein aapas mein be asal bahana na bana
lo ke kahin koi paaon jamne ke baad lagzish na kare
aur tumhein burai chakhni ho badla iska ke allah ki
raah se rokthe the aur tumhein bada azaab ho (94)

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٩٤﴾

aur allah ke ahad par thode daam mol na lo beshak wo
jo allah ke paas hai tumhare liye behtar hai agar tum
jaante ho (95)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

jo tumhare paas hai ho chukega aur jo allah ke paas

hai humesha rehne waala hai aur zaroor hum sabr karne waalo ko unka wo sila denge jo unke sab se achhe kaam ke qabil ho (96)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾

jo achha kaam kare mard ho ya aurat aur ho musalman to zaroor hum use achhi zindagi jilayenge aur zaroor unhein unka neg denge jo unke sabse behtar kaam ke laaiq ho (97)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾

to jab tum quran padho to allah ki panah maango shaitan mardood se (98)

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾

beshak us ka koi qaabu un par nahin jo imaan laaye aur apne rab hi par bharosa rakhte hain (99)

إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

uska qabu to unhi par hai jo usse dosti karte hain aur use shareek thehrate hain (100)

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۗ طٰبَ لِمَنْ لَا يَخْتُلِفُ لِحُكْمِ اللَّهِ وَلَا يَتَّبِعُ أَمْرًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ مَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ يَحْتَفِظُونَ ﴿١٠١﴾

aur jab hum ek aayat ki jagah dusri aayat badlein aur allah khoob janta hai jo utarta hai kafir kahin tum to dil se bana laate ho balki un mein aksar ko ilm nahin (101)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾

tum farmao use pakeezgi ki rooh ne utara tumhare rab ki taraf se theek theek ke usse imaan waalo ko saabit qadam kare aur hidayat aur basharat musalmano ko (102)

وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ۖ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِي ۗ
وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٠٣﴾

aur beshak hum jaante hain ke wo kehte hain ye to koi aadmi sikhata hai jiski taraf dhaalte hain uski zubaan ajami hai aur ye raushan arabi zubaan (103)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾
beshak wo jo allah ki aayato par imaan nahin laate allah unhein raah nahin deta ur unke liye dardnak azaab hai (104)

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿١٠٥﴾
jhoot bohtan wahi bandhte hain jo allah ki aayato par imaan nahin rakhte aur wahi jhote hain (105)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ ۖ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا ۖ فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

jo imaan la kar allah ka munkir ho siwa uske jo majboor kiya jaaye aur uska dil imaan par jama hua jo haan wo jo dil khol kar kafir ho un par allah ka ghazab hai aur unko bada azaab hai (106)

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۗ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾

ye isliye ke unhone dunya ki zindagi aakhirat se pyaari jaani aur isliye ke allah kafiro ko raah nahin deta (107)

أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْغٰفِلُونَ ﴿١٠٨﴾

ye hain wo jinke dil aur kaan aur aankho par allah ne muhar kar di hai aur wahi ghaflat mein pade hain (108)

لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٠٩﴾

aap hu hua ke aakhirat mein wahi kharaab hain (109)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثَمَّ جُهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ

بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾

phir beshak tumhara rab unke liye jinhone apne ghar chhode baad iske ke sataye gaye phir unhone jihad kiya aur sabir rahe beshak tumhara rab uske baad zaroor bakhshne waala hai meharban (110)

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا

يُظَلَمُونَ ﴿١١١﴾

jis din har jaan apni hi taraf jhagadi aayegi aur har jaan ko uska kiya hua pura bhar diya jayega aur un par zulm na hoga (111)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ أٰمِنَةً مُّطْمَئِنِّتَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

فَكَفَّرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذٰقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

aur allah ne kahawat bayaan farmai ek basti ke amaan

wa itmenan se thi har taraf se us ki rozi kasrat se aati to wo allah ki nemato ki nashukri karne lagi to allah ne ye saza chakai ke use bhook aur dar ka pahnawa pahnaya badla unke kiye ka (112)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٢﴾

aur beshak unke paas unhi mein se ek rasool tashreef laaya to unhone use jhutlaya to unhein azaab ne pakda aur wo be insaf the (113)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ

تَعْبُدُونَ ﴿١١٣﴾

to allah ki di hui rozi halal pakiza khao aur allah ki nemat ka shukr karo agar tum use pujte ho (114)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِيُغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

tum par to yahi haraam kiya hai murdar aur khoon aur suwar ka gosht aur wo jis ke zibah karte waqt ghaire khuda ka naam pukara gaya phir jo lachaar jo na khwahish karta aur na hadd se badhta to beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (115)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ ۖ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

aur na kaho use jo tumhari zubanein jhoot bayaan karti hain ye halaal hai aur ye haraam hai ke allah par jhoot baandho beshak jo allah par jhoot baandhte haib

unka bhala na hoga (116)

مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٦﴾

thoda baratna aur unke liye dardnak azaab (117)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾

aur khaas yahoodiyo par humne haraam farmai wo cheezein jo pehle tumhein sunai aur humne un par zulm na kiya haan wahi apni jaano par zulm karte the

(118)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٩﴾

phir beshak tumhara rab unke liye jo nadaani se burai kar baithein phir uske baad tauba karein aur sanwar jaayein beshak tumhara rab uske baad zaroor bakhshne waala meharbaan hai (119)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾

beshak ibrahim ek imam tha allah ka farmabardar aur sab se juda aur mushrik na tha (120)

شَاكِرًا لِأَنْعَامِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾

uske ehsano par shukr karne waala allah ne use chun liya aur use seedhi raah dikhai (121)

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾

aur humne use dunya mein bhalai di aur beshak wo aakhirat mein shayane qurb hai (122)

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

phir humne tumhein wahi bheji ke deene ibrahim ki pairwi karo jo har batil se alag tha aur mushrik na tha
(123)

إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

hafta to unhi par rakha gaya tha jo us mein mukhtalif ho gaye aur beshak tumhara rab qiyamat ke din un mein faisla kar dega jis baat mein ikhtelaf karte the
(124)

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

apne rab ki raah ki taraf bulao pakki tadbeer aur achhi nasehat se aur unse us tariqa par bahas karo jo sabse behtar ho beshak tumhara rab khoob jaanta hai jo iski raah se behka wo khoob jaanta hai raah waalo ko (125)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ لَهُ خَيْرٌ

لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

aur agar tum saza do to waisi hi saza do jaisi tumhein takleef pahunchai thi aur agar tum sabt karo to beshak sabr waalo ko sab se achha (126)

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾

aur aye mahboob tum sabr karo tumhara sabr allah hi ki taufiq se hai aur unka gham na khao aur unke

farebo se dil tang na ho (127)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٧﴾

beshak allah unke saath hai jo darte hain aur jo nekiya karte hain (128)

Pandrahwa Paarah

Surah Bani Israyeel (Al Asra)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban raham wala

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١﴾

paaki hai use jo raato raat apne bande ko le gaya masjide haraam se masjide aqsa tak jiske girdagird humne barkat rakhi, ke hum use apni azeem nishaniyan dikhayen, beshak wo sunta dekhta hai.(1)

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ آلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي

وَكَيْلًا ۚ

aur humne moosa ko kitab ataa farmayi aur use bani israel ke liye hidayat kiya ke mere siwa kisi ko karsaz na thehao.(2)

ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿٢﴾

ay unki aulad jinko humne nooh ke sath sawar kiya beshak wo bada shukr guzar banda tha.(3)

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا

كَبِيرًا ۝

aur humne bani israel ko kitab me wahee bheji ke zaroor tum me do baar fasaad machaoge aur zaroor bada guroor karoge.(4)

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ

الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝

fir jab unme pehli bar ka wada aaya humne tum par apne kuchh bande bheje sakht ladai wale to wo sheharo ke andar tumhari talash ko ghuse aur ye ek wada tha jise pura hona.(5)

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُم أَكْثَرَ

نَفِيرًا ۝

fir humne un par ulat kar tumhara hamla kar diya aur tum ko maalo aur beto se madad di aur tumhara jattha badha diya.(6)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ

لِيَسْؤَءَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَبَدُلُوا مَسْجِدَ كَيْبًا دَلُورًا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَبُذِّرُوا مَا عُلُوا

تَشْيِيرًا ۝

agar tum bhalai karoge apna bhala karoge aur agar bura karoge to apna, fir jab dusri baar ka wada aaya ke dushman tumhara muh bigaad den aur masjid me

dakhil hon jaise pehli baar dakhil hue the aur aur jis cheez ka qaboo payen tabaah kar ke barbaad kar den.(7)

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَزَحِّكُم ۖ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ

حَصِيرًا ①

qareeb hai ke tumhara rabb tum par raham kare aur agar tum fir shararat karo to hum fir azaab karenge aur humne jahannam ko kafiron ka qaid khana banaya hai.(8)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ②

beshak ye qur'an wo raah dikhata hai jo sabse seedhi hai aur khushi sunata hai imaan walon ko jo acche kaam karen ke unke liye bada sawab hai.(9)

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَغْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ③

aur ye ke jo aakherat par imaan nahi late humne unke liye dardnaak azaab taiyar kar rakha hai.(10)

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ④

aur aadami burai ki dua karta hai jaise bhalai mangta hai aur aasmi bada jaldbaaz hai.(11)

وَجَعَلْنَا الْبَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ الْبَيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ

فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ⑤

aur humne raat aur din ko do nishaniyan banaya to raat ki nishaniyan miti hui rakhi aur din ki nishani dikhane wali ki, ke apne rabb ka fazl talash karo aur barson ki ginti aur hisab jano aur hume har cheez khoob juda juda zahir farma di.(12)

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
مَنْشُورًا ﴿١٢﴾

aur har insan ki qismat humne uske gale se laga di hai aur uske liye qiyamat ke din ek nawishta nikalenge jise khula hua payega.(13)

اقْرَأْ كِتَابَكَ ۖ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٣﴾

farmaya jayega ke apna nama padh aaj tu khud hi apna hisab karne ko bahut hai.(14)

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ
وِازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٤﴾

jo raah par aaya wo apne hi bhale ko raah par aaya aur ko behka to apne hi bure ko behka aur koi bojh uthane wali jaan dusre ka bojh na uthayegi aur hum azaab karne wale nahin jab tak rasool na bhej len.(15)

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ
فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا ﴿١٥﴾

aur jab hum kisi basti ko halaak karna chahte hain uske khush-haalo par ahkaam bhejte hain fir wo usme be-hurmati karte hain to us par baat poori ho jati hai to

hum use tabaah karke barbaad kar dete hain.(16)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

بَصِيرًا ﴿١٦﴾

aur humne kitni hi sangate nooh ke baad halaak kar di aur tumhara rabb kafi hai apne bando ke gunaho se khabardar dekhne wala.(17)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ

يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٧﴾

jo ye jaldi wali chahe hum use usme jald de den jo chahe jise chahe fir uske liye jahannam kar den ke us mein jaye mazammat kiya hua dhakke khaata.(18)

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

مَشْكُورًا ﴿١٨﴾

aur jo aakherat chahe aur uski si koshish kare aur ho imaan wala to unhi ki koshish thikane lagi. (19)

كَلَّا تَبَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۗ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿١٩﴾

hum sabko madad dete hain unko bhi aur unko bhi tumhare rabb ki ataa se aur tumhare rabb ki ataa par rok nahi. (20)

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢٠﴾

dekhi humne unme ek ko ek par kaisi badaai di aur beshak aakherat darjo me sabse badi aur fazl me sabse aala hai. (21)

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعَدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ﴿٢١﴾

ay sunne wale allah ke sath dusra khuda na thehra ke tu baith rahega mazammam kiya jata bekas. (22)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

aur tumhare rabb ne hukm farmaya ke uske siwa kisi ko na poojo aur maa baap ke sath accha sulook karo, agar tere samne unme ek ya dono budhape ko pahuch jaye to unse hoon na kehna aur unhen na jhidakna aur usne tazeem ki baat kehna. (23)

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

aur unke liye aajizi ka baazu bichha narm dili se arz kar ke ay mere rabb, tu in dono par raham kar jaisa ke in dono ne mujhe chhutpan me pala. (24)

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِنَّ تَكُونُوا صَادِقِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ وَأَبْنَيْ غَفُورًا ﴿٢٥﴾

tumhara rabb khoob janta hai jo tumhare dilon me hai agar tum laaiq hue to beshak wo tauba karne walon ko bakhshne wala hai. (25)

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

aur rishtedaro ko unka haqq de aur miskeen aur musafir ko aur fizool na udaa. (26)

إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

beshak udane wale shaitan ke bhai hain aur shaitan aone rabb ka bada nashukra hai. (27)

وَأَمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

aur agar tu unse muh fere apne rabb ki rahmat ke intezar me jiski ummeed hai to unse aasan baat keh.

(28)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مَحْسُورًا ﴿٢٨﴾

aur apna hath apni gardan se bandha hua na rakh aur na poora khol de ke tu baith rahe malamat kiya hua thaka hua. (29)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾

beshak tunhara rabb jise chahe rizq kushada deta aur kasta hai beshak wo apne bando ko khoob janta dekhta hai. (30)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ لَّحُنَّ نَزَرُوهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۗ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ

خَطَأً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

aur apni aulaad ko qatl na karo muflisi ke darr se hum unhen bhi rozi denge aur tumhen bhi, beshak unka qatl badi khata hai. (31)

وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْقَ إِنَّمَا كَانَ فَاخِشَةً ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

aur badkari ke paas na jao beshak wo behayai hai aur bahut hi buri raah. (32)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

aur koi jaan jiski hurmat allah ne rakhi hai nahaq na maaro aur nahaq mara jaye to beshak humne uske

waris ko qaboo diya hai to wo qatl me hadd se na badhe zaroor uski madad honi hai.(33)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ
إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٣﴾

aur yateem ke maal ke paas na jao magar us raah se jo sabse bhali hai, yahan tak ke wo apni jawani ko pahuche aur ahad poora karo beshak ahad se sawal hona hai.(34)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٤﴾

aur naapo to poora naapo aur barabar tarazu se tauilo, ye behtar hai aur iska anjam accha hai.(35)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا ﴿٣٥﴾

aur us baat ke peechhe na pad jiska tujhe ilm nahi beshak kaan aur aankh aur dil in sabse sawal hona hai.(36)

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٦﴾

aur zameen me itrata na chal beshak tu hargiz zameen na cheer dalega aur hargiz bulandi me pahado ko na pahuchega.(37)

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٧﴾

ye jo kuchh guzra unme ki buri baat tere rabb ko napasand hai.(38)

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْتَلَىٰ فِي
جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٩﴾

ye un wahiyon me se hai jo tumhare rabb ne tumhari taraf bheji hikmat ki baaten aur ay sunne wale allah ke sath dusra khuda na thehra ke tu jahannam me feka jayega ta'ana pata dhakke khata.(39)

أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا ۗ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا
عَظِيمًا ﴿٤٠﴾

kya tumhare rabb ne tum ko bete chun diye aur apne liye firishte se betiyan banayi beshak tum bada bol bolte ho.(40)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا ۗ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤١﴾

aur beshak humne is qur'an me tarah tarah se bayan farmaya ke wo samjhe aur isse unhen nahi badhti magar nafrat.(41)

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَغُوا إِلَيْ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

tum farmao agar uske sath aur khuda hote jaisa ye bakte hain jab to wo raah ke malik ki taraf koi raah dhoondh nikalte.(42)

سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿٤٣﴾

use paaki aur bartari unki baaton se badi bartari.(43)

تَسْبِيْحٌ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبِيْحُ
بِحَمْدِهِ ۗ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا عَفُوْرًا ﴿٤٤﴾

uski paaki bolte hain saaton(7) aasman aur zameen aur jo koi unke hai aur koi cheez nahi wo use sarahati hui uski paaki na bole haan tum unki tasbeeh nahi samajhte beshak wo hilm wala bakhshne wala hai.(44)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا

مَسْتُورًا ﴿٤٤﴾

aur ay mehboob tum ne qur'an padha humne tum par aur unme ke aakherat par imaan nahi laate ek chhupa hua parda kar diya.(45)

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۖ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي

الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ آذَانِهِمْ نُفُورًا ﴿٤٥﴾

aur humne unke dilon par gilaaf daal diye hai ke use na samjhe aur unke kaano me tent aur jab tum qur'an me apne akele rabb ki yaad karte ho wo peeth fer kar bhagte hain nafrat karte.(46)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَعِينُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ

الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٤٦﴾

hum khoob jante hain jis liye wo sunte hain, jab tumhari taraf kaan lagate hain aur jab aapas me mashwara karte hain jab ke zalim kehte hain tum peechhe nahi chale magar ek aise mard ke jis par jaadu hua.(47)

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٤٧﴾

dekho unhone tumhen kaisi tashbeehe di to gumraah

hue ke raah nahi pa sakte.(48)

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٤٨﴾

aur bolo kya jab hum haddiyan aur reza reza ho jayenge kya sachmuch naye ban kar uthenge (49)

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حديدًا ﴿٤٩﴾

tum farmao ke patthar ya loha ho jao.(50)

أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ

قَرِيبًا ﴿٥٠﴾

ya aur koi makhlooq jo tumhare khayal mein badi ho to ab kehenge humein kaun ab phir paida karega tum farmao wahi jisne tumhein pehli baar paida kiya tha to ab tumhari taraf maskhargi se sar hila kar kahenge ye kab hai tum farmao shayad nazdeek hi ho (51)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٥١﴾

jis din wo tumhein bulayega to tum uski hamd karte chale aaoge aur samjhoge ke na rahe the magar thoda (52)

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ

كَانَ لِلنَّاسِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٢﴾

aur mere bando se farmao wo baat kahein jo sabse achhi ho beshak shaitan unke aapas mein fasaad daal deta hai beshak shaitan aadmi ka khula dushman hai

(53)

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ۖ إِنَّ يَشَائِرَ حَبْكُمُ أَوْ إِنَّ يَشَائِعِدَّ بِكُمْ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ

وَكَيْلًا ﴿٥٤﴾

tumhara rab tumhein khoob jaanta hai wo chahe to tum par reham kare ya chahe to tumhein azaab kare aur humne tumko un par kadoda bana kar na bheja

(54)

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَ

أَتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ﴿٥٥﴾

aur tumhara rab khoob jaanta hai jo koi aasmano aur zameen mein hain aur beshak humne nabiyon mein ek ko ek par badai di aur dawood ko zuboora ata farmai

(55)

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِّنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا

تَخْوِيلًا ﴿٥٦﴾

tum farmao pukaro unhein jin ko allah ke siwa gumaan karte ho to wo ikhteyar nahin rakhte tum se takleef door karne aur na pher dene ka (56)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ

وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۖ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾

wo maqbool bande jinhein ye kafir poojte hain wo aap hi apne rab ki taraf wasila dhoondte hain ke un mein kaun zyada muqarrab hai uski rahmat ki ummeed rakhte aur uske azaab se darte hain beshak tumhare rab ka azaab dar ki cheez hai (57)

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ۗ
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٥٨﴾

aur koi basti nahin magar ye ke hum use roze qiyamat se pehle nest kar denge ya use sakht azaab denge ye kitab mein likha hua hai (58)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأُولُونَ ۗ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۗ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴿٥٩﴾

aur hum aisi nishaniya bhejne se yun hi baaz rahe ke unhein aglo ne jhutlaya aur humne samood ko naaqa diya aankhein kholne ko to unhone us par zulm kiya aur hum aisi nishaniya nahin bhejte magar darane ko (59)

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ۗ وَمَا جَعَلْنَا الرُّعْيَا الَّتِي آرَبُنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ۗ وَنُحِوُّهُمْ فَأَيُّ زَيْدٍ هُمْ إِلَّا طُغْيَانًا
كَبِيرًا ﴿٦٠﴾

aur jab humne tumse farmaya ke sab log tumhare rab ke qaabu hain aur humne na kiya wo dikhawa jo tumhein dikhaya tha magar logon ki aazmaish ko aur wo ped jis par quran mein lanat hai aur hum unhein darate hain to unhein nahin badhti magar badi sarkashi (60)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِ اسْجُدْ وَالسُّجُودَ إِلَّا الْإِبْلِيسَ ۗ قَالَ أَسْجُدْ لِمَنْ
خَلَقْتُ طِينًا ﴿٦١﴾

aur yaad karo jab humne firishto ko hukm diya ke

adam ko sajda karo to un sab ne sajda kiya siwa iblees ke bola kya main use sajda karoon jise tune mitti se banaya (61)

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْت عَلَىٰ لَدِينِ أَخْرَجْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ
ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦١﴾

bola dekh to jo ye tune mujhse muazzaz rakha agar tune mujhe qiyamat tak mohlat di to zaroor main uski awlaad ko pees daalunga magar thoda (62)

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿٦٢﴾

farmaya door ho to un mein jo teri pairwi karega to beshak tum sab ka badla jahannam hai bharpoor saza (63)

وَاسْتَفْزِرُ مِنْ أَسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْتَلَبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَ
شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَهُمْ ۗ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٦٣﴾

aur diga de un mein se jis par qudrat paaye apni aawaz se aur un par laam bandh la apne sawaro aur apne pyado ka aur un ka saajhi ho maalo aur bachho mein aur unhein waada de aur shaitan unhein waada nahin deta magar fateb se (64)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٤﴾

beshak jo mere bande hain un par tera kuchh qaabu nahin aur tera rab kaafi hai kaam banane ko (65)

رَبُّكُمْ الَّذِي يُرِيحُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٦٥﴾

tumhara rab wo hai ke tumhare liye darya mein kashti rawaan karta hai ke tum uska fazl talash karo beshak wo tum par meharban hai (66)

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ ۚ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿٦٦﴾

aur jab darya mein tumhein musibat pahunchti hai to uske siwa jinhein pujte hain sab gum ho jaate hain phir jab wo tumhein khushki ki taraf najaat deta hai to moonh pher lete ho aur aadmi bada nashukra hai (67)

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً ﴿٦٧﴾

kya tum isse nidar hue ke wo khushki hi ka koi kinara tumhare saath dhansa de ya tum par pathrao bheje phir apna koi himayati na pao (68)

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۗ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٨﴾

ya isse nidar hue ke tumhein dobara darya mein le jaaye phir tum par jahaz todne waali aandhi bheje to tumko tumhare kufir ke sabab dubo de phir apne liye koi aisa na pao ke is par humara pichha kare (69)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٦٩﴾

aur beshak humne awlaade adam ko izzat di aur unko khushki aur tari mein sawaar kiya aur unko suthri

cheezein rozi di aur unko apni bahut makhlooq se afzal
kiya (70)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ۗ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِبَيِّنَاتٍ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ
كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

jis din hum har jama'at ko uske imam ke saath
bulayenge to jo apna naama dahine haath mein diya
gaya ye log apna naama padhenge aur taage bhar
unka haq na dabaya jayega (71)

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝

aur jo is zindagi mein andha ho wo aakhirat mein
andha hai aur bhi zyada gumrah (72)

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُوكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۗ وَإِذَا
لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ۝

aur wo to qareeb tha ke tumhein kuchh laghzhish dete
humari wahi se jo humne tum ko bheji ke tum humari
taraf kuchh aur nisbat kar do aur aisa hota to wo tum
ko apna gehra dost bana lete (73)

وَلَوْ لَا أَنْ تَبْتُلْنَاكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنَ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝

aur agar hum tumhein sabit qadam na rakhte to
qareeb tha ke tum un ki taraf kuchh thoda sa jhukte
(74)

إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

aur aisa hota to hum tum ko dooni umr aur do chand
maut ka maza dete phir tum humare muqabil apna koi
madadgar na paate (75)

وَأِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

aur beshak qareeb tha ke wo tumhein us zameen se dige dein ke tumhein usse baahar kar dein aur aisa hota to wo tumhare piche na theharte magar thoda

(76)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿٧٧﴾

dastoor unka jo humne tumse pehle rasool bheje aur tum humara qanoon badalta na paoge (77)

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ

كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

namaz qaaim rakho suraj dhalne se raat ki andheri tak aur subah ka quran beshak subah ke quran mein firishte hazir hote hain (78)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ^ط عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾

aur raat ke kuchh hissa mein tahajjud karo ye khaas tumhare liye zyada hai qareeb hai ke tumhein tumhara rab aisi jagah khada kare jahan sab tumhari hamd

karein (79)

وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ

سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ﴿٨٠﴾

aur yun arz karo ke aye mere rab mujhe sachhi tarah dakhil kar aur sachhi tarah bahar le ja aur mujhe apni taraf se madadgar ghalaba de (80)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۗ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

aur farmao ke haq aaya aur batil mit gaya beshak batil ko mitna hi tha (81)

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا ﴿٨٢﴾

aur hum quran mein utaarte hain wo cheez jo iman waalo ke liye shifa aur rahmat hai aur isse zalimo ko nuqsan hi badhta hai (82)

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُعُوسًا ﴿٨٣﴾

aur jab hum aadmi par ehsan karte hain moonh pher leta hai aur apni taraf door hat jaata hai aur jab use burai pahunche to na ummeed ho jaata hai (83)

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

tum farmao sab apne kende par kaam karte hain to tumhara rab khoob janta hai kaun zyada raah par hai (84)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۗ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

aur tum se rooh ko puchhte hain tum farmao rooh mere rab ke hukm se ek cheez hai aur tumhein ilm na mila magar thoda (85)

وَلَٰكِن شِئْنَا لَنذَهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ۗ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾

aur agar hum chahte to ye wahih jo humne tumhari taraf ki use le jaate phir tum koi na paate ke tumhare

liye humare huzoor is par wakalat karta (86)

إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٦﴾

magar tumhare rab ki rahmat beshak tum par uska bada fazl hai (87)

قُلْ لِيِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِبِئْسَلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ

بِئْسَلِهِ ۗ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾

tum farmao agar aadmi aur jinn sab is baat par muttafiq ho jaayein ke is quran ki manind le aayein to iska misl na la sakege agarche un mein ek dusre ka madadgar ho (88)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

aur beshak humne logon ke liye is quran mein har qism ki misl tarah tarah bayaan farmai to aksar aadmiyo ne na maana magar nashukr karna (89)

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٠﴾

aur bole ke hum hargiz tum par iman na layenge yahan tak ke tum humare liye zameen se koi chashma baha do (90)

أَوْ تَكُونُ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿٩١﴾

ya tumhare liye khajooro ya angooro ka koi baagh ho phir tum uske andar behti nehrein rawaan karo (91)

أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْكَ كَسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهُةٍ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾

ya tum hum par aasman gira do jaisa tumne kaha hai tukde tukde ya allah aur firishto ko zaamin le aao (92)

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرِفٍ أَوْ تَرْقِي فِي السَّمَاءِ ۗ وَلَنْ نُؤْمِنَ بِرِقِيكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ
عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٩٣﴾

ya tumhare ghar talai ghar ho ya tum aasman mein chadh jaao aur hum tumhare chadh jaane par bhi hargiz imaan na layenge jab tak hum par ek kitab na utaaro jo hum padhein tum farmao paaki hai mere rab ko main kaun hoon magar aadmi allah ka bheja hua
(93)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا
رَّسُولًا ﴿٩٤﴾

aur kis baat ne logon ko imaan laane se roka jab unke paas hidayat aai magar usi ne ke bole kya allah ne aadmi ko rasool bana kar bheja (94)

قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ مُطِئِينَ لَنَرْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا
رَّسُولًا ﴿٩٥﴾

tum farmao agar zameen mein firishte hote chain se chalte to un mein hum rasool bhi firishta utaarte (95)

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾

tum farmao allah bas hai gawah mere tumhare darmiyan beshak wo apne bando ko jaanta dekhta hai
(96)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۗ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَ
نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِّيًّا وَبُكْمًا وَصَبًّا ۗ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۗ طُكَّانًا
خَبَتْ رِذْنُهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾

aur jise allah raah de wahi raah par hai aur jise gumrah kare to unke liye uske siwa koi himayat waale na paoge aur hum unhein qiyamat ke din unke moonh ke bal uthayenge andhe aur goonge aur behre unka thikana jahannam hai jab kabhi bujhne par aayegi hum use aur bhadka denge (97)

ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَرَأَيْنَا

لَسْبُعُونَهُ نَحْنُ خُلُقًا جَدِيدًا ﴿٩٧﴾

ye unki saza hai is par ke unhone humari aayato se inkaar kiya aur bole kya jab hum haddiya aur reza reza ho jayenge to kya sach much hum naye ban kar uthaye jayenge (98)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ

جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ ۗ فَاذَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٨﴾

aur kya wo nahin dekhte ke wo allah jisne aasman aur zameen banaye un logon ki misl bana sakta hai aur usne unke liye ek miyaad thehra rakhi hai jis mein kuchh shubha nahin to zalim nahin maante be nashukri kiye (99)

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَبْلُغُونَ حَرْبَ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿٩٩﴾

tum farmai agar tum log mere rab ki rahmat ke khazano ke malik hote to unhein bhi rok rakhte is dar se ke kharch na ho jaayein aur aadmi bada kanjoos hai (100)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَسَّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ
فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

aur beshak humne moosa ko raushan nishaniya di to bani israyeel se puchho jab wo unke paas aaya to usse firaun ne kaha aye moosa mere khayal mein to tum par jadu hua (101)

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بِصَآئِرٍ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ
يُفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

yaqeenan to khoob jaanta hai unhein na utara magar aasmano aur zameen ke malik ne dil ki aankhein kholne waaliya aur mere gumaan mein to aye firaun tu zaroor halaak hone waala hai (102)

فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ بِهِمْ مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٣﴾

to us ne chaha ke un ko zameen se nikaal de to hum ne use aur uske saathiyo sab ko dubo diya (103)

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا
بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾

aur uske baad humne bani israyeel se farmaya us zameen mein baso phir jab aakhirat ka waada aayega hum tum sab ko ghaal mel le aayenge (104)

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

aur humne quran ko haq hi ke saath utara aur haq hi ke saath utra aur humne tumhein na bheja magar khushi aur dar sunata (105)

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿١٠٦﴾

aur quran humne juda juda kar ke utaara ke tum ise logon par thehar thehar kar padho aur humne ise batadreej reh reh kar utara (106)

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ

يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾

tum farmao ke tum log is par imaan laao ya na laao beshak wo jinhein iske utarne se pehle ilm mila jab un par padha jaata hai thudi ke bal sajda mein gir padte hain (107)

وَيَقُولُونَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾

aur kehte hain paaki hai humare rab ko beshak humare rab ka waada poora hona tha (108)

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَنْكَبُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

aur thudi ke bal girte hain rote hue aur ye quran unke dil ka jhukna badhata hai (109-sajda)

ye aayate sajda hai

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرُوا

بِصَلٰتِكَ وَلَا تَخَافَتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

tum farmao allah keh kar pukaro ya rahman keh kar jo keh kar pukaro sab usi ke achhe naam hain aur apni namaz na bahut aawaz se padho na bilkul aahista aur un dono ke beech mein rasta chaho (110)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ لِدَاوَلِّهِ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ

لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبْرَةٌ تُكْبِرُهَا ۝

aur yun kaho sab khoobiya allah ko jisne apne liye bachha ikhteyar na farmaya aur badshahi mein koi uska shareek nahin aur kamzori se koi uska himayati nahin aur uski badai bolne ko takbeer kaho (111)

Surah Kahaf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝

sab khoobiya'n allah ko jisne apne bande par kitab utri aur us mein aslan kuji na rakhi (1)

قِيَمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ

أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝

adal waali kitab ke allah ke sakht azaab se daraye aur imaan waalo ko jo nek kaam karein basharat de ke unke liye achha sawaab hai (2)

مَا كَثَبْنَا فِيهِ أَبَدًا ۝

jis mein humesha rahenge (3)

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝

aur unko daraye jo kehte hain ke allah ne apna koi bachha banaya (4)

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۗ إِنَّ
يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝

is baare mein na wo kuchh ilm rakhte hain na unke
baap dada kitna bada bol hai ke unke moonh se nikalta
hai nira jhoot keh rahe hain (5)

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۝

to kahin tum apni jaan par khel jaoge unke pichhe agar
wo is baat par imaan na laayein gham se (6)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝

beshak humne zameen ka singaar kiya jo kuchh is par
hai ke inhein aazmayein in mein kiske kaam behtar
hain (7)

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝

aur beshak jo kuchh is par hai ek din hum use patpar
maidan kar chhodenge (8)

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ۖ كَانُوا مِنَّا عَجَبًا ۝

kya tumhein maloom hua ke pahad ki kho aur jungle
ke kinare wale humari ek ajeeb nishani the (9)

إِذْ أَوْىءَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا

رَشَدًا ۝

jab un jawano ne ghaar mein panah li phir bole aye
humare rab humein apne paas se rahmat de aur
humare kaam mein humare liye raah yaabi ke samaan
kar (10)

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝

to humne us ghaar mein unke kaano par ginti ke kai
baras thapka (11)

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ۝

phir humne unhein jagaya ke dekhein do giroho mein
kaun unke theharne ki muddat zyada theek batata hai
(12)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۖ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝

hum unka theek theek haal tumhein sunayein wo
kuchh jawan the ke apne rab par imaan laaye aur
humne un ko hidayat badhai (13)

وَرَبُّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو مِنْ
دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۝

aur humne unke dilo ki dhaaras bandhai jab khade ho
kar bole ke humara rab wo hai jo aasman aur zameen
ka rab hai hum uske siwa kisi mabood ko na poojenge
aisa ho to humne zaroor had se guzri hui baat kahi (14)

هُؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۖ لَوْلَا يُأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ ۖ فَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

ye jo humari qaum hai usne allah ke siwa khuda bana
rakhe hain kyun nahin laate un par koi raushan sanad
to usse badh kar zalim kaun jo allah par jhoot bandhe
(15)

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ۝

aur jab tum unse aur jo kuchh wo allah ke siwa pujte hain sab se alag ho jao to ghaar mein panaah lo tumhara rab tumhare liye apni rahmat phaila dega aur tumhare kaam mein aasani ke samaan bana dega (16)

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَرُورٌ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ
ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ۗ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ۗ طَمَنُ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
وَ مَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

aur aye mahboob tum suraj ko dekhoge ke jab nikalta hai to unke ghaar se dahni taraf bach jaata hai aur jab doobta hai to unhein baai'n taraf kutra jaata hai halanki wo us ghaar ke khule maidan mein hain ye allah ki nishaniyo se hai jise allah raah de to wahi raah par aur jise gumrah kare to hargiz uska koi himayati raah dikhaane waala na paoge (17)

وَتَحْسَبُهُمْ آيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۗ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَ
كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ
مِنْهُمْ رُعْبًا ۝

aur tum unhein jaagta samjho aur wo sote hain aur hum unki dahini baai'n karwatein badalte hain aur unka kutta apni kalaiya phailaye hue hai ghaar ki chaukhat par aye sunne waale agar tu unhein jhaank kar dekhe to unse peeth pher kar bhage aur unse haibat mein bhar jaaye (18)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا
 لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۚ فَاْبَعَثُوا أَحَدَكُمْ
 بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ
 لِيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۝

aur yun hi humne unko jagaya ke aapas mein ek dusre se ahwaal puchhein un mein ek kehne waala bola tum yahan kitni der rahe kuchh bole ke ek din rahe ya din se kam dusre bole tumhara rab khoob jaanta hai jitna tum thehre to apne mein ek ko ye chandi ke kar shehar mein bhejo phir wo ghaur kare ke wahan kaunsa khana zyada suthra hai ke tumhare liye us mein se khane ko laaye aur chahiye ke narmi kare aur hargiz kisi ko tumhari ittela na de (19)

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا
 أَبَدًا ۝

beshak agar wo tumhein jaan lenge to tumhein pathrao karenge ya apne deen mein pher lenge aur aisa hua to tumhara kabhi bhala na hoga (20)

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا ۗ
 إِذِ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا ۗ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۗ
 قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝

aur isi tarah humne unki ittela kar di ke log jaan lein ke allah ka waada sachha hai aur qiyamat mein kuchh shubha nahin jab wo log unke muamla mein baaham

jhagadne lage to bole unke ghaar par koi imarat banao unka rab unhein khoob jaanta hai wo bole jo is kaam mein ghalib rahe the qasam hai ke hum to un par masjid banayenge (21)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا
بِالْغَيْبِ ۚ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مِمَّا
يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تَبَارِكُ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا ۚ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ
أَحَدًا ۖ

ab kahenge ke wo teen hain chautha unka kutta aur kuchh kahenge paanch hain chhata unka kutta be dekhe alawatka baat aur kuchh kahenge saath hain aur aathwa unka kutta tum farmao mera rab unki ginti khoob jaanta hai unhein nahin jaante magar thode to unke baare mein bahas na karo magar itni hi bahas jo zaahir ho chuki aur inke baare mein kisi kitabi se kuchh na puchho (22)

وَلَا تَقُولَنَّ لِسَائِيٍّ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ۖ

aur hargiz kisi baat ko na kehna ke main kal ye kar dunga (23)

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ
هَذَا رَشْدًا ۖ

magar ye ke allah chahe aur apne rab ki yaad kar jab tu bhool jaye aur yun keh ke qareeb hai mera rab mujhe usse nazdeek tar raasti ki raah dikhaye (24)

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴿٢٥﴾

aur wo apne ghaar mein teen sau baras thehre nau
upar (25)

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ۗ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ۗ مَا
لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ۗ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿٢٦﴾

tum farmao allah khoob jaanta hai wo jitna thehre usi
ke liye hain aasmano aur zameen ke sab ghaib wo kya
dekhta aur kya hi sunta hai uske siwa unka koi waali
nahin aur wo apne hukm mein kisi ko shareek nahin
karta (26)

وَإِذْ قُلْنَا مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ
مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾

aur tilawat karo tumhare rab ki kitab tumhein wahi
hui uski baato kw koi badalne waala nahin aur hargiz
tum uske siwa panaah na paoge (27)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا
تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ۗ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ
ذِكْرِنَا ۗ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۗ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾

aur apni jaan unse manoor rakho jo subah wa shaam
apne rab ko pukarte hain uski raza chahte aur tumhari
aankhein unhein chhod kar aur par na padein kya tum
dunya ki zindagi ka singaar chahoge aur uska kaha na
maano jiska dil humne apni yaad se ghafil kar diya aur
wo apni khwahish ke pichhe chala aur uska kaam hadd

se guzar gaya (28)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ نَارًا ۙ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۗ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ
يَشْوِي الْوُجُوهُ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ ۗ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٨﴾

aur farma do ke haq tumhare rab ki taraf se hai to jo
chahe imaan laaye aur jo chahe kufr kare beshak
humne zalimo ke liye wo aag tayyar kar rakhi hai jiski
deewareun inhein gher lengi aur agar paani ke liye
faryaad karein to inki faryaad rasi hogi us paani se ke
charkh diye hue dhaat ki tarah hai ke inke moonh
bhoon dega kya hi bura peena aur dozakh kya hi buri
theharne ki jagah (29)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

beshak jo imaan laaye aur nek kaam kiye hum unke
neg zaaya nahin karte jinke kaam achhe ho (30)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى
الْأَرَآئِكِ ۗ نِعْمَ الثَّوَابُ ۗ وَحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾

unke liye basne ke baagh hain unke niche nadiya
bahein wo us mein sone ke kanghan pehnaye jaayenge
aur sabz kapde kareeb aur qanadeez ke pehnenge
wahan takhno par takya lagaye kya hi achha sawaab
aur jannat kya hi achhi aaram ki jagah (31)

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا

بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝

aur unke samne do mardo ka haal bayaan karo ke un mein ek ko humne angooro ke do baagh diye aur unko khajooro se dhaanp liya aur unke beech beech mein kheti rakhi (32)

كُنْتَا الْجَنَّتَيْنِ أُتَتْ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۝

dono baagh apne phal laaye aur us mein kuchh kami na di aur dono ke beech mein humne nehrein bahai (33)

وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝

aur wo phal rakhta tha to apne saathi se bola aur wo usse raddo badal karta tha main tujhse maal mein zyada hoon aur aadmiyo ka zyada zor rakhta hoon (34)

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝

apne baagh mein gaya aur apni jaan par zulm karta hua bola mujhe gumaan nahin ke ye kabhi fana ho (35)

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝

aur main gumaan nahin karta ke qiyamat qaaim ho aur agar main apne rab ki taraf phir kar gaya bhi to zaroor us baagh se behtar palatne ki jagah paaunga (36)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

سَوَّلَكَ رَجُلًا ۝

uske saathi ne usse ulat pher karte hue jawab diya kya tu uske saath kufr karta hai jis ne tujhe mitti se banaya

phir nithre paani ki boond se phir tujhe theek mard
kiya (37)

لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

lekin main to yahi kehta hoon ke wo allah hi mera rab
hai aur main kisi ko apne rab ka shareek nahin karta
hoon (38)

وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللهُ ۖ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ
مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝

aur kyun na hua ke jab tu apne baagh mein gaya to
kaha hota jo chahe allah humein kuchh zor nahin
magar allah ki madad ka agar tu mujhe apne se maal
wa awlaad mein kam dekhta tha (39)

فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ
فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۝

to qareeb hai ke mera rab mujhe tere baagh se achha
de aur tere baagh par aasman se bijliya utaare to wo
patpar maidan ho kar reh jaaye (40)

أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝

ya uska paani zameen dhans jaaye phir to use hargiz
talash na kar sake (41)

وَاحِيطَ بِشَمْرِهِ فَاصْبَحَ يَقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ
يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۝

aur uske phal gher liye gaye to apne haath malta rah
gaya us laagat par jo us baagh mein kharch ki thi aur

wo apni tittiyo (chhapparo) par gira hua tha aur keh raha hai aye kaash maine apne rab ka kisi ko shareek na kiya hota (42)

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۝

aur uske paas koi jama'at na thi ke allah ke saamne uski madad karti na wo badla lene (ke) qabil tha (43)

هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۖ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝

yahan khulta hai ke ikhteyar sachhe allah ka hai uska sawaab se behtar aur uae manne ka anjaam sab se bhala (44)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

aur unke saamne zindagani dunya ki kahawat bayaan karo jaise ek paani hum ne aasman se utara to uske sabab zameen ka sabza ghana ho kar nikla ke sookhi ghaas ho gaya jise hawayein udayein aur allah har cheez par qaabu waala hai (45)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَلْقِيطُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۝

maal aur bete ye jeeti dunya ka singaar hai aur baaqi rehne waali achhi baatein unka sawaab tumhare rab ke yahan behtar aur wo ummeed mein sabse bhali (46)

وَيَوْمَ نُسَبِّحُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۗ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

aur jis din hum pahado ko chalayenge aur tum zameen ko saaf khuli hui dekhoge aur hum unhein uthayenge to un mein se kisi ko chhod na denge (47)

وَعَرِّضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ۖ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ﴿٤٧﴾

aur sab tumhare rab ke huzoor para baandhe pesh honge beshak tum humare paas waise hi aaye jaisa humne tumhein pehli baar banaya tha balki tumhara gumaan tha ke hum hargiz tumhare liye koi waada ka waqt na rakhenge (48)

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِكِنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۗ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَ لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

aur naama -e- aamal rakha jayega to tum mujrimo ko dekhoge ke uske likhe se darte honge aur kahenge haaye kharabi humari is nawishta ko kya hua na usne koi chhota gunah chhoda na bada jise gher na liya ho aur apna sab kiya unhone saamne paaya aur tumhara rab kisi par zulm nahin karta (49)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۖ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۖ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

aur yaad karo jab humne firishto ko farmaya ke adam ko sajda karo to sabne sajda kiya siwaye iblees ke

qaume jin se tha to apne rab ke hukm se nikal gaya
bhala kya use aur uski awlaad ko mere siwa dost
banate ho aur wo tumhare dushman hain zalimo ko
kya hi bura badla mila (50)

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخَذِينَ

الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥٠﴾

na maine aasmano zameen ko banate waqt unhein
samne bitha liya tha na khud unke banate waqt aur na
meri shaan ke gumrah karne waalo ko baazu banau
(51)

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ

جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ﴿٥١﴾

aur jis din farmayega ke pukaaro mere shareeko ko jo
tum gumaan karte the to unhein pukarengे wo unhein
jawab na denge aur hum unke darmiyan ek halakat ka
maidan kar denge (52)

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٥٢﴾

aur mujrim dozakh ko dekhenge to yaqeen karenge ke
unhein us mein girna hai aur usse phirne ki koi jagah
na payenge (53)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ

جَدَلًا ﴿٥٣﴾

aur beshak humne logon ke liye is quran mein har
qism ki misl tarah tarah bayaan farmai aur aadmi har

cheez se badh kar jhagdalu hai (54)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ
تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿٥٤﴾

aur aadmiyo ko kis cheez ne isse roka ke imaan laate
jab hidayat unke paas aai aur apne rab se muaafi
mangte magar ye ke un par aglo ka dastoor aaye ya un
par qism qism ka azaab aaye (55)

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آلِيئِيَّ وَمَا أَنْذَرُوا هُزُوعًا ﴿٥٥﴾

aur hum rasoolo ko nahin bhejte magar khushi aur dar
sunane waale aur jo kafir hain wo batil ke saath
jhagadte hain ke is haq ko mitawein aur unhone meri
aayato ki aur jo dar unhein sunaye gaye the unki hans
bana li (56)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۗ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ
يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿٥٦﴾

aur usse badh kar zalim kaun jise uske rab ki aayatein
yaad dilai jaayein to wo unse moonh pher le aur uske
haath jo aage bhej chuke use bhool jaaye humne unke
dilo par ghilaf kar diye hain ke quran na samjhein aur
unke kaano mein giraani aur agar tum unhein hidayat
ki taraf bulao to jab bhi kabhi hargiz raah na payenge
(57)

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ طَلُو يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ طَبَلُ
لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿٥٨﴾

aur tumhara rab bakhshne waala hai agar wo unhein unke kiye par pakadta to jald un par azaab bhejta balki unke liye ek waada ka waqt hai jiske samne koi panah na payenge (58)

وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِهَيْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿٥٩﴾

aur ye bastiya humne tabah kar di jab unhone zulm kiya aur humne unki barbadi ka ek waada rakha tha (59)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لَا آتِبْرُحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

aur yaad karo jab moosa ne apne khadim se kaha main baaz na rahunga jab tak wahan na pahunchu jahan do samundar mile hain ya qarno chala jaau (60)

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾

phir jab wo dono un daryao ke milne ki jagah pahunche apni machhli bhool gaye aur usne samundar mein apni raah li surang banati (61)

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَوْمِهِ إِتَيْنَاكُمْ آءَاتًا فَكُلُوا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَتَّبِعُوا ﴿٦٢﴾

phir jab wahan se guzar gaye moosa ne khadim se kaha humara subah ka khana laao beshak humein apne is safar mein badi mashaqqat ka samna hua (62)

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ
أَن أذْكَرَهُ ؕ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

bola bhala dekhiye to jab humne us chattan ke paas jagah li thi to beshak main machhli ko bhool gaya aur mujhe shaitan hi ne bhoola diya ke main uska mazkooor karoon aur usne to samundar mein apni raah li achamba hai (63)

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٣﴾

moosa ne kaha yahi to hum chahte the to pichhe palte apne qadmo ke nishan dekhte (64)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا عَلَّمْنَا ﴿٦٤﴾

to humare bando mein se ek banda paaya jise humne apne paas se rahmat di aur use apna ilme ladunni ata kiya (65)

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنِّي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٥﴾

usse moosa ne kaha kya main tumhare saath rahoon is shart par ke tum mujhe sikha doge nek baat jo tumhein taleem hui (66)

قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٦﴾

kaha aap mere saath hargiz na thehar sakenge (67)

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٧﴾

aur is baat par kyunkar sabr karenge jise aapka ilm muheet nahin (68)

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٦٨﴾

kaha anqareeb allah chahe to tum mujhe sabir paoge aur main tumhare kisi hukm ke khilaf na karunga (69)

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٦٩﴾

kaha to agar aap mere saath rehte hain to mujhse kisi baat ko na puchhna jab tak main khud uska zikr na karu (70)

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝

ab dono chalte yahan tak ke jab kashti mein sawar hue us banda ne use cheer daala moosa ne kaha kya tum ne use isliye cheera ke uske sawaro ko duba do beshak ye tumne buri baat ki (71)

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

kaha main na kehta tha ke aap mere saath hargiz na thehar sakenge (72)

قَالَ لَا تَأْخُذْ بِنِإِي بِنَا نَسِيتُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ مَنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

kaha mujhse meri bhool par giraft na karo aur mujh par mere kaam mein mushkil na daalo (73)

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَبًا فَفَقَتَهُ ۚ قَالَ اقْتُلْتَنِي بِنِإِي بِنَا نَسِيتُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ مَنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝

phir dono chale yahan tak ke jab ek ladka mila us banda ne use qatl kar diya moosa ne kaha kya tum ne ek suthri jaan be kisi ki jaan ke badle qatl kar di beshak tumne bahut buri baat ki (74)

Solahwa Paarah

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

kaha maine aapse na kaha tha ke aap hargiz mere
saath na thehar sakenge (75)

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝

kaha iske baad main tum se kuchh puchhun to phir
mere saath na rehna beshak meri taraf se tumhara uzr
poora ho chuka (76)

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيْتَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا

فِيهَا جِدَارًا يَرِيدُ أَنْ يُنْقَضَ فَاَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝

phir dono chale yahan tak ke jab ek gaaon waalo ke
paas aaye un dihqano se khana maanga to unhone
inhein dawat deni qabool na ki phir dono ne us gaaon
mein ek deewar paai ke gira chahti hai to us banda ne
use seedha kar diya moosa ne kaha tum chahte to is
par kuchh mazdoori le lete (77)

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأْتِيَنَّكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

kaha ye meri aur aap ki judai hai ab main aapko un
baato ka pher bataunga jin par aapse sabr na ho saka
(78)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

wo jo kashti thi wo kuchh mohtajo ki thi ke darya mein
kaam karte the to maine chaha ke use aibdaar kar
doon aur unke pichhe ek badshah tha ke har saabit
kashti zabardasti chheen leta (79)

وَأَمَّا الْعُلْمُ فَكَانَ أَبُوهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

aur wo jo ladka tha uske maa baap musalman the to
humein dar hua ke wo un ko sarkashi aur kufr par
chadhawe (80)

فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

to humne chaha ke un dono ka rab usse behtar suthra
aur usse zyada meharbani mein qareeb ata kare (81)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ
أَبُوهُمَا صَالِحًا فَآرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا ۗ رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ ۗ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَلِكِ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

rahi wo deewar wo shehar ke do yateem ladko ki thi
aur uske niche unka khazana tha aur un ka baap nek
aadmi tha to aapke rab ne chaha ke wo dono apni
jawani ko pahunchein aur apna khazana nikaalein
aapke rab ki rahmat se aur ye kuchh maine apne hukm
se na kiya ye pher hai un baato ka jis par aapse sabr na
ho saka (82)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ ۗ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝

aur tum se zulqarnain ko puchhte hain tum farmao
main tumhein uska mazkooor padh kar sunata hoon
(83)

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

beshak humne use zameen mein qaabu diya aur har cheez ka ek samaan ata farmaya (84)

فَاتَّبَعِ سَبَبًا ﴿٨٥﴾

to wo ek samaan ke pichhe chala (85)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۖ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا

قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾

yahan tak ke jab sooraj doobne ki jagah pahuncha use ek siyah keechad ke chashme mein doobta paaya aur wahan ek qaum mili humne farmaya aye zulqarnain ya to tu inhein saza de ya inke saath bhalai ikhteyar kare (86)

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا ثُكْرًا ﴿٨٧﴾

arz ki ke wo jisne zulm kiya use to hum anqareeb saza denge phir apne rab ki taraf phera jayega wo use buri maar dega (87)

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا

يُسْرًا ﴿٨٨﴾

aur jo imaan laaya aur nek kaam kiya to iska badla bhalai hai aur anqareeb hum use aasan kaam kahenge (88)

ثُمَّ اتَّبَعِ سَبَبًا ﴿٨٩﴾

phir ek samaan ke pichhe chala (89)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطَّلِعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا

سُئِرًا ۝

yahan tak ke jab suraj nikalne ki jagah pahuncha use
aisi qaum par nikalta paaya jin ke liye humne suraj se
koi aad nahin rakhi (90)

كَذَلِكَ ۝ وَوَقَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا لَكَ دِيهٍ خُبْرًا ۝

baat yahi hai aur jo kuchh uske paas tha sab ko
humara ilm muheet hai (91)

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝

phir ek samaan ke pichhe chala (92)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا ۝ لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝

yahan tak ke jab do pahado ke beech pahuncha unse
udhar kuchh aise log paaye ke koi baat samajhte
maloom na hote the (93)

قَالُوا إِذَا الْفَرَزَيْنِ إِنَّا يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُكَ
خَرْجًا عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝

unhone kaha aye zulqarnain beshak yajooj wa majooj
zameen mein fasaad machate hain to kya hum aap ke
liye kuchh maal muqarrar kar dein is par ke aap hum
mein aur un mein ek deewar bana dein (94)

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝

kaha wo jis par mujhe mere rab ne qaabu diya hai
behtar hai to meri madad taaqat se karo main tum
mein aur un mein ek mazboot aad bana doon (95)

أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ

تَارًا ۞ قَالَ أُتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۞

mere paas lohe ke takhte laao yahan tak ke wo jab deewar dono pahado ke kinaro se barabar kar di kaha dhonko yahan tak ke jab use aag kar diya kaha laao main is par gala hua taamba undel doon (96)

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۞

to yajooj wa majooj is par na chadh sake aur na is mein soorakh kar sake (97)

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۞

kaha ye mere rab ki rahmat hai phir jab mere rab ka waada aayega use pash pash kar dega aur mere rab ka waada sachha hai (98)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جُمُوعًا ۞

aur us din hum unhein chhod denge ke unka ek giroh dusre par rila dega aur soor phoonka jayega to hum un sab ko ikattha kar layenge (99)

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۞

aur hum us din jahannam kafiro ke saamne layenge (100)

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞

wo jinki aankho par meri yaad se parda pada tha aur haq baat sun na sakte the (101)

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ آلِهَاتٍ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا

جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۞

to kya kafir ye samjhe hain ke mere bando ko mere siwa himayati bana lenge beshak humne kafiro ki mehmani ko jahannam tayyar kar rakhi hai (102)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝

tum farmao kya hum tumhein bata dein ke sabse badh kar naqis amal kin ke hain (103)

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝

un ke jinki saari koshish dunya ki zindagi mein gum thi aur wo is khayal mein hain ke hum achha kaam kar rahe hain (104)

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝

ye log hain jinhone apne rab ki aayatein aur iska milna na maana to unka kiya dhara sab akarat hai to hum unke liye qiyamat ke din koi taul na qaaim karenge (105)

ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الْبَيْتَ وَرُسُلِي هُزُوًا ۝

ye unka badla hai jahannam is par ke unhone kufr kiya aur meri aayato aur mere rasoolo ki hansa banai (106)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝

beshak jo imaan laaye aur achhe kaam kiye firdaus ke baagh mein unki mehmani hai (107)

خُلِدِ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝

wo humesha un mein rahenge unse jagah badalna na

chahenge (108)

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتِ رَبِّي وَلَوْ
جِئْنَا بِبِئْسَلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٨﴾

tum farma do agar samundar mere rab ki baato ke liye
siyahi ho to zaroor samundar khatm ho jayega aur
mere rab ki baatein khatm na hongy agarche hum
waisa hi aur uski madad ko le aayein (109)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

tum farmao zaahir soorate bashari mein to main tum
jaisa hoon mujhe wahih aati hai ke tumhara mabood
ek hi mabood hai to jise apne rab se milne ki ummeed
ho use chahiye ke nek kaam kare aur apne rab ki
bandagi mein kisi ko shareek na kare (110)

Surah Maryam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban raham
wala.

كَهَيْعِصَ ﴿١﴾

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَّرِيًّا ﴿٢﴾

ye mazkoor hai tere rabb ki us rahmat ka jo usne apne
bande zakariya par ki.(2)

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝

jab usne apne rabb ko aahista pukara.(3)

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ

شَقِيًّا ۝

arz ki ay mere rabb meri haddi kamzor ho gayi aur sar se budhape ka bhubhka phoota aur ay mere rabb mai tujhe pukar kar kabhi namurad na raha.(4)

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝

aur mujhe apne baad apne qarabat walon ka darr hai aur meri aurat baanjh hai tu mujhe apne paas se koi aisa de daal jo mera kaam utha le.(5)

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

wo mera jaanasheen ho aur aulade yaqoob ka waris ho aur ay mere rabb use pasandeeda kar (6)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِي اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

ay zakariya hum tujhe khushi sunate hain ek ladke ki, jiska naam yahya hai iske pehle humne is naam ka koi na kiya.(7)

قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝

arz ki ay mere rabb mere ladka kahan se hoga, meri aurat to baanjh hai aur mai budhape se sookh jane ki halat ko pahuch gaya.(8)

قَالَ كَذٰلِكَ ۗ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِنٍ وَقَدْ خَلَقْتٰكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝

farmaya aisa hi hai, tere rabb ne farmaya wo mujhe

aasaan hai aur maine to isse pehle tujhe us waqt
banaya jab tu kuchh bhi na tha.(9)

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝

arz ki ay mere rabb mujhe nishani de de farmaya teri
nishani ye hai ke tu teen raat din logon se kalaam na
kare bhala changa ho kar.(10)

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝

to apni qaum par masjid se bahar aaya to unhen
ishara se kaha ki subah sham tasbeeh karte raho.(11)

لِيُحْيِيَ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۝

ay yahya kitab mazboot thaam aur humne use
bachpan hi me nuwuwaat di.(12)

وَخَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝

aur apni taraf se meharbani aur suthrai aur kamaal
darr wala tha.(13)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝

aur apne maa baap se accha sulook karne wala tha
zabardast wa nafarman na tha.(14)

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۝

aur salamati hai us par jis din paida hua aur jis din
marega aur jis din zinda uthaya jayega.(15)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرِيَمَ ۖ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝

aur kitab me maryam ko yaad karo jab apne ghar
walon se poorab ki taraf ek jagah alag gayi.(16)

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۗ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

to unse udhar ek parda kar liya to uski taraf humne apna ruhani bheja wo uske samne ek tandurust aadmi ke roop me zahir hua.(17)

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝

boli mai tujhse rahman ki panah mangti hun agar tujhe khuda ka darr hai.(18)

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ۖ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۝

bola mai tere rabb ka bheja hua hun ke mai tujhe ek suthra beta dun.(19)

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ۝

boli mere beta kahan se hoga mujhe to na kisi aadmi ne hath lagaya na mai badkaar hun.(20)

قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

kaha yunhi hai tere rabb ne farmaya hai ke ye mujhe aasan hai aur isliye ke hum use logon ke waaste nishani karen aur apni taraf se ek rahmat aur ye kaam thehar chuka hai.(21)

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

ab maryam ne use pet me liya fir use liye hue ek door jagah chali gayi.(22)

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ لَيْلَيْتُنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا ۝

مَّنْسِيًّا ۝

fir use janane ka dard ek khajoor ki jad me le aaya boli jaye kisi tarah mai isse pehle mar gayi hoti aur bhooli bisri ho jati.(23)

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝٢٣

to use uske tale se pukara ki gham na kha beshak tere rabb ne tere neechे ek nehar baha di hai.(24)

وَهَزِيءَ إِلَيْكَ بِجُنْعِ النَّخْلَةِ تُلْسِقُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝٢٤

aur khajoor ki jad pakad kar apni taraf hila tujh par tazi paki khajooren girengi.(25)

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَمَا تَرِينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۗ فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ

لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ مِنْ أُنثَىٰ ۝٢٥

to kha aur pee aur aankh thandi rakh fir agar tu kisi aadmi ko dekhe to keh dena maine aaj rahman ka roza mana hai to aaj hargiz kisi aadmi se baat na karungi.(26)

فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُوا لِمَ زَيْمٌ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝٢٦

to use god me liye apni qaum ke paas aayi, bole ay maryam beshak tune bahut badi baat ki.(27)

يَأْتِ هُرُونٌ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا ۗ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۝٢٧

ay haroon ki behan tera baap bura aadmi na tha aur na teri maa badkaar.(28)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۗ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝٢٨

is par maryam ne bacche ki taraf ishara kiya, wo bole hum kaise baat karen usse jo palne me baccha hai.(29)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ^ط اتَّخَذَ اللَّهُ نَبِيًّا^{٣٠} وَجَعَلَنِي نَبِيًّا^{٣٠}

baccha ne farmaya mai hun allah ka banda, usne mujhe kitab di aur mujhe gaib ki khabren batane wala (nabi) kiya.(30)

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ^{٣١} وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا^{٣١}

aur usne mujhe mubarak kiya, mai kahin hun aur mujhe namaz wa zakat ki taakeed farmayi jab tak jiyun.(31)

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي^{٣٢} وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا^{٣٢}

aur apni maa se accha sulook karne wala aur mujhe zabardast badbakht na kiya.(32)

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا^{٣٣}

aur wahi salamati mujh par jis din mai paida hua aur jis din marun aur jis din zinda uthaya jaaun.(33)

ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ^{٣٤} قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ^{٣٤}

ye hai isa maryam ka beta sacchi baat jisme shak karte hain.(34)

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَاكِلٍ^{٣٥} سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^{٣٥}

allah ko laaiq nahi ke kisi ko apna baccha thehraye, paaki hai usko jab kisi kaam ka hukm farmata hai to yunhi ke usse farmata hai ho ja wo fauran ho jata hai.(35)

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ^{٣٦} هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ^{٣٦}

aur eisa ne kaha beshak allah rabb hai mera aur tumhara to uski bandagi karo ye raah seedhi hai.(36)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٦﴾

fir jama'aten aapas me mukhtalif ho gayi to kharabi hai kafiron ke liye ek bade din ki haziri se.(37)

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ ۚ يَوْمَ يَأْتُوتُنَّا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾

kitna sunenge aur kitna dekhenge jis din hamare paas hazir honge magar aaj zaalim khuli gumrahi me hai.(38)

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ ۖ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٨﴾

aur unhen darr sunao pachhtawe ke din ka jab kaam ho chukeya aur wo gaflat me hain aur nahi mante.(39)

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

beshak zameen aur jo kuchh us par hai sabke waris hum honge aur wo hamari hi taraf firenge.(40)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ الْإِبْرَاهِيمَ ۗ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٤٠﴾

aur kitab me ibraheem ko yaad karo beshak wo siddique tha (nabi) gaib ki khabren batata.(41)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴿٤١﴾

jab apne baap se bola ay mere baap kyun aise ko poojta hai jo na sune na dekhe aur na kuchh tere kaam aaye.(42)

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٢﴾

ay mere baap beshak mere paas wo ilm aaya jo tujhe

na aaya to tu mere peechhe chala aa, mai tujhe seedhi raah dikhaun.(43)

يَا بَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿٤٣﴾

ay mere baap shaitan ka banda na ban beshak shaitan rahman ka na-farman hai.(44)

يَا بَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤﴾

aye mere baap mai darta hun ke tujhe rahman ka koi azaab pahuche to tu shaitan ka rafique ho jaye.(45)

قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنِ الْهَيْتِ يَا بُرْهَيْمُ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهَ لِأَرْجَمَتَكَ وَاهْجُرْنِي

مَلِيًّا ﴿٤٥﴾

bola kya tu mere khudaon se muh ferta hai, ay ibraheem beshak agar tu baaz na aaya to mai tujhe pathraw karunga aur mujh se zamanae daraz tak be-ilaqa ho ja.(46)

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ۚ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٦﴾

kaha bas tujhe salam hai qareeb hai ke mai tere liye apne rabb se muafi mangunga.(47)

وَاعْتَزِلْهُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي

شَقِيًّا ﴿٤٧﴾

beshak wo mujh par meharban hai aur mai ek kinare ho jaunga tum se aur un sabse jinko allah ke siwa poojte ho aur apne rabb ko poojunga qareeb hai ke mai apne rabb ki bandagi se badbakht na hun.(48)

فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ وَكُلًّا

جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٩﴾

fir jab unse aur allah ke siwa unke ma'boodon se kinara kar gaya, humne use is'haaq aur yaqoob ataa kiye aur har ek ko gaib ki khabren batane wala nabi kiya.(49)

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾

aur humne unhen apni rahmat ataa ki aur unke liye sacchi buland namwari rakhi.(50)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥١﴾

aur kitab mein moosa ko yaad karo, beshak wo chuna hua tab aur rasool tha ghaib ki khabaren batane wala.(51)

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾

aur use humne toor ki dahini janib se nida farmayi aur use apna raaz kehne ko qareeb kiya.(52)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿٥٣﴾

aur apni rahmat se uska bhai haroon ataa kiya ghaib ki khabaren batane wala (nabi).(53)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٤﴾

aur kitab me ismaeel ko yaad karo beshak wo waade ka saccha tha aur rasool tha ghaib ki khabaren batana.(54)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥﴾

aur apne ghar walon ko namaz aur zakat ka hukm deta

aur apne rabb ko pasand tha.(55)

وَ اذْكَرْنَا فِي الْكِتَابِ اِذْ رِيسُ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿٥٥﴾

aur kitab me idrees ko yaad karo beshak wo siddique
tha gaib ki khabren deta.(56)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٦﴾

aur humne use buland makan par utha liya.(57)

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۚ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ

نُوْحٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَاِسْرَآءِيْلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاٰجْتَبَيْنَا ۗ اِذَا تَتَلٰٓى

عَلَيْهِمْ اٰيٰتِ الرَّحْمٰنِ ۗ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا ﴿٥٧﴾

ye hai jin par allah ne ehsaan kiya ghaib ki khabren
batane walon me se aadam ki aulad se aur unme jinko
nooh ke sath sawar kiya tha aur ibraheem aur yaqoob
ki aulad se aur unme se jinhen humne raah dikhayi aur
chun liya jab un par rahman ki aayaten padhi jati gir
padte sajda karte aur rote.(58- aayate sajda)

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ

عٰقِبًا ﴿٥٨﴾

to unke baad usnki jagah wo nakhalq aaye jinhone
namaze gawai aur apni khwahisho ke peechhe hue to
anqareeb wo dozakh me ghi ka jangal payenge.(59)

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا ﴿٥٩﴾

magar jo taaib hue aur an laye aur achhe kaam liye to
ye log jannat me jayenge aur unhen kuchh nuksan na
diya jayega.(60)

جَنَّتِ عَدْنُ النَّبِيِّ وَعَدَّ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿٦١﴾

basne ke baagh jinka wada rahman ne apne bando se ghaib me kiya beshak uska wada aane wala hai.(61)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

wo usme koi bekar baat na sunenge magar salam aur unhen usme unka rizq hai subah wa sham.(62)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿٦٣﴾

ye wo baagh hai jiska waris hum apne bando me se use karenge jo parhezgar hai.(63)

وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۗ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

aur jibrael ne mehboob se arz ki hum farishte nahi utarte magar huzoor ke rabb ke hukm se usi ka hai jo hamare aage hai aur jo hamare peeche aur jo uske darmiyan hai aur huzoor ka rabb bhoolne wala nahi.(64)

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۗ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾

aasmano aur zameen aur jo kuchh unke beech me hai sab ka mailk to use poojo aur uski bandagi par sabit raho, kya uske naam ka dusra jante ho.(65)

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثُّ لَسَوْفَ أَخْرُجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾

aur aadmi kehta hai kya jab mai mar jaunga to zaroor anqareeb jilaa kar nikala jaunga.(66)

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكْ شَيْئًا ﴿٦٧﴾

aur kya aadmi ko yaad nahi ke humne isse pehle use banaya aur wo kuchh na tha.(67)

فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾

to tumhare rabb ki qasam unhen aur shaitan sab ko gher layenge aur unhen dozakh ke aas paas hazir karenge ghutno ke bal gire.(68)

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾

fir hun har giroh se nikalenge jo unme rahman par sabse zyada be-baak hoga.(69)

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾

fir hum khoob jante hain jo us aag me bhunne ke zyada laaiq hai.(70)

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾

aur tum me koi aisa nahi jiska guzar dozakh par na ho tumhare rabb ke zimma par ye zaroor thehri hui baat hai.(71)

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾

fir hum darr walon ko bacha lenge aur zalimo ko usme chhod denge ghutno ke bal gire.(72)

وَإِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِمْ أَيُّنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْ الْفَرِيقَيْنِ

خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾

aur jab un par hamaro raushan aayaten padhi jati hain kafir musalmano se kehte hain kaun se giroh ka

makaan accha aur majlis behtar hai.(73)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِعْيًا ۖ

aur humne unse pehle kitni sangate khapaa di ke wo unse bhi saamaan aur numood me behtar the.(74)

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۗ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا

الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۖ

tum farmao jo gumrahi me hoto use rahman khoob dheel de yahan tak ke jab wo dekhe wo cheez jiska unhen wada diya jata hai ya to azaab ya qiyamat to ab jaan lenge ke kiska bura darja hai aur kis ki fauj kamzor.(75)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۗ وَالْبَاقِيَتِ الصَّلٰحٰتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَ

خَيْرٌ مَّرَدًّا ۖ

aur jinhone hidayat payi allah unhe aur hidayat badhayega aur baqi rehne wali nek baato ka tere rab ke yahan sabse behtar sawab aur sabse bhala anjaam.(76)

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۗ

to kya tum ne use dekha jo humari aayaton se munkir hua aur kehta hai mujhe zaroor maal wa aulad milenge.(77)

أَطَّلَعَ الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ

kya ghaib ko jhaank aaya hai ya rahmaan ke paas koi qarar rakha hai.(78)

كَلَّا طَسَنُكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝

hargiz nahi ab hum likh rakhenge jo wo kehta hai use
khoob lamba azaab denge.(79)

وَنَرِيثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝

aur jo cheezen kah raha hai uske hami waris honge aur
humare paas akela aayega.(80)

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيُكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝

aur allah ke siwa aur khuda bana liye ke wo unhe zor
den.(81)

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝

hargiz nahi koi dum jata hai ke wo unki bandagi se
munkir honge aur unke mukhalif ho jayenge.(82)

أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَرْبَابًا ۝

kya tumne na dekha ke humne kafiron paar shaitan
bheje ke wo unhe khoob uchhaalte hain.(83)

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۝ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۝

to tum un par jaldi na karo hum to unki ginti poori
karte hain.(84)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۝

jis din hum parhezgaron ko rahman ki taraf le jayenge
mehman bana kar.(85)

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝

aur mujrimo ko jahannam ki taraf haankenge
pyase.(86)

لَا يَنْبَلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝

log shafa'at ke malik nahi magar wahi jinhone rahman ke paas qarar kar rakha hai.(87)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝

aur kafir bole rahman ne aulad ikhtiyar ki.(88)

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝

beshak tum hadd ki bhaari baat laye.(89)

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝

qareeb hai ke aasman usse phat pade aur zameen shaq ho jaye aur pahad gir jaye dhah kar.(90)

أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝

is par ke unhone rahman ke liye aulad batai.(91)

وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝

aur rahman ke liye laaiq nahi ke aulad ikhtiyar kare.(92)

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝

aasmano aur zameen me jitne hain sab uske huzoor bande ho kar hazir honge.(93)

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝

beshak wo unka شمار janta hai aur unko ek ek kar ke gin rakha hai.(94)

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۝

aur unme har ek roze qiyamat uske huzoor akele hazir hoga.(95)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

beshak wo jo iman laye aur acche kaam kiye anqareeb unke liye rahman muhabbat kar dega.(96)

فَأَنبَأَ يَسْرَنُهِ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴿٩٧﴾

to humne ye qur'an tumhari zaban me yunhi aasan farmaya ke tum isse darr walon ko khushkhabri do aur jhagdalu logon ko isse darr sunao.(97)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ

رِكْرًا ﴿٩٨﴾

aur humne unse pehli kitni sangaten khapaai kya tum unme kisi ko dekhte ho ya unki bhanak sunte ho.(98)

Surah Taaha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

طه ٠

taaha (1)

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٠

aye mahboob humne tum par ye quran isliye na utara ke tum mashaqqat mein pado (2)

إِلَّا تَذَكَّرَ لَسَنُ يُخْشَى ٠

haan usko naseehat jo dar rakhta ho (3)

تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝

uska utara hua jisne zameen aur oonche aasman
banaye (4)

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝

wo badi muhar waala usne arsh par istawa farmaya
jaisa uski shaan ke laaiq hai (5)

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝

uska hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh
zameen mein aur jo kuchh unke beech mein aur jo
kuchh is geeli mitti ke niche hai (6)

وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝

aur agar tu baat pukaar kar kahe to wo to bhed ko
jaanta hai aur use jo isse bhi zyada chhupa hai (7)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝

allah ke uske siwa kisi ki bandagi nahin usi ke hain sab
achhe naam (8)

وَهَلْ أَتَمَّكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝

aur kuchh tumhein moosa ki khabar aai (9)

إِذْ رَأَيْنَا أَفْقَالَ لَأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا الْعَلَىٰ إِنِّي كُنتُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدُ عَلَىٰ

النَّارِ هُدًى ۝

jab usne ek aag dekhi to apni bibi se kaha thehro
mujhe ek aag nazar padi shayad tumhare liye is mein
se koi chingari laaun ya aag par rasta paaun (10)

فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ يَبُوسَى ۝

phir jab aag ke paas aaya nida farmai gai ke aye moosa
(11)

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

beshak main tera rab hoon to tu apne jootे utaar daal
beshak tu paak jungle toowa mein hai (12)

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝

aur maine tujhe pasand kiya ab kaan laga kar sun jo
tujhe wahih hoti hai (13)

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝

beshak main hi hoon allah ke mere siwa koi mabood
nahin to meri bandagi kar aur meri yaad ke namaz
qaaim rakh (14)

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝

beshak qiyamat aane waali hai qareeb tha ke ise sab se
chhipaun ke har jaan apni koshish ka badla paaye (15)

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَزِدِي ۝

to hargiz tujhe uske manne se wo baaz na rakhe jo is
par imaan nahin laata aur apni khwahish ke pichhe
chala phir to halaak ho jaaye (16)

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يُمُوسَىٰ ۝

aur ye tere dahine haath mein kya hai aye moosa (17)

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنِيٍّ وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ ۝

arz ki ye mera asaa hai main is par takiya lagata hoon
aur isse apni bakriyo par patte jhadta hoon aur mere is

mein aur kaam hain (18)

قَالَ لَقِيهَا يُوسَى ۝

farmaya ise daal de aye moosa (19)

فَالْقِيَامَ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝

to moosa ne use daal diya to jabhi wo daudta hua sanp
ho gaya (20)

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۝

farmaya ise utha le aur dar nahin ab hum ise phir
pehle ki tarah kar denge (21)

وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيِّضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةٌ أُخْرَى ۝

aur apna haarh apne baazu se mila khoob suped
niklega be kisi maez ke aur nishani (22)

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝

ke hum tujhe apni badi badi nishaniya dikhayein (23)

إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

firaun ke paas jaa usne sar uthaya (24)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝

arz ki aye mere rab mere liye mera seena khol de (25)

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝

aur mere liye mera kaam aasan kar (26)

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝

aur meri zubaan ki girah khol de (27)

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

ke wo meri baat samjhein (28)

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ

aur mere liye mere ghar waalo mein se ek wazeer kar
de (29)

هُرُونَ أَخِي ۖ

wo kaun mera bhai haroon (30)

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ

usse meri kamar mazboot kar (31)

وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ

aur use mere kaam mein shareek kar (32)

كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۖ

ke hum ba kasrat teri paaki bolein (33)

وَنَذُكُرَكَ كَثِيرًا ۗ

aur ba kasrat teri yaad karein (34)

إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۖ

beshak tu humein dekh raha hai (35)

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ۖ

farmaya aye moosa teri manag tujhe ata hui (36)

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ

aur beshak humne tujh par ek baar aur ehsan farmaya
(37)

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۖ

jab humne teri maa ko ilhaam kiya jo ilhaam karna tha

(38)

أَنْ أَقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَا خُذْهُ عَدُوِّي
وَعَدُوْلَهُ ۗ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي ۗ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۝

ke is bachhe ko sandooq mein rakh kar darya mein
daal de to darya use kinare par daale ke use wo utha le
jo mera dushman aur uska dushman aur maine tujh
par apni taraf ki muhabbat daali aur isliye ke tu meri
nigah ke samne tayyar ho (39)

إِذْ تَنْشَىٰ أُخُنُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ
عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَكَتَلْتَ نَفْسًا فَرَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ
سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ ۝

teri behan chali phir kaha kya main tumhein wo log
bata doon jo is bachha ki parwarish karein to hum
tujhe teri maa ke paas pher laaye ke uski aankh thandi
ho aur gham na kare aur tune ek jaan ko qatl kiya to
humne tujhe gham se najaat di aur tujhe khoob jaanch
liya to tu kai baras madain waalo mein raha phir tu ek
thehraye hue waada par hazir hua aye moosa (40)

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۝

aur maine tujhe khaas apne liye banaya (41)

إِذْ هَبَّ أُنْتِ وَأَخُوكَ بِأَيْتِي وَلَا تَنبِيَا فِي ذِكْرِي ۝

tu aur tera bhai dono meri nishaniya le kar jaao meri
yaad mein susti na karna (42)

إِذْ هَبَّآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝

firaun ke paas jao beshak usne sar uthaya (43)

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴿٧٦﴾

to usse narm baat kehna is ummeed par ke wo dhyaan
kare ya kuchh dare (44)

قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴿٧٧﴾

dono ne arz kiya aye humare rab beshak hum darte
hain ke wo hum par zyadati kare ya shararat se pesh
aaye (45)

قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْعَى وَأَرَى ﴿٧٨﴾

farmaya daro nahin main tumhare saath hoon sunta
aur dekhta (46)

فَأَتِيهِ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بِنِيَّ إِسْرَآءِيلَ ۖ وَلَا تُعَدِّبْهُمْ ۚ قَدْ

جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿٧٩﴾

to uske paas jao aur usse kaho ke hum tere rab ke
bheje hue hain to awlaade yaqoob ko humare saath
chhod de aur unhein takleef na de beshak hum tere
paas tere rab ki taraf se nishani laaye hain aur salamati
use jo hidayat ki pairwi kare (47)

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٨٠﴾

beshak humari taraf wahih hui hai ke azaab us par hai
jo jhutlaye aur moonh phere (48)

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُوسَى ﴿٨١﴾

bola to tum dino ka khuda kaun hai aye moosa (49)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٨٢﴾

kaha humara rab wo hai jis ne har cheez ko uske laaiq
soorat di phir raah dikhai (50)

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٥٠﴾

bola agli sangaton ka kya haal hai (51)

قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿٥١﴾

kaha unka ilm mere rab ke paas ek kitan mein hai
mera rab na behke na bhoole (52)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَانزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ أَرْوَاجًا مِنْ تَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٢﴾

wo jisne tumhare liye zameen ko bichhona kiya aur
tumhare liye us mein chalti rahein rakhi aur
aasmanom se paani utara to humne usse tarah tarah
ke sabze ke jode nikaale (53)

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٣﴾

tum khao aur apne maweshiyo ko charao beshak is
mein nishaniya hai aql waalo ko (54)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٤﴾

humne zameen hi we tumhein banaya aur isi mein
tumhein phir le jayenge aur isi se tumhein dobara
nikalenge (55)

وَلَقَدْ آرَيْنَهُ الْآيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٥﴾

aur beshak humne apni sab nishaniya dikhai to usne
jhutlaya aur na maana (56)

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿٥٦﴾

bola kya tum humare paas isliye aaye ho ke humein apne jaadu ke sabab humari zameen se nikaal do aye moosa (57)

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ
مَكَانًا سَوِيًّا ﴿٥٧﴾

to zaroor hum bhi tumhare aage waisa hi jaadu layenge to hum mein aur apne mein ek waada thehra do jisse na hum badla lein na tum hamwaar jagah ho (58)

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٥٩﴾

moosa ne kaha tumhara waada mele ka din hai aur ye ke log din chadhe jama kiye jaayein (59)

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦٠﴾

to firauun phira aur apne daanw ikatthe kiye phir aaya (60)

قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ﴿٦١﴾

unse moosa ne kaha tumhein kharabi ho allah par jhoot na bandho ke wo tumhein azaab se halak kar de aur beshak namuraad raha jisne jhoot bandha (61)

فَتَنَّا زَعْوًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٦٢﴾

to apne muamla mein baaham mukhtalif ho gaye aur chhup kar mushwarat ki (62)

قَالُوا إِنْ هَذَا مِنْ لَدُنِّ لَسَجِرٍ يُرِيدُنَا أَنْ نُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا

بَطْرِيْقَتِكُمْ الْمَثَلِي ۝۶۳

bole beshak ye dono zaroor jadugar hain chahte hain ke tumhein tumhari zameen se apne jaadu ke zor se nikaal dein aur tumhara achha deen le jaayein (63)

فَاجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ۝۶۴

to apna daanw pakka kar lo phir para baandh kar aao aur aaj muraad ko pahuncha jo ghalib raha (64)

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۝۶۵

bole aye moosa ya to tum daalo ya hum pehle daalein (65)

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۝۶۶

moosa ne kaha balki tumhi daalo jabhi unki rassiya aur laathiya unke jadu ke zor se unke khayal mein daudti maloom hui (66)

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ ۝۶۷

to apne jee mein moosa ne khauf paaya (67)

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝۶۸

humne farmaya dar nahin beshak tu hi ghalib hai (68)

وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ

السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۝۶۹

aur daal tu de jo tere dahne haath mein hai wo unki banawato ko nigal jayega wo jo bana kar laaye hain wo to jadugar ka fareb hai aur jadugar ka bhala nahin hota kahin aawe (69)

فَأَتَى السَّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۝

to sab jadugar sajde mein gira liye gaye bole hum us par imaan laaye jo haroon aur moosa ka rab hai (70)

قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ
فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ۖ
وَلِتَعْلَمَنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۝

firaun bola kya tum is par imaan laaye qabal iske ke main tumhein ijazat doon beshak wo tumhara bada hai jisne tum sab ko jaadu sikhaya to mujhe qasam hai zaroor main tumhare ek taraf ke haath aur dusri taraf ke paaon kaatunga aur tumhein khajoor ke dand par sooli chadhaunga aur zaroor tum jaan jaoge ke hum mein kis ka azaab sakht aur derpa hai (71)

قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَنَّكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ۖ
إِنَّمَا نَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

bole hum hargiz tujhe tarjeeh na denge un raushan daleelo par jo humare paas aayein humein apne paida karne waale ki qasam to tu kar chuk jo tujhe karna hai to is dunya hi ki zindagi mein tu karega (72)

إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۖ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

beshak hum apne rab par imaan laaye ke wo humari khatayein bakhsh de aur wo jo tune humein majboor kiya jadu par aur allah behtar hai aur sab se zyada

baaqi rehne waala (73)

إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝

beshak jo apne rab ke huzoor mujrim ho kar aaye to zaroor uske liye jahannam hai jis mein na mare na jiye

(74)

وَمَنْ يَأْتِهِ مَوْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۝

aur jo uske huzoor imaan ke sath aaye ke achhe kaam kiye ho to unhi ke darje oonche (75)

جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝

basne ke baagh jinke niche nehrein bahein humesha un mein rahein aur ye sila hai uska jo paak hua (76)

وَلَقَدْ آوَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۖ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ

يَبْسًا ۗ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ۝

aur beshak humne moosa ko wahih ki ke raato raat mere bando ko le chal aur un ke liye darya mein sookha rasta nikaal de tujhe dar na hoga ke firaun aa le aur na khatra (77)

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝

to unke pichhe firaun pada apne lashkar le kar to unhein darya ne dhaanp liya jaisa dhaanp liya (78)

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۝

aur firaun ne apni qaum ko gumrah kiya aur raah na dikhai (79)

يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ

نَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوى ۝

aye bani israyeel beshak humne tum ko tunhare dushman se najaat di aur tumhein toor ki dahni taraf ka waada diya aur tum par mann aur salwa utara (80)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۚ وَمَنْ يَحِلِّ

عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ۝

khaao jo paak cheezein humne tumhein rozi di aur us mein zyadati na karo ke tum par mera ghazab utre aur jis par mera ghazab utra beshak wo gira (81)

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۝

aur beshak main bahut bakhshne waala hoon use jis ne tauba ki aur imaan laaya aur achha kaam kiya phir hidayat par aaya (82)

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ۝

aur tune apni qaum se kyun jaldi ki aye moosa (83)

قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۝

arz ki ke wo ye hain mere pichhe aur aye mere rab teri taraf mein jaldi kar kar ke haazir hua ke tu raazi ho (84)

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۝

farmaya to humne tere aane ke baad teri qaum ko bala mein daala aur unhein saamri ne gumrah kar diya (85)

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا

حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

فَأَخْلَفْتُم مَّوعِدِي ۝

to moosa apni qaum ki taraf palta ghussa mein bhara afsos karta kaha aye meri qaum kya tumse tumhare rab ne achha waada na kiya tha kya tum par muddat lambi guzri ya tum ne chaha ke tum par tumhare rab ka ghazab utre to tum ne mera waada khilaf kiya (86)

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَبَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّاهَا
فَكَذَّبْتَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝

bole humne aapka waada apne ikhteyar se khilaf na kiya lekin humse kuchh bojh uthwaye gaye is qaum ke gehne ke to humne unhein daal diya phir usi tarah saamri ne daala (87)

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَّهِ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۖ فَانْسَىٰ ۝

to usne unke liye ek bachhda nikala be jaan ka dhad gaaye ki tarah bolta to bole ye hai tumhara mabood aur moosa ka mabood moosa to bhool gaye (88)

أَفَلَا يَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝

to kya nahin dekhte ke wo unhein kisi baat ka jawab nahin deta aur unke kisi bure bhale ka ikhteyar nahin rakhta (89)

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝

aur beshak unse haroon ne isse pehle kaha tha ke aye meri qaum yun hi hai ke tum iske sabab fitne mein pade aur beshak tumhara rab rahman hai to meri pairwi karo aur mera hukm maano (90)

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكْفَيْنَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

bole hum to is par aasan maare jame rahenge jab tak humare paas moosa laut ke aayein (91)

قَالَ يَهُرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿٩٢﴾

moosa ne kaha aye haroon tumhein kis baat ne roka tha jab tum ne inhein gumrah hote dekha tha (92)

أَلَا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٩٣﴾

ke mere pichhe aate to kya tum ne mera hukm na maana (93)

قَالَ يَبْنَؤُمْرًا لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي

إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴿٩٤﴾

kaha aye mere maa jaaye na meri dadhi pakdo aur na mere sar ke baal mujhe ye dar hua ke tum kahoge bani israyeel mein tafirqa daal diya aur tumne meri baat ka intezar na kiya (94)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِي ﴿٩٥﴾

moosa ne kaha ab tera kya haal hai aye saamri (95)

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَ

كَذَلِكَ سَوَّاتُ لِي نَفْسِي ﴿٩٦﴾

bola maine wo dekha jo logon ne na dekha to ek mutthi bhar li firishte ke nishan se phir use daal diya aur mere jee ko yahi bhala laga (96)

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ ۚ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنَّ

تُخْلَفُهُ ۚ وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكِ الَّذِي تَلْتِ عَلَيْهِ عَاكِفًا ۚ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي
الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٧﴾

kaha tu chalta ban ke dunya ki zindagi mein teri saza
ye hai ke tu kahe chhu na ja aur beshak tere liye ek
waada ka waqt hai jo tujh se khilaf na hoga aur apne
us mabood ko dekh jiske saamne tu din bhar aasan
maare raha qasam hai hum zaroor use jalayenge phir
reza reza kar ke darya mein bahayenge (97)

إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

tumhara mabood to wahi allah hai jiske siwa kisi ki
bandagi nahin har cheez ko uska ilm muheet hai (98)

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩﴾

hum aisa hi tumhare samne agli khabrein bayaan
farmate hain aur humne tum ko apne paas se ek zikr
ata farmaya (99)

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠﴾

jo isse moonh phere to beshak qiyamat ke din ek bojh
uthayega (100)

خُلِدِينَ فِيهِ ۚ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿١٠١﴾

wo humesha us mein rahenge aur wo qiyamat ke din
unke haq mein kya hi bura bojh hoga (101)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾

jis din soor phoonka jayega aur hum mujrimo ko us din
uthayenge neeli aankhein (102)

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣﴾

aapas mein chupke chupke kehte honge ke tum dunya mein na rahe magar dus raat (103)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾

hum khoob jaante hain jo wo kahenge jabki un mein sabse behtar raaye waala kahega ke tum sirf ek hi din rahe the (104)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾

aur tum se pahado ko puchhte hain tum farmao unhein mera rab reza reza kar ke uda dega (105)

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾

to zameen ko patwar humwaar kar chhodega (106)

لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿١٠٧﴾

ke tu us mein neecha ooncha kuchh na dekhe (107)

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا

هَبْسًا ﴿١٠٨﴾

us din pukarne waale ke pichhe daudenge us mein kuji na hogi aur sab aawazein rahman ke huzoor past ho kar rah jayengi to tu na sunega magar bahut aahista aawaz (108)

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٠٩﴾

us din kisi ki shafa'at kaam na degi magar uski jisne rahman ne izn de diya hai aur uski baat pasand farmai (109)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

wo jaanta hai jo kuchh unke aage hai aur jo kuchh unke piche aur unka ilm use nahin gher sakta (110)

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾

aur sab moonh jhuk jayenge us zinda qaaim rakhne waale ke huzoor aur beshak namuraad raha jisne zulm ka bojh liya (111)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾

aur jo kuchh nek kaam kare aur ho musalman to use na zyadati ka khauf hoga na nuqsan ka (112)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ

يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾

aur yun hi humne ise arabi quraan utara aur is mein tarah tarah se azaab ke waade diye ke kahin unhein dar ho ya unke dil mein kuchh soch paida kare (113)

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

to sabse buland hai allah sachha badshah aur quran mein jaldi na karo jab tak uski wahih tumhein poori na ho le aur arz karo ke aye mere rab mujhe ilm zyada de (114)

وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

aur beshak humne adam ko isse pehle ek takeedi hukm diya tha to wo bhool gaya aur humne uska qasd

na paaya (115)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَى ۗ

aur jab humne firishto se farmaya ke adam ko sajda karo to sab sajde mein gire magar iblees usne na maana (116)

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۗ

to humne farmaya aye adam beshak ye tera aur teri bibi ka dushman hai to aisa na ho ke wo tum dono ko jannat se nikaal de phir tu mashaqqat mein pade (117)

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۗ

beshak tere liye jannat mein ye hai ke na tu bhooka ho na nanga ho (118)

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ۗ

aur ye ke tujhe na us mein pyaas lage na dhoop (119)

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبُلَى ۗ

to shaitan ne use waswasa diya bola aye adam kya main tumhein bata doon humesha jeene ka peda aur wo badshahi ke purani na pade (120)

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۗ

عَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ۗ

to un dono ne us mein se kha liya ab un par unki sharm ki cheezein zaahir hui aur jannat ke patte apne upar chipkane lage aur adam se apne rab ke hukm mein laghzish waaqeh hui to jo matlab chaha tha uski

raah na paai (121)

ثُمَّ اجْتَلَبَهُ رَبُّهُ فَتَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢١﴾

phir use uske rab ne chun liya to us par apni rahmat se ruju farmai aur apne qurbe khaas ki raah dikhai (122)

قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ فَمَا يُآيْتِكُمْ مِّنِّي هُدًىٰ ﴿١٢٢﴾

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾

farmaya ke tum dono mil kar jannat se utro tum mein ek dusre ka dushman hai phir agar tum sab ko meri taraf se hidayat aaye to jo meri hidayat ka pairu hua wo na behke na badbakht hua (123)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ۗ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾

aur jisne meri yaad se moonh phera to beshak uske liye tang zindgani hai aur hum use qiyamat ke din andha uthayenge (124)

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾

kahega aye rab mere mujhe tune kyun andha utahya main to ankhyara tha (125)

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴿١٢٦﴾

farmayega yun hi tere paas humari aayatein aai thi tune unhein bhula diya aur aise hi aaj teri koi khabar na lega (126)

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ۗ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ ۗ

أَبْقَىٰ ﴿١٢٧﴾

aur hum aisa hi badla dete hain jo hadd se badhe aur

apne rab ki aayato par imaan na laaye aur beshak aakhirat ka azaab sab se sakht tar aur sabse der pa hai
(127)

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ﴿١٢٧﴾

to kya unhein isse raah na mili ke ke humne unse pehle kitni sangatein halaak kar di ke ye unke basne ki jagah chalte phirte hain beshak is mein nishaniya hai aql waalon ko (128)

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

aur agar tumhare rab ki ek baat na guzar chuki hoti to zaroor azaab unhein lipat jaata aur agar na hota ek waada thehraya hua (129)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾

to unki baato par sabr karo aur apne rab ko sarahte hue uski paaki bolo suraj chamakne se pehle aur uske doobne se pehle aur raat ki ghadiyo mein uski paaki bolo aur din ke kinaro par is ummeed par ke tum raazi ho (130)

وَلَا تَبَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾

aur aye sunne waale apni aankhein na phaila uski taraf jo humne kafiro ke jodo ko baratne ke liye di hai jeeti

dunya ki taazgi ke hum unhein iske sabab fitna mein daalein aur tere rab ka rizq sabse achha aur sabse derpa hai (131)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَ

الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝۳۱

aur apne ghar waalo ko namaz ka hukm de aur khud is par saabit reh kuchh hum tujhse rozi nahin maangte hum tujhe rozi denge aur anjaam ka bhala parhezgari ke liye (132)

وَقَالُوا لَوْلَا يَا تِينَنَا بَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ أَوْ لَمَّا تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝۳۲

aur kafir bole ye apne rab ke paas se koi nishani kyun nahin laate aur unhein iska bayaan na aaya jo agle saheefo mein hai (133)

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ

آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْزَى ۝۳۳

aur agar hum unhein kisi azaab se halaak kar dete rasool ke aane se pehle to zaroor kehte aye humare rab tune humari taraf koi rasool kyun na bheja ke hum teri aayato par chalte qabal iske ke zaleel wa ruswa hote (134)

قُلْ كُلُّ مَّتْرِبٍصٍّ فَتَرَبِّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَن أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ

اهْتَدَى ۝۳۴

tum farmao sab raah dekh rahe hain to tum bhi raah dekho to ab jaan jaoge ke kaun hain seedhi raah waale

Satrahwa Paarah

Surah Ambiya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝

logon ka hisab nazdeeq aur wo ghaflat me muh fere hain.(1)

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝

jab usne rabb ke paas se unhen koi nayi naseehat aati hai to use nahi sunte magar khelte hue.(2)

لَا هِيَءَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسْرُوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِّثْلُكُمْ ۗ

أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَأَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝

unke dil khel me pade hain aur zalimo ne aapas me khufiya mushawrat ki ke ye kaun hain ek tum hi jaise aadmi to hain kya tum jaadu ke paas jate ho dekh bhal kar.(3)

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

nabi ne farmaya mera rabb janta hai aasmano aur zameen me har baat ko aur wahi hai sunta janta.(4)

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثٌ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۚ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ

الْأَوَّلُونَ ﴿٥﴾

balki bole pareshan khwaben hain balki unki gadhat hai balki ye shaayar hain to hamare paas koi nishani layen jaise agle bheje gaye the.(5)

مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۗ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

inse pehle koi basti imaan na layi jise humne halaak kiya to kya ye imaan layenge.(6)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

aur humne tumse pehle na bheje magar mard jinhe hum wahee karte to ay logon ilm walo se poochho agar tumhen ilm na ho.(7)

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾

aur humne unhen khali badan na banaya ke khana na khayen aur na wo duniya me hamesha rahen.(8)

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَّشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴿٩﴾

fir humne apna wada unhen saccha kar dikhaya to unhen najaat di aur jinko chahi aur hadd se badhne walon ko halaak kar diya.(9)

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

beshak humne tumhari taraf ek kitab utari jisme tumhari naamwari hai to kya tumhe aql nahi.(10)

وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿١١﴾

aur kitni hi bastiyan humne tabaah kar di ke wo sitamgar thi aur unke baad aur qaum paida ki.(11)

فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرِ كُضُونَ ﴿١١﴾

to jab unhone hamara azaab paya jabhi wo usse bhaagne lage.(12)

لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ﴿١٢﴾

na bhaago aur laut ke jao un aasaishon ki taraf jo tum ko di gayi aur apne makano ki taraf shayad tum se poochhna ho.(13)

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٣﴾

bole haye kharabi hamari beshak hum zalim the.(14)

فَبَارَأْتَ لِكُلِّ قَوْمٍ مِّثْلَهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِدِيبِينَ ﴿١٤﴾

to wo yahi pukarte rahe yahan tak ke humne unhe kar diya kaate hue bujhe hue.(15)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينَ ﴿١٥﴾

aur humne aasman aur zameen aur jo kuchh unke darmiyan hai abas na banaye.(16)

لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاتٍ لَّخَدْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا ۗ إِن كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٦﴾

agar hum koi behlawa ikhtiyar karna chahte to apne paas se ikhtiyar karte agar hume karna hota.(17)

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۗ وَ لَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا

تَصِفُونَ ﴿١٧﴾

balki hum haqq ko batil par fenk maarte hain to wo uska bheja nikal deta hai to jabbi wo mit kar reh jata

hai aur tumhari kharabi hai un baaton se jo banate ho.(18)

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ ۗ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿١٨﴾

aur usi ke hain jitne aasmano aur zameen me hain aur uske paas wale uski ibadat se takabbur nahi karte aur na thakte.(19)

يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿٢٠﴾

raat din uski paaki bolte baun aur susti nahi karte.(20)

اَمْ اتَّخَذُوا الْاِلٰهَةَ مِنَ الْاَرْضِ هُمْ يُنْشِرُوْنَ ﴿٢١﴾

kya unhone zameen me se kuchh aise khuda bana liye hain ke wo kuchh paida karte hain.(21)

لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا ۗ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٢٢﴾

agar aasman wa zameen me allah ke siwa aur khuda hote to zaroor wo tabaah ho jata to paki hai allah arsh ke malik ko un baaton se jo ye banate hain.(22)

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ ﴿٢٣﴾

usse nahi poochha jata jo wo kare aur un sabse sawal hoga.(23)

اَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُوْنِ الْاِلٰهَةِ قُلُوبًا ۗ اَنْتُمْ اَبْرَهٰنَ كُمْ ۗ هٰذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعٰى وَذِكْرٌ مِّنْ

قَبْلِي ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ الْحَقُّ فَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٢٤﴾

kya allah ke siwa aur khuda bana rakhe hain tum farmao apni daleel lao ye qur'an mere sath walo ka zikr hai aur mujhse aglon ka tazkira balki unme aksar haqq

ko nahi jante to wo rugardaan hain.(24)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٤﴾

aur humne tumse pehle koi rasool na bheja magar ye ke hum uski taraf wahee farmate ke mere siwa koi ma'bood nahi to mujhi ko poojo.(25)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٥﴾

aur bole rahman ne beta ikhtiyar kiya paak hai wo balki bande hain izzat wale.(26)

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾

baat me tumse sabaqat nahi karte aur wo usi ke hukm par karband hote hain.(27)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُشْفَعُونَ ۗ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ

خَشِيئَتَهُ ۚ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾

wo janta hai jo unke aage hai aur jo unke peechhe hai aur shafa'at nahi karte magar uske liye jise wo pasand farmaye aur wo uske khauf se darr rahe hain.(28)

وَمَنْ يَّعْلَمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ مِنْ دُونِهِ فذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي

الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

aur un me jo koi kahe ke mai allah ke siwa ma'abood hun to use hum jahannam ki jazaa denge, hum aisi hi saza dete hain sitamgaro ko.(29)

أَوْ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا

مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۗ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٩﴾

kya kafiron ne ye khayal na kiya ke aasman aur

zameen band the to humne unhein khola aur humne har jandar cheez pani se banayi to kya wo imaan na layenge.(30)

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ ۖ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾

aur zameen me humne langar daale ke unhe le kar na kaanpe aur humne isme kushada raahen rakhi ke kahin wo raaj payen.(31)

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفَقًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ أَيْتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣١﴾

aur humne aasman ko chhat banaya nigaah rakhi gayi aur wo uski nishaniyon se rugardaan hain.(32)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٢﴾

aur wahi hai jisne banaye raat aur din aur suraj aur chand har ek ek ghere me pair raha hai.(33)

وَمَا جَعَلْنَا لِلْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۗ أَفَأَنْتَ مِمَّنْ فَهْمُ الْخُلْدُونَ ﴿٣٣﴾

aur humne tum se pehle kisi aadmi ke liye duniya me hameshgi na banayi to kya agar tum inteqal farmao to ye hamesha rahenge.(34)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبَلُّوكُمُ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾

har jaan ko maut ka maza chakhna hai aur hum tumhari aazmaish karte hai burai aur bhalai se jaanchne ko aur hamari hi taraf tumhen laut kar aana hai.(35)

وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوءًا ۗ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۗ

هُمُ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿٣٦﴾

aur jab kafir tumhen dekhte hain to tumhen nahi thehrate magar thathta kya ye hain wo jo tumhare khudao ko bura kehte hain aur wo rahman hi ki yaad se munkir hain.(36)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ طَسَاوِرِكُمْ أَلَيْتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾

aadmi jaldbaaz banaya gaya ab mai tumhe apni nishaniyan dikhaunga mujhse jaldi na karo.(37)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

aur kehte hain kab hoga ye wada agar tum sacche ho.(38)

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ
لَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾

kisi tarah jante kafir us waqt ko jab na rok sakenge apne muhon se aag aur na apni peethon use aur na uski madad ho.(39)

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

balki wo un par achanak aa padegi to unhen be-hawas kar degi fir na wo use fer sakenge aur na unhen muhlat di jayegi.(40)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾

aur beshak tum se agle rasoolo ke sath thathta kiya gaya to maskhari karne walo ka thathta unhi ko le

baitha.(41)

قُلْ مَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ طَبَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٣١﴾

tum farmao shabana roz tumhari kaun nigezbani karta hai rahman se balki wo apne rab ki yaad se muh fere hain.(42)

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعَهُمْ مِّنْ دُونِنَا طَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا
يُضْحَبُونَ ﴿٣٢﴾

kya unke kuch khuda hain jo unko hum se bachate hain wo apni hi jaano ko nahi bacha sakte aur na hamari taraf se unki yaari ho.(43)

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ طَأَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ
نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا طَأَفَهُمُ الْغَلْبُونَ ﴿٣٣﴾

balki humne unko aur unke baap dada ko bartawa diya yahan tak ki zindagi un par daraz hui to kya nahi dekhte ki hum zameen ko uske kinaron se ghatate aa rahe hain to kya ye ghalib honge.(44)

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ طَوَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٣٤﴾

tum farmao ke mai tum ko sirf wahee se darata hun aur behre pukarna nahi sunte jab daraye jayen.(45)

وَلَكِنَّ مَسْئَلَهُمْ كَفْحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَؤْيُؤُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣٥﴾

aur agar unhen tumhare rabb ke azaab ki hawa chhoo jaye to zaroor kahenge haye kharabi hamari beshak hum zalim the.(46)

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾

aur hum adal ki tarazuyen rakhenge qiyamat ke din to kisi jaan par kuchh zulm na hoga aur agar koi cheez raai ke dane barabar hoto hum use le aayenge aur hum kafi hai hisab ko.(47)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

aur beshak humne musa aur haroon ko faisla diya aur ujala aur parhezgaron ko nasihat.(48)

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾

wo jo be-dekhe apne rabb se darate hain aur unhen qiyamat ka andesha laga hua hai.(49)

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۗ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

aur ye hai barkat wala zikr ke humne utara to kya tum iske munkir ho.(50)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ﴿٥١﴾

aur beshak humne ibrahim ko pehle hi se uski nek raah ata kar di aur hum us se khabardar the (51)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٥٢﴾

jab usne apne baap aur qaum se kaha ye mooratein kya hain jinke aage tum aasan maare ho (52)

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿٥٣﴾

bole humne apne baap dada ko inki puja karte paaya (53)

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٧﴾

kaha beshak tum aur tumhare baap dada sab khuli gumrahi mein ho (54)

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿٥٥﴾

bole kya tum humare paas haq laaye ho ya yunhi khelte ho (55)

قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ۗ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْمِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾

kaha balki tumhara rab wo hai jo rab hai aasmano aur zameen ka jisne inhein paida kiya aur main is par gawaho mein se hoon (56)

وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿٥٨﴾

aur mujhe allah ki qasam hai main tumhare buto ka bura chaunga baad iske ke tum phir jao peeth de kar (57)

فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٩﴾

to un sab ko choora kar diya magar ek ko jo un sab ka bada tha ke shayad wo usse kuchh puchhein (58)

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٠﴾

bole kis ne humare khudao ke saath ye kaam kiya beshak wo zalim hai (59)

قَالُوا سَبِعْنَا فَتَىٰ يَدُكَهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿٦١﴾

un mein ke kuchh bole humne ek jawaan ko unhein bura kehte suna jaise ibrahim kehte hain (60)

قَالُوا فَاتُوا بِهِ عَلَىٰ عَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿٦١﴾

bole to ise logon ke saamne laao shayad wo gawahi dein (61)

قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِالْهَيْتَانِ يَا بُرْهَيْمُ ﴿٦٢﴾

bole kya tum ne humare khudao ke saath ye kaam kiya aye ibrahim (62)

قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسَعَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿٦٣﴾

farmaya balki unke is bade ne kiya hoga to unse puchho agar bolte ho (63)

فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٤﴾

to apne jee ki taraf palte aur bole beshak tumhi sitamgaar ho (64)

ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ﴿٦٥﴾

phir apne saro ke bal aundhe gaye ke tumhein khoob maloom hai ye bolte nahin (65)

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿٦٦﴾

kaha to kya allah ke siwa aise ko poojte ho jo na tumhein nafa de aur na nuqsan pahunchaye (66)

أَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

tuff hai tum par aur un buto par jin ko allah ke siwa pujte ho to kya tumhein aql nahin (67)

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ ﴿٦٨﴾

bole un ko jila do aur apne khudai ki madad karo agar tumhein karna hai (68)

قُلْنَا إِنَّا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

humne farmaya aye aag ho thandi aur salamati
ibrahim par (69)

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾

aur unhone is ka bura chaha to humne unhein sab se
badh kar ziyaan kaar kar diya (70)

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾

aur humne use aur looth ko najaat bakhshi us zameen
ki taraf jis mein humne jahaan waalo ke liye barkat
rakhi (71)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

aur humne use is'haq ata farmaya aur yaqoob pota aur
humne un sab ko apne qurbe khaas ka sazawaar kiya
(72)

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَ

إِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۗ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٣﴾

aur humne unhein imam kiya ke humare hukm se
bulate hain aur humne unhein wahih bheji achhe
kaam karne aur namaz barpa rakhne aur zakaat dene
ki aur wo humari bandagi karte the (73)

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ۗ إِنَّهُمْ

كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فَمَسَقِينِ ﴿٧٤﴾

aur looth ko humne hukumat aur ilm diya aur use us
basti se najaat bakhshi jo gande kaam karti thi beshak

wo bure log be hukm the (74)

وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٧٤﴾

aur humne use apni rahmat mein dakhil kiya, beshak wo humare qurbe khaas ke sazawaaro mein hai (75)

وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾

aur nooh ko jab isse pehle usne humein pukara to hum ne us ki dua qabool ki aur use aur uske ghar waalo ko badi sakhti se najaat di (76)

وَنَصْرَنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿٧٦﴾

aur humne un logon par usko madad di jinhone humari aayatein jhutlaai beshak wo bure log the to humne un sab ko dubo diya (77)

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمُونَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ عَنَمُ الْقَوْمِ ؕ وَكُنَّا

لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٧﴾

aur dawood aur suleman ko yaad karo jab kheti ka ek jhagda chukate the jab raat ko us mein kuchh logon ki bakriya chhooti aur hum un ke hukm ke waqt haazir the (78)

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ؕ وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ

وَالطَّيْرَ ۗ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٧٨﴾

hum ne wo muamla suleman ko samjha diya aur dono ko hukumat aur ilm ata kiya aur dawood ke saath pahaad musakkhar farma diye ke tasbeeh karte aur

parinde aur ye humare kaam the (79)

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيَتَّخِذَ كُمْ مِّنْ بَاسِكُمْ ؕ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٧٩﴾

aur humne use tumhara ek pehnawa banana sikhaya ke tumhein tumhari aanch se bachaye to kya tum shukr karoge (80)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٨٠﴾

aur suleman ke liye tez hawa musakkhar kar di ke uske hukm se chalti us zameen ki taraf jis mein humne barkat rakhi aur hum ko har cheez maloom hai (81)

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَن يَغْوُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمُ

حَافِظِينَ ﴿٨١﴾

aur shaitano mein se wo jo uske liye ghoti lagate aur uske siwa aur kaam karte aur hum unhein roke hue the (82)

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٢﴾

aur ayyub ko jab usne apne rab ko pukara ke mujhe takleef pahunchi aur tu sab mehar waalo se badh kar mehar waala hai (83)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ

عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٣﴾

to humne uski dua sun li to humne door kar di jo takleef use thi aur humne use uske ghar waale aur unke saath utne hi aur ata kiye apne paas se rahmat

farma kar aur bandagi waalo ke liye naseehat (84)

وَإِسْلَعِيْلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٤﴾

aur ismayeel aur idrees aur zulkifl ko wo sab sabr waale the (85)

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾

aur unhein humne apni rahmat mein dakhil kiya beshak wo humare qurbe khaas ke sazararo mein hain (86)

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٦﴾

aur zunnoon ko jab chala ghussa mein bhara to gumaan kiya ke hum us par tangi na karenge to andheriyo mein pukara koi mabood nahin siwa tere paaki hai tujh ko beshak mujhse be ja hua (87)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْيُسْرَ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٨٧﴾

to humne uski pukaar sun li aur use gham se najaat bakhshi aur aisi hi najaat denge musalman ko (88)

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ۖ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٨﴾

aur zakariya ko jab usne apne rab ko pukara aye mere rab mujhe akela na chhod aur tu sab se behtar waris (89)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ الْيُحْيَىٰ ۖ وَاصْلَحْنَاهُ ۖ زَوْجَهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي

الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٨٩﴾

to humne uski dua qabool ki aur use yahya ata

farmaya aur uske liye uski bibi sanwari beshak wo bhale kaamo mein jaldi karte the aur humein pukarte ummeed aur khauf se aur humare huzoor gidgirate hain (90)

وَالَّتِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً
لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

aur us aurat ko jisne apni parsai nigah rakhi to hum ne us mein apni rooh phoonki aur use aur uske bete ko saare jahaan ke liye nishani banaya (91)

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩١﴾

beshak tumhara ye ek hi deen hai aur main tumhara rab hoon to meri ibadat karo (92)

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ الِّينَا رِجْعُونَ ﴿٩٢﴾

aur auro ne apne kaam aapas mein tukde tukde kar liye sab ko humari taraf phirna hai (93)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ۗ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٣﴾

to jo kuchh bhale kaam kare aur ho imaan waala to uski koshish ki beqadri nahin aur hum use likh rahe hain (94)

وَ حَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٩٤﴾

aur haraam hai us basti par jise humne halaak kar diya ke phir laut kar aayein (95)

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿٩٥﴾

yahan tak ke jab khole jayenge yajooj majooj aur wo

har bulandi se dhalakte honge (96)

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدَ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يَوِيلًا كُنَّا فِي
غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٦﴾

aur qareeb aaya sachha waada to kabhi aankhein phat
kar reh jayengi kafiro ki ke haaye humari kharabi
beshak hum us se ghaflat mein the balki hum zalim the
(97)

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ ۖ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿٩٨﴾

beshak tum aur jo kuchh allah ke siwa tum pujte ho
sab jahannam ke indhan ho tumhein us mein jaana
(98)

لَوْ كَانَ هُوَ لِآءِ إِلَهَةٍ مَّا وَّرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾

agar ye khuda hote jahannam mein na jaate aur in sab
ko humesha us mein rehna (99)

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾

wo us mein renkenge aur wo us mein kuchh na
sunenge (100)

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾

beshak wo jin ke liye humara waada bhalai ka ho
chuka wo jahannam se door rakhe gaye hain (101)

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾

wo uski bhanak sunenge aur wo apni man maanti
khwahisho mein humesha rahenge (102)

لَا يَحْرُغُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۖ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ

تُوْعَدُونَ ﴿١٠٣﴾

unhein gham mein na daalegi wo sab se badi ghabrahat aur firishte unki peshwai ko aayenge ke ye be tumhara wo din jis ka tumse waada tha (103)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ۖ وَعَدًّا

عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ ﴿١٠٤﴾

jis din hum aasman ko lapetenge jaise sijil firishta naama amal ko lapet'ta hai hum ne jaise pehle use banaya tha waise hi phir kar denge ye waada hai humare zimma hum ko iska zaroor karna (104)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

aur beshak humne zuboore mein naseehat ke baad likh diya ke is zameen ke waris mere nek bande honge (105)

إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿١٠٦﴾

beshak ye quran kaafi hai ibadat waalo ko (106)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

aur humne tumhein na bheja magar rahmat saare jahaan ke liye (107)

قُلْ إِنِّي أُوْحَىٰ إِلَىٰ أَنبِيَآءِ الْهَكْمِ إِلَهٍ وَآحِدٍ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

tum farmao mujhe to yahi wahih hoti hai ke tumhara khuda nahin magar ek allah to kya tum musalman hote ho (108)

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَدْنَيْكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ وَإِن آدْرِيٓ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾

phir agar wo moonh pherein to farma do maine tumhein ladai ka ailan kar diya barabari par aur main kya jaanu ke paas hai ya door hai wo jo tumhein waada diya jaata hai (109)

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١٠٩﴾

beshak allah jaanta hai aawaz ki baat aur jaanta hai jo tum chhupate ho (110)

وَإِنْ أَدْرَىٰ لَعَلَّةَ فِتْنَتِكُمْ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١٠﴾

aur main kya jaanu shayad wo tumhari jaanch ho aur ek waqt tak baratwana (111)

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١١﴾

nabi ne arz ki ke aye mere rab haq faisla farma de aur humare rab rahman hi ki madad darkar hai un baato par jo tum batate ho (112)

Surah Hajj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾

aye logo apne rab se daro beshak qiyamat ka zalzala badi sakht cheez hai (1)

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى

النَّاسُ سُكْرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكْرَىٰ ۚ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾

jis din tum use dekhoge har doodh pilane waali apne doodh peete ko bhool jayegi aur har gabhini apna gaabh daal degi aur tu logon ko dekhega jaise nasha mein hain aur wo nasha mein na honge magar hai ye ke allah ki maar kadi hai (2)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝

aur kuchh log wo hain ke allah ke muamla mein jhagadte hain be jaane boojhe aur har sarkash shaitan ke pichhe ho lete hain (3)

كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

jis par likh diya gaya hai ke jo uski dosti karega to ye zaroor use gumrah kar dega aur use azaabe dozakh ki raah batayega (4)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ

ثُمَّ مِّن عَاقِلَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي

الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ۚ وَ

مِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرْدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ

شَيْئًا ۗ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ

مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

aye logon agar tumhein qiyamat ke din jeene mein kuchh shak ho to ye ghaur karo ke humne tumhein paida kiya mitti ki phatak se phir gosht ki boti se naqsha bani aur be bani taaki hum tumhare liye apni nishaniya zaahir farmayein aur hum thehraye rakhte

hain maao ke pet mein jise chahein ek muqarrar miyaad tak phir tumhein nikaalte hain bachha phir isliye ke tum apni jawani ko pahuncho aur tum mein koi pehle hi mar jaata hai aur koi sab mein nikammi umr tak daala jaata hai ke janne ke baad kuchh na jaane aur tu zameen ko dekhe murjhai hui phir jab hum ne us par paani utara taro taaza hui aur ubhar aai aur har raunaq daar joda ugaai laai (5)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ye isliye hai ke allah hi haq hai aur ye ke wo murde jilayega aur ye ke wo sab kuchh kar sakta hai (6)

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

aur isliye ke qiyamat aane waali is mein kuchh shak nahin aur ye ke allah uthayega unhein jo qabro mein hain (7)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًىٰ وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝

aur koi aadmi wo hai ke allah ke baare mein yun jhagadta hai ke na to ilm na koi daleel aur na koi raushan noshta (8)

ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَذَابِ الْحَرِيقِ ۝

haq se apni gardan mode hue taaki allah ki raah se behka de uske liye dunya mein ruswai hai aur qiyamat ke din hum use aag ka azaab chakhayenge (9)

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝

ye us ka badla hai jo tere haatho ne aage bheja aur
allah bando par zulm nahin karta (10)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ
أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ
الْبُيِّنُ ۝

aur kuchh aadmi allah ki bandagi ek kinara par karte
hain phir agar unhein koi bhalai ban gai jab to chain se
hain aur jab koi jaanch aa padi moonh ke bal palat
gaye dunya aur aakhirat dono ka ghaata yahi hai
sareeh nuqsan (11)

يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا نُنْفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝

allah ke siwa aise ko pujte hain jo unka bura bhala
kuchh na kare yahi hai door ki gumrahi (12)

يَدْعُوا لِمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۗ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلِئْسَ الْعَشِيرُ ۝

aise ko pujte hain jis ke nafa se nuqsan ki tawaqqo
zyada hai beshak kya hi bura maula aur beshak kya hi
bura rafeeq (13)

إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ
إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝

beshak allah dakhil karega unhein jo imaan laaye aur
bhale kaam kiye baagho mein jin ke niche nehrein
rawaan beshak allah karta hai jo chahe (14)

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمِذْذُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ
ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ۝

jo ye khayaal karta ho ke allah apne nabi ki madad na farmayega dunya aur aakhirat mein to use chahiye ke upar ko ek rassi taane phir apne aap ko phansi de le phir dekhe ke uska ye daanw kuchh le gaya is baat ko jiski use jalan hai (15)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿١٥﴾

aur baat yahi hai ke humne ye quran utara raushan aayatein aur ye ke allah raah deta hai jise chahe (16)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٦﴾

beshak musalman aur yahoodi aur sitara parast aur nasrani aur aatish parast aur mushrik beshak allah in sab mein qiyamat ke din faisla karega beshak har cheez allah ke samne hai (17)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۖ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿١٧﴾

kya tum ne na dekha ke allah ke liye sajda karte hain wo jo aasmano aur zameen mein hain aur suraj aur chand aur taare aur pahaad aur darakht aur chaupaye aur bahut aadmi wo hain jin par azaab muqarrar ho chuka aur jise allah zaleel kare use koi izzat dene waala nahin beshak allah jo chahe kare (18-sajda)

ye aayate sajda hai

هَذَانِ خَصَصْنِ احْتَصَصُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۖ
يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾

ye do fareeq hain ke apne rab mein jhagde to jo kafir hue un ke liye aag ke kapde byonte gaye hain aur unke saro par khaulta hua paani daala jayega (19)

يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾

jis se gal jayega jo kuchh un ke peto mein hai aur unki khaalein (20)

وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

aur unke liye lohe ke gurz hain (21)

كَلَّمَآرَادُوا أَن يَخْرِجُوا مِنْهَا مَنَ عَمِيدٌ وَأَفِيهَا ۖ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾

jab ghutan ke sabab us mein se nikalna chahenge phir us mein louta diye jayenge aur hukm hoga ke chakho aag ka azaab (22)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾

beshak allah dakhil karega unhein jo imaan laaye aur achhe kaam kiye bahishto mein jinke niche nehrein bahein us mein pehnaye jayenge sone ke kangan aur moti aur wahan unki poshak resham hai (23)

وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطٍ الْحَمِيدِ ﴿٢٤﴾

aur unhein pakeeza baat ki hidayat ki gai aur sab khoobiyo ki raah batai gai (24)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ

لِلنَّاسِ سَوَاءٌ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِأِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ
عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

beshak wo jinhone kufr kiya aur rokthe hain allah ki raah aur us adab waali masjid se jise humne sab logon ke liye muqarrar kiya ke is mein ek sa haq hai wahan ke rehne waale aur pardesi ka auekr jo us mein kisi zyadati ka nahaq irada kare hum use dardnak azaab chakhayenge (25)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿٢٦﴾

aur jab ke humne ibrahim ko us ghar ka thikana theek bata diya aur hukm diya ke mera koi shareek na kar aur mera ghar suthra rakh tawaaf waalo aur etikaf waalo aur ruku sajde waalo ke liye (26)

وَآذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾
aur logon mein hajj ki aam nida kar de wo tere paas haazir honge pyada aur har dubli oontni par ke har door ki raah se aati hain (27)

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَآرَزِ قُهُمْ مِنْ
بَيْبِئَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

taaki wo apna faida paayein aur allah ka naam lein jaane hue dino mein is par ke unhein rozi di be zuban chaupaye to un mein se khud khaao aur musibat zada muhtaj ko khilao (28)

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾

phir apna mail kuchail utarein aur apni mannatein
poori karein aur us aazad ghar ka taraf karein (29)

ذَلِكَ ۚ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأَحَلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامَ

إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿٣٠﴾

baat ye hai aur jo allah ki hurmato ki tazeem kare to
wo uske liye uske rab ke yahan bhala hai aur tumhare
liye halaal kiye gaye be zubaan chaupaye siwa unke
jinki mumanat tum par padhi jaati hai to door ho buto
ki gandagi se aur bacho jhooti baat se (30)

حُنْفَاءَ اللَّهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ بِهِ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ خَرًّا مِنَ السَّمَاءِ

فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾

ek allah ke ho kar ke uska saajhi kisi ko na karo aur jo
allah ka shareek kare wo goya gira aasman se ke
parinde use uchak le jaate hain ya hawa use kisi door
jagah phenkti hai (31)

ذَلِكَ ۚ وَمَنْ يُعْظَمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

baat ye hai aur allah ke nishano ki tazeem kare to ye
dilo ki parhezgari se hai (32)

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾

tumhare liye chaupayo mein faide hain ek muqarrar
miyaad tak phir unka pahunchna hai is aazad ghar tak
(33)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ط

فَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ فَلَهُ اسْلِمُوا ٥ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٥

aur har ummat ke liye humne ek qurbani muqarrar farmai ke allah ka naam lein uske diye hue be zuban chaupayo par to tumhara mabood ek mabood hai to usi ke huzoor gardan rakho aur aye mahboob khushi suna do un tawaazo waalo ko (34)

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٥

ke jab allah ka zikr hota hai unke dil darne lagte hain aur jo iftaad pade uske sehne waale aur namaz barpa rakhne waale aur humare diye hue se kharch karte hain (35)

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ ٥ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ٥ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعِ وَالْمُعْتَرَّ ٥ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥

aur qurbani ke deeldaar janwar oont aur gaaye humne tumhare liye allah ki nishaniyo se kiye tumhare liye un mein bhalai hai to un par allah ka naam lo ek paaon bandhe teen pao se khade phir jab unki karwatein gir jaayein to un mein se khud khaao aur sabr se baithne waale aur bheek mangne waale ko khilao humne yun hi unko tumhare bas mein de diya ke tum ehsan maano (36)

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ٥ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

لَكُمْ لِيَتَكَبَّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

allah ko hargiz na unke gosht pahunchte hain na unke khoon haan tumhari parhezgari us tak baryaab hoti hai yun un ko tumhare bas mein kar diya ke tum allah ki badai bolo is par ke tum ko hidayat farmai aur aye mahboob khushkhabri sunao neki waalo ko (37)

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

beshak allah balayein taalta hai musalmano ki beshak allah dost nahin rakhta har bade daghabaz nashukre ko (38)

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

parwangi ata hui unhein jinse kafir ladte hain is bina par ke un par zulm hua aur beshak allah unki madad karne par zaroor qadir hai (39)

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا

اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

wo jo apne gharo se nahaq nikaale gaye sirf itni baat par ke unhone kaha humara rab allah hai aur allah agar aadmiyo mein ek ko dusre se dafa na farmata to zaroor dhaa di jaati khanqahein aur girja aur kaleesa aur masjidain jin mein allah ka ba kasrat naam liya jaata hai aur beshak allah zaroor madad farmayega uski jo uske deen ki madad karega beshak zaroor allah qudrat waala ghalib hai (40)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَ
نَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ ۗ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

wo log ke agar hum unhein zameen mein qaabu dein
to namaz barpa rakhein aur zakat dein aur bhalai ka
hukm karein aur burai se rokein aur allah hi ke liye sab
kaamo ka anjaam (41)

وَإِن يُكذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ﴿٤٢﴾

aur agar ye tumhari takzeeb karte hain to beshak inse
pehle jhutla chuki hai nooh ki qaum aur aad aur
samood (42)

وَ قَوْمُ اِبْرٰهِيْمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٣﴾

aur ibrahim ki qaum aur looth ki qaum (43)

وَ اَصْحٰبُ مَدْيَنَ ۚ وَ كَذَّبَ مُوسٰى فَاَمْلَيْتُ لِّلْكَافِرِيْنَ ثُمَّ اَخَذْتَهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ

نَكِيْرٍ ﴿٤٤﴾

aur madain waale aur moosa ki takzeeb hui to maine
kafiro ko dheel di phir unhein pakda to kaisa hua mera
azaab (44)

فَكَاَيِّنُ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا وَ هِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَ بُرٍ مُّعْتَظَلَةٌ وَ

قَصْرِ مَّشِيْدٍ ﴿٤٥﴾

aur kitni hi bastiya humne khapa di ke wo sitamgaar
thi ab wo apni chhato par dhai padi hain aur kitnein
kunwein bekaar pade aur kitne mehal gach kiye hue
(45)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ
فَإِنَّهَا لَا تَعْيَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْيَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾

to kya zameen mein na chale ke unke dil ho jinse samjhein ya kaan ho jinse sunein to ye ke aankhein andhi nahin hoti balki wo dil andhe hote hain jo seeno mein hain (46)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۗ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ
سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾

aur ye tumse azaab mangne mein jaldi karte hain aur allah hargiz apna waada jhoota na karega aur beshak tumhare rab ke yahan ek din aisa hai jaise tum logon ki ginti mein hazaar baras (47)

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا ۗ وَالِىَّ الْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

aur kitni bastiya ke humne unko dheel di is haal par ke wo sitamgaar thi phir maine unhein pakda aur meri hi taraf palat kar aana hai (48)

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٤٩﴾

tum farma do ke aye logo! main to yahi tumhare liye sareeh dar sunane waala hoon (49)

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۗ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾

to jo imaan laaye aur achhe kaam kiye unke liye bakhshish hai aur izzat ki rozi (50)

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٥١﴾

aur wo jo koshish karte hain humari aayato mein haar

jeet ke irada se wo jahannami hain (51)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ۖ
فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾

aur humne tumse pehle jitne rasool ya nabi bheje sab par ye waqiya guzra hai ke jab unhone padha to shaitan ne unke padhne mein logon par kuchh apni taraf se mila diya to mita deta hai allah us shaitan ke daale hue ko phir allah apni aayatein pakki kar deta hai aur allah ilmo hikmat waala hai (52)

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ
إِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

taaki shaitan ke daale hue ko fitna kar de unke liye jinke dilo mein beemari hai jinke dil sakht hain aur beshak sitamgaar dhurke jhagdalu hain (53)

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ
وَإِنَّ اللَّهَ لَهُدٍ الْذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٣﴾

aur isliye ke jaan lein wo jinko ilm mila hai ke wo tumhare rab ke paas se haq hai to us par imaan laayein to jhuk jaayein uske liye unke dil aur beshak allah imaan waalo ko seedhi raah chalane waala hai

(54)

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٤﴾

aur kafir isse humesha shak mein rahenge yahan tak

ke un par qiyamat aa jaaye achanak ya un par aise din ka azaab aaye jiska phal unke liye kuchh achha na ho

(55)

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَأَلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ

النَّعِيمِ ﴿٥٥﴾

badshahi us din allah ki hai wo un mein faisla kar dega to jo imaan laaye aur achhe kaam kiye wo chain ke baagho mein hain (56)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٦﴾

aur jinhone kufr kiya aur humari aayatein jhutlaai unke liye zillat ka azaab hai (57)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا ۗ وَ

إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ﴿٥٧﴾

aur wo jinhone allah ki raah mein apne ghar baar chhode phir maare gaye ya mar gaye to allah zaroor unhein achhi rozi dega aur beshak allah ki rozi sabse behtar hai (58)

لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

zaroor unhein aisi jagah le jayega jise wo pasand lagenge aur beshak allah ilm aur hilm waala hai (59)

ذَٰلِكَ ۗ وَمَنْ عَاقَبَ بِبِئْسَلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ۗ ثُمَّ يُغْنِي عَلَيْهِ لَيْصُرَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ

عَفُوفٌ ﴿٥٩﴾

baat ye hai aur jo badla le jaisi takleef pahunchai gai thi phir us par zyadati ki jaaye to beshak allah uski madad

farmayega beshak allah muaaf karne waala bakhshne
waala hai (60)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ ﴿٦٠﴾

ye isliye ke allah ta'ala raat ko daalta hai din ke hissa
mein aur din ko laata hai raat ke hissa mein aur isliye
ke allah sunta dekhta hai (61)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرُ ﴿٦١﴾

ye isliye ke allah hi haq hai aur uske siwa jise pujte hain
wahi batil hai aur isliye ke allah hi bulandi badai waala
hai (62)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ

خَبِيرٌ ﴿٦٢﴾

kya tune na dekha ke allah ne aasman se paani utara
to subah ko zameen haryali ho gai beshak allah paak
khabardar hai (63)

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٣﴾

usi ka maal hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo
kuchh zameen mein hai aur beshak allah hi hai be
niyaaz sab khoobiyo saraha hai (64)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَ
يُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ

رَحِيمٌ ﴿٦٤﴾

kya tune na dekha ke allah ne tumhare bas mein kar diya jo kuchh zameen mein hai aur kashti ke darya mein uske hukm se chalti hai aur wo roke hue hai aasman ko ke zameen par na gir pade magar uske hukm se beshak allah aadmiyo par badi muhar waala meharbaan hai (65)

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٥﴾

aur wahi hai jisne tumhein zinda kiya phir tumhein maarega phir tumhein jilayega beshak aadmi bada nashukra hai (66)

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَارِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَاذْعُرْ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٦﴾

har ummat ke liye humne ibadat ke qaide bana diye ke wo un par chale to hargiz wo tumse is muamla mein jhagda na karein aur apne rab ki taraf bulao beshak tum seedhi raah par ho (67)

وَإِنْ جَدَلُواكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٧﴾

aur agar wo tum se jhagdein to farma do ke allah khoob jaanta hai tumhare kotak (68)

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٨﴾

allah tum mein faisla kar dega qiyamat ke din jis baat mein ikhtelaf kar rahe ho (69)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦٩﴾

kya tune na jaana ke allah jaanta hai jo kuchh aasmano
aur zameen mein hai beshak ye sab ek kitab mein hai
beshak ye allah par aasan hai (70)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٧٠﴾

aur allah ke siwa aisi ko pujte hain jinki koi sanad usne
na utari aur aisi ko jin ka khud unhein kuchh ilm nahin
aur sitamgaaro ka koi madadgaar nahin (71)

وَإِذَا تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ نَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ۚ يَكَادُونَ
يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ۗ قُلْ أَفَأَنْتُمْ تُبَشِّرُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِالنَّارِ ۗ وَعَدَاهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَبئس المرصرون ﴿٧١﴾

aur jab un par humari raushan aayatein padhi jaayein
to tum unke chehro par bigadne ke aasar dekhoge
jinhone kufr kiya qareeb hai ke lipat padein unko jo
humari aayatein un par padhte hain tum farma do kya
main tumhein bata doon jo tumhare is haal se bhi
badtar hai wo aag hai allah ne uska waada diya hai
kafiro ko aur kya hi buri palatne ki jagah (72)

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ ۚ فَاذْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ
يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۗ
ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمُتَطَلِّبِ ﴿٧٢﴾

aye logon! ek kahawat farmai jaati hai use kaan laga
kar suno wo jinhein tum allah ke siwa pujte ho ek
makkhi na bana sakege agarche sab us par ikatthe ho

jaayein aur agar makkhi unse kuchh chheen kar le jaaye to usse jhagda na sakein kitna kamzor chahne waala aur wo jisko chaha (73)

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٣﴾

allah ki qadr na jaani jaisi chahiye thi beshak allah quwwat waala ghalib hai (74)

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٧٤﴾

allah chun leta hai firishto mein se rasool aur aadmiyo mein se beshak allah sunta dekhta hai (75)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٧٥﴾

janta hai jo unke aage hai aur jo unke pichhe hai aur sab kaamo ki ruju allah ki taraf hai (76)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا ۖ اسْجُدُوا ۖ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۖ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٧٦﴾

aye imaan waalo! ruku aur sajda karo aur apne rab ki bandagi karo aur bhale kaam karo is ummeed par ke tumhein chhutkara ho (77-sajda)

ye aayate sajda hai

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجٍ ۗ طَمَّئِنَّ قُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ هُوَ سَبِّحُ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٧﴾ مِنْ قَبْلُ ۗ وَفِي هَذَا

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۗ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

aur allah ki raah mein jihad karo jaisa haq hai jihad karne ka usne tumhein pasand kiya aur tum par deen

mein kuchh tangi na rakhi tumhare baap ibrahim ka deen allah ne tumhara naam musalman rakha hai agli kitabo mein aur is quran mein taaki rasool tumhara nighban wa gawah ho aur tum aur logon par gawahi do to namaz barpa rakho aur zakat do aur allah ki rassi mazboot thaam lo wo tumhara maula hai to kya hi achha maula aur kya hi achha madadgaar (78)

Attharahwa Paarah

Surah Mominoon

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat wala.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

beshak murad ko pahuche imaan wale.(1)

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۝

jo apni namaz me gidgirate hain.(2)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

aur wo jo kisi behuda baat ki taraf iltifaat nahi karte.(3)

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝

aur wo ke zakat dene ka kaam karte hain.(4)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَفِظُونَ ۝

aur wo jo apni sharmgaho ki hifazat karte hain.(5)

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

magar apni biviyon ya shar'ee bandiyon par jo unke hath ki milk hai ke un par koi malammat nahi.(6)

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝

to jo un do ke siwa kuchh aur chahe wahi hadd se badhne wale hain.(7)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝

aur wo jo apni amaanton aur apne ahad ki riayat karte hain.(8)

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝

aur wo jo apni namazon ki nighbani karte hain.(9)

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝

yahi log waris hain.(10)

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ke firdaus ki miras payenge wo usme hamesha rahenge(11)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝

aur beshak humne aadmi ko chini hui mitti se banaya (12)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝

fir use pani ki boond kiya ek mazboot thehrao me(13)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا

الْعِظْمَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

fir humne us pani ki boond ko khoon ki phatak kiya fir khoon ki phatak ko gosht ki boli fir gosht ki boti ko haddiya, fir un haddiyon par gosht pehnaya, fir use aur surat me uthan di to badi barkat wala hai allah, sabse behtar banane wala hai(14)

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٤﴾

fir uske baad tum zaroor marne wale ho(15)

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٥﴾

fir tum sab qiyamat ke din uthaye jaoge(16)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۗ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿١٦﴾

aur beshak humne tumhare upar saat(7) raahe banayi aur hum khalq se bekhabar nahi(17)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنْتَهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَا

لَقَادِرُونَ ﴿١٧﴾

aur humne aasman se pani utara ek andaza par fir use zameen me thehraya aur beshak hum uske le jane par qadir hain(18)

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ۖ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ ﴿١٨﴾

to usse humne tunhare baagh paida kiye khajooron aor angooron ke tumhare liye usme bahut se mewe hain aur unme se khate ho(19)

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ۖ وَصِبْغٍ لِلَّالِئِينَ ﴿١٩﴾

aur wo ped paida kiya ki toor-e-seena se nikalta hai le

kar ugta hai tel aur khane walo ke liye saalan(20)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٠﴾

aur beshak tumhare liye chaupayon me samjhne ka maqam hai hum tumhen pilate hain usme se jo unke pet me hai aur tumhare liye unme bahut fayde hain aur unse tumhari khurak hai(21)

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢١﴾

aur un par aur kashti par sawaar kiye jate ho (22)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ ۖ

أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

aur beshak humne nooh ko uski qaum ki taraf bheja usne kaha ay meri qaum allah ko poojo uske siwa tumhara koi khuda nahi, to kya tumhen darr nahi(23)

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ

عَلَيْكُمْ ۗ وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ۚ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ ﴿٢٣﴾

to uski qaum ke jin sardaron ne kufr kiya bole ye to nahi magar tum jaisa aadmi chahta hai ki tumhara bada bane aur allah chahta to firishte utarta humne to ye apne agle baap dadao me na suna(24)

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فُتَرَبِّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾

wo to nahi magar ek diwana mard to kuchh zamane tak uska intezaar kiye raho(25)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَدَّبُونِ ﴿٢٥﴾

nooh ne arz ki ay mere rabb meri madad farma is par
ki unhone mujhe jhuthlaya(26)

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ ۗ
فَأَسْلَكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَاطِنًا ۗ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ
وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٦﴾

to humne use wahee bheji ki humari nigaah ke samne
aur humare hukm se kashti bana fir jab humara hukm
aaye aur tannoor uble to usme bitha le har jode me se
do aur apne ghar wale magar unme se wo jin par baat
pehle pad chuki aur un zalimo ke muamle me mujhe
se baat na karna ye zaroor duboye jayenge(27)

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّسَنَا مِنَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٧﴾

fir jab theek baithe kashti par tu aur tere sath wale to
keh sab khoobiyen allah ko jisne hume un zalimo se
najaat di(28)

وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا ۚ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾

aur arz kar ke ay mere rabb mujhe barakat wali jagah
utaar aur tu sabse behtar utarne wala hai(29)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۖ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٢٩﴾

beshak isme zaroor nishaniyan hain aur beshak zaroor
hun jaanchne wale the(30)

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٣٠﴾

phir unke baad humne aur sangat paida ki(31)

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا

تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾

to unme ek rasool unhin me se bheja ke allah ki bandagi karo uske siwa tumhara koi khuda nahi to kya tumhen darr nahi(32)

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلقَاءِ الْأخِرَةِ وَاتَّرفُلُهُمْ فِي

الْحَيوةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا

تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾

aur bole us qaum ke sardar jinhone kufr kiya aur akhiraat ki haazri ko jhutlaya aur humne unhe duniya ki zindagi me chain diya ke ye to nahi magar tum jaisa aadmi jo tum khate ho usi me se khata hai aur jo tum peete ho usi me se peeta hai(33)

وَلَيْنُ اطَّعْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخُسِرُونَ ﴿٣٤﴾

aur agar tum kisi apne jaise aadmi ki ita'at karo jab to tum zaroor ghaate me ho(34)

أَيَعِدُّكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾

kya tumhe ye wada deta hai ke tum jab mar jaoge aur mitti aur haddi ho jaoge uske baad fir nikale jaoge(35)

هَيِّهَاتَ هَيِّهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾

kitni door hai kitni door hai jo tumhen wada diya jata hai(36)

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثِينَ ﴿٣٧﴾

wo to nahi magar hamari duniya ki zindagi ke hum

marte jeete hain aur hume uthna nahi(37)

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٧﴾

wo to nahi magar ek mard jisne allah par jhooth
baandha aur hum use manne ke nahi(38)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٨﴾

arz ki ke ay mere rabb meri madad farma is par ke
unhone mujhe jhuthlaya(39)

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نَدِمِينَ ﴿٣٩﴾

allah ne farmaya kuchh der jati hai ke ye subah
karenge pachhtate hue(40)

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ۖ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

to unhen aa liya sacchi chinghaad ne to humne unhen
ghaas kooda kar diya to door hon zalim log(41)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٤١﴾

fir unke baad humne aur sangate paida ki(42)

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٢﴾

koi ummat apni miaad se na pehle jaye na peechhe
rahe(43)

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۗ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَ

جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٣﴾

fir humne apne rasool bheje ek peechhe dusra, jab kisi
ummat ke paas uska rasool aaya unhone use jhuthlaya
to humne aglon se pichhle mila diye aur unhen
kahaniyan kar dala to door hon wo log ke imaan nahi

late(44)

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٤﴾

fir humne musa aur uske bhai haroon ko apni aayaton aur raushan sanad ke sath bheja(45)

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عٰلِينَ ﴿٤٥﴾

firaun aur uske darbariyon ki taraf to unhone guroor kiya aur wo log galba paye hue the(46)

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبْدُونَ ﴿٤٦﴾

to bole kya hum imaan le aayen apne jaise do aadmiyon par aur unki qaum hamari bandagi kar rahi hai(47)

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿٤٧﴾

to unhone un dono ko jhuthlaya to halak kiye hue me ho gaye(48)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٨﴾

aur beshak humne musa ko kitab ataa farmayi ke unko hidayat ho(49)

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٤٩﴾

aur humne maryam aur uske bete ko nishani kiya aur humne thikana diya ek buland zameen jahan basne ka maqaam aur nigaah ke samne behta pani(50)

يٰٓأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوٰ مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوا صٰلِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾

ay paighambaro pakiza cheezen khao aur accha kaam karo, mai tumhare kaamo ko janta hun(51)

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

aur beshak ye tumhara deen ek hi deen hai aur mai tumhara rabb hun to mujh se daro(52)

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

to unki ummato ne apna kaam aapas me tukde tukde kar liya har giroh jo uske paas hai us par khush hai(53)

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

to tum unko chhod do unke nashe me ek waqt tak(54)

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿٥٥﴾

kya ye khayal kar rahe hain ke wo jo hum unki madad kar rahe hain maal aur beton se(55)

نَسَارِعَ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ط بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

ye jald jald unko bhalaiyan dete hain balki unhen khabar nahi(56)

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

beshak wo jo apne rabb ke dar se sehme hue hain(57)

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

aur wo jo apne rabb ki aayato par imaan late hain(58)

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

aur wo ko apne rabb ka koi shareek nahi karte(59)

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

aur wo jo dete hai jo kuchh den aur unke dil darr rahe hain yun ke unko apne rabb ki taraf firna hai(60)

أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

ye log bhalaiyon me jaldi karte hain aur yahi sabse pehle unhe pahuche(61)

وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

aur hum kisi jaan par bojh nahi rakhte magar uski taaqat bhar aur hamare paas ek kitab hai ke haqq bolti hai aur un par zulm na hoga(62)

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٣﴾

balki unke dil usse ghaflat me hai aur unke kaam un kaamo se juda hai jinhen wo kar rahe hain(63)

حَتَّىٰ إِذَا آخَذْنَا مِيثَرًا فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ﴿٦٤﴾

yahan tak ke jab humne unke ameeron ko azaab me pakda to jabhi wo fariyad karne lage(64)

لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾

aaj fariyad na karo, hamari taraf se tumhari madad na hogi(65)

قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُنذِرُكُمْ عَلَيْكُمْ فَاكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ﴿٦٦﴾

beshak meri aayaten tum par padhi jati thi to tum apni ediyon ke bal ulte palatate the(66)

مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سِيرَاتُهُمْ جُرُوعًا ﴿٦٧﴾

khidmate haram par badaai marte ho raat ko wahan behuda kahaniyan bakte haqq ko chhode hue(67)

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

kya unhone baat ko socha nahi ya unke paas wo aaya

jo unke baap dada ke paas na aaya tha(68)

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٦٨﴾

ya unhone apne rasool ko na pehchana to wo use begana samjh rahe hain(69)

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَآكَثَرُهُم لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿٦٩﴾

ya kehte hain use sauda hai balki wo to unke paas haqq laaye aur usme aksar ko haqq bura lagta hai(70)

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ

آتَيْنَهُمْ بَدِيلًا كَرِهَهُمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٠﴾

aur agar haqq unki khwahish ki pairwai karta to zaroor aasman aur zameen aur jo koi unme hain sab tabaah ho jate balki hun to unke paas wo cheez laye jisme ubli naamwari thi to wo apni izzat se hi muh fere hue hain(71)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٧١﴾

kya tum unse kuchh ujrati maangte ho to tumhare rabb ka ajr sabse bhala aur wo sabse behtar rozi dene wala(72)

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٢﴾

aur beshak tum unhen seedhi raah ki taraf bulate ho(73)

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَبُّونَ ﴿٧٣﴾

aur beshak jo aakherat par imaan nahi laate zaroor seedhi raah se katrahe hue hain(74)

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

aur agar hum un par reham karen aur jo musibat un par padi hai taal den to zaroor bhat panaa karenge apni sarkashi me behakte hue(75)

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِلرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

aur beshak humne unhen azaab me pakda to na wo apne ke huzoor me jhuke aur na gidgidate hain(76)

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْسُوتُونَ ﴿٧٧﴾

yahan tak ke jab humne un par khola kisi sakht azaab ka darwaza to wo ab usme na-ummeed pade hain(77)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

aur wahi hai jisne banaye tumhare liye kaan aur aankhein aur dil tum bahut hi kam haqq mante ho(78)

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

aur wahi hai jisne tumhen zameen me failaya aur usi ki taraf uthna hai(79)

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

aur wahi jilaye aur wahi maare aur usi ke liye hai raat aur din ki tabdeelen to kya tumhen samjh nahi(80)

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

balki unhone wahi kahi jo agle kehte the(81)

قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا عَرَانَا لَمُبْعُونَ ﴿٨٢﴾

bole kya jab hum mar jayen aur mitti aur haddiyan ho jayen kya fir nikale jayenge(82)

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاءُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

beshak ye wada hum ko aur hum se pehle hamare
baap dada ko diya gaya ye to nahi magar wahi agli
dastane(83)

قُلْ لِّسِنِ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

tum farmao kiska maal hai zameen aur jo kuchh isme
hai agar tum jante ho(84)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

ab kahenge ke allah ka tum farmao fir kyu nahi
sochte(85)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾

tum farmao kaun haai malik saato aasmano ka aur
malik bade arsh ka (86)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

ab kahenge ye allah hi ki shaan hai tum farmao fir kyu
nahi darte(87)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

tum farmao kis ke hath hai har cheez ka qaboo aur wo
panaah deta hai aur uske khilaf koi panaah nahi de
sakta aagar tumhen ilm ho(88)

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

ab kahenge ye allah hi ki shaan hai tum farmao fir kis
jadu ke fareb me pade ho(89)

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾

balki hum unke paas haqq laye aur wo beshak jhoothe hain(90)

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ طَسْبُحَنَ اللَّهُ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩٠﴾

allah ne koi baccha ikhtiyar na kiya aur na uske sath koi dusra khuda yun hota to har khuda apni makhlooq le jata aur zaroor ek dusre par apni ta'alli chahta paaki hai allah ko un baaton se jo ye banate hain(91)

عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩١﴾

janne wala har nihaan wa ayaan ka to use bulandi hai unke shirk se(92)

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيئِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٢﴾

tum arz karo ke ay mere rabb agar tu mujhe dikhaye jo unhen wada diya jata hai(93)

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٩٣﴾

to ay mere rabb mujhe un zalimo ke sath na karna(94)

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ تُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿٩٤﴾

aur beshak hum qadir hain ke tumhen sikha den jo unhen wada de rahe hain(95)

إِذْفَعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيَّةَ طَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٥﴾

sabse acchi bhalai se burai ko daf'aa karo hum khoob jante hain jo baaten ye banate hain(96)

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٦﴾

aur tum arz karo ke ay mere rabb teri panah shayateen

ke waswaso se(97)

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٧﴾

aur ay mere rabb teri panah ke wo mere paas
aayen(98)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾

yahan tak ke jab unme kisi ko maut aaye to kehta hai
ke mere rabb mujhe wapas fer dijiye(99)

لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۗ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ

يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾

shayad ab mai kuchh bhalai kamaaun usme jo chhod
aaya hun, hisht! ye to ek baat hai jo wo apne muh se
kehta hai aur unke aage ek aad hai us din tak jisme
uthaye jayenge(100)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

to jab soor phoonka jayega to na usme rishte rahenge
aur na ek dusre ki baat poochhe(101)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾

to jin ki taulen bhaari hyi wahi muraad ko
pahuche(102)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾

aur jin ki taulen halki pado wahi hain jinhone apni
jaane ghaate me daali hamesha dozakh me
rahenge(103)

تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٠٤﴾

unke muh par aag lipat maregi aur wo usme muh chadaaye hongey(104)

أَلَمْ تَكُنْ أَلَيْقَىٰ تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٠٤﴾

kya tum par meri aayeten na padhi jati thi to tum unhen jhuthlate the(105)

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٥﴾

kahenge ay hamare rabb hun par hamari bad bakhti ghalib aayi aur hun gumrah log the(106)

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٠٦﴾

ay rabb hamare hum ko dozakh se nikal de fir agar hum waise hi karen to hum zalim hain(107)

قَالَ اخْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٠٧﴾

rabb farmayega dutkaare pade raho isme aur mujhse baat na karo(108)

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٠٨﴾

beshak mere bandon ka ek giroh kehta tha ay hamare rabb hun iman laye tu hume bakhsh de aur hum par raham kar aur tu sabse behtar raham karne wala hai(109)

فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١٠٩﴾

to tum ne unhen thatta bana liya yahan tak ke unhen banane ke shugal me meri yaad bhool gaye aur tum unse hasaa karte(110)

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۗ إِنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِرُونَ ﴿١١١﴾

beshak aaj maine unke sabr ka unhen ye badla diya ke wahi kamiyab hain(111)

قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾

farmaya tum zameen me kitna thehre barson ki ginti se(112)

قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَعَلِ الْعَادِيْنَ ﴿١١٣﴾

bole hum ek din rahe ya din ka hissa to ginne walon se daryaft farma(113)

قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

farmaya tum na thehre magar thoda agar tumhen ilm hota(114)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنبَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

to kya ye samjhte ho ke humne tumhen bekar banaya aur tumhen hamari taraf firna nahi(115)

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

to bahut buland wala hai allah saccha badshah koi ma'abood nahi siwa uske, izzat wale arsh ka malik(116)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۗ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ﴿١١٧﴾

aur jo allah ke sath kisi dusre khuda ko pooje jiski uske paas koi sanad nahi to uska hisab uske rabb ke yahan hai beshak kafiron ka chhutkara nahi(117)

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾

aur tum arz karo ay mere rabb bakhsh de aur raham farma aur tu sabse behtar raham karne wala hai(118)

Surah Noor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

ye ek surat hai ke humne utari aur humne iske ahkaam farz kiye aur humne is mein raushan aayatein nazil farmai ke tum dhyaan karo (1)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

jo aurat badkar ho aur jo mard to un mein har ek ko sau kode lagao aur tumhein un par taras na aaye allah ke deen mein agar tum imaan laate ho allah aur pichhle din par aur chahiye ke unki saza ke waqt musalmano ka ek giroh haazir ho (2)

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ۚ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

badkaar mard nikah na kare magar badkaar aurat ya shirk waali se aur badkaar aurat se nikah na kare

magar badkaar mard ya mushrik aur ye kaam imaan
waalo par haraam hai (3)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

aur jo paarsa aurato ko aib lagayein phir chaar gawah
muayena ke na laayein to unhein assi kode lagao aur
unki gawahi kabhi na maano aur wahi fasiq hain (4)

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

magar jo uske baad tauba kar lein aur sanwar jaayein
to beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (5)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝

aur wo jo apni aurato ko aib lagayein aur unke paas
apne bayaan ke siwa gawah na ho to aise kisi ki gawahi
ye hai ke chaar baar gawahi de allah ke naam se ke wo
sachha hai (6)

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

aur paanchwi ye ke allah ki lanat ho us par agar jhoota
ho (7)

وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝

us aurat se yun saza tal jaayegi ke wo allah ka naam le
kar chaar baar gawahi de ke mard jhoota hai (8)

وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

aur paanchwi yun ke aurat par ghazab allah ka agar

mard sachha ho (9)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

aur agar allah ka fazl aur uski rahmat tum par na hoti
aur ye ke allah tauba qabool farmata hikmat waala hai
to tumhara parda khol deta (10)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۗ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۗ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

beshak wo ke ye bada bohtan laaye hain tumhi mein ki
ek jama'at hai use apne liye bura na samjho balki wo
tumhare liye behtar hai un mein har shakhs ke liye wo
gunah hai jo usne kamaya aur un mein wo jisne sabse
bada hissa liya uske liye bada azaab hai (11)

لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۗ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ
مُّبِينٌ ﴿١٢﴾

kyun na hua jab tumne use suna tha ke musalman
mardo aur musalman aurato ne apno par nek gumaan
kiya hota aur kehte ye khula bohtan hai (12)

لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَقُلُّوا لَيْكَ عِنْدَ اللَّهِ
هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

is par chaar gawah kyun na laaye to jab gawah na laaye
to wahi allah ke nazdeek jhoote hain (13)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

aur agar allah ka fazl aur uski rahmat tum par dunya aur aakhirat mein na hoti to jis charche mein tum pade us par tumhein bada azaab pahunchta (14)

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۗ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾

jab tum aisi baat apni zubano par ek dusre se sun kar laate the aur apne moonh se wo nikaalte the jiska tumhein ilm nahin aur use sahal samajhte the aur wo allah ke nazdeek badi baat hai (15)

وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۗ سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

aur kyun na hua jab tumne suna tha kaha hota humein nahin pahunchta ke aisi baat kahein ilahi paaki hai tujhe bada bohtan hai (16)

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾

allah tumhein naseehat farmata hai ke ab kabhi aisa na kehna agar imaan rakhte ho (17)

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٧﴾

aur allah tumhare liye aayatein saaf bayaan farmata hai aur allah ilmo hikmat waala hai (18)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

wo log jo chahte hain ke musalmano mein bura charcha phaile unke liye dardnak azaab hai dunya wa

aakhirat mein aur allah janta hai aur tum nahin jaante
(19)

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

aur agar allah ka fazl aur uski rahmat tum par na hoti
aur ye ke allah tum par nihayat meharban mehar
wala hai to tum uska maza chakhte (20)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
فَإِنَّهُ يُأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا
مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۗ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

aye imaan waalo shaitan ke qadmo par na chalo aur jo
shaitan ke qadmo par chale to wo to be hayai aur buri
hi baat batayega aur agar allah ka fazl auelr uski
rahmat tum par na hoti to tum mein koi bhi kabhi
suthra na ho sakta haan allah suthra kar deta hai jise
chahe aur allah sunta jaanta hai (21)

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَ
الْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ
لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

aur qasam na khayein wo jo tum mein fazeelqt waale
aur gunjaish waale hain qarabat waalo aur miskeeno
aur allah ki raah mein hijrat karne waalo ko dene ki aur
chahiye ke muaaf karein aur dar guzrein, kya tum ise
dost nahin rakhte ke allah tumhari bakhshish kare aur
allah bakhshne wala meharbaan hai (22)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

beshak wo jo aib lagate hain anjaan parsa imaan waliyo ko un par lanat hai dunya aur aakhirat mein aur unke liye bada azaab hai (23)

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

jis din un par gawahi dengi unki zubanein aur unke haath aur unke paao jo kuchh karte the (24)

يَوْمَ مَدَّ يَوْفِيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾

us din allah unhein unki sachhi saza poori dega aur jaan lenge ke allah hi sareeh haq hai (25)

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۗ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَئِكَ مَبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۗ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

gandiya gando ke liye aur gande gandiyo ke liye aur suthriya suthro ke liye aur suthre suthriyo ke liye wo paak hain un baato se jo ye keh rahe hain un ke liye bakhshish aur izzat ki rozi hai (26)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ۚ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ
أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُدَّكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

aye imaan waalo apne gharo ke siwa aur gharo mein na jaao jab tak ijazat na le lo aur unke sakino par salam na kar lo ye tumhare liye behtar hai ke tum dhyaan karo (27)

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ

ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْلَىٰ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾

phir agar un mein kisi ko na paa jab bhi be maliko ki ijazat ke un mein na jaa aur agar tum se kaha jaaye wapas jao to wapas ho ye tumhare liye bahut suthra hai allah tumhare kaamo ko jaanta hai (28)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾

is mein tum par kuchh gunah nahin ke un gharo mein jao jo kisi khaas sukunat ke nahin aur unke baratne ka tumhein ikhteyar hai aur allah jaanta hai jo tum zaahir karte ho aur jo tum chhupate ho (29)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

musalman mardo ko hukm do apni nigahein kuchh neechi rakhein aur apni sharmgaho ki hifazat karein ye un ke liye bahut suthra hai beshak allah ko unke kaamo ki khabar hai (30)

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَىٰ

اللَّهُ جَبِينًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

aur musalman aurato ko hukm do apni nigahein kuchh neechi rakhein aur apni parsai ki hifazat karein aur apna banaaw na dikhayein magar jitna khud hi zaahir hai aur dupatte apne girebano par daale rahein aur apna singaar zaahir na karein magar apne shauharo par ya apne baap ya shauharo ke baap ya apne bete ya shauharo ke bete ya apne bhai ya apne bhatije ya apne bhanje ya apne deen ki auratein ya apni kaneezein jo apne haath ki milk ho ya naukar basharteke shahwat waale mard na ho ya wo bachhe jinhein aurato ki sharm ki cheezo ki khabar nahin aur zameen par paaon zor se na rakhein ke jaana jaaye unka chhupa hua singaar aur allah ki taraf tauba karo aye musalmano sab ke sab is ummeed par ke tum falaah pao (31)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالضَّالِّحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

aur nikah kar do apno mein un ka jo be nikah ho aur apne laaiq bando aur kaneezo ka agar wo faqeer ho to allah unhein ghani kar dega apne fazl ke sabab aur allah wus'at waala ilm waala hai (32)

وَلَيْسَتُغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ

تَحْصُنَا لِنَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

aur chahiye ke bache rahein wo jo nikah ka maqdoor nahin rakhte yahan tak ke allah unhein maqdoor karne waala kar de apne fazl se aur tumhare haath ki milk baandi ghulam mein se jo ye chahein ke kuchh maal kamane ki shart par unhein aazadi likh do to likh do agar un mein kuchh bhalai jaano aur is par unki madad karo allah ke maal se jo tum ko diya aur majboor na karo apni kaneezo ko badkari par jabki wo bachna chahein taaki tum dunyawii zindagani ka kuchh maql chaho aur jo inhein majboor karega to beshak allah baad iske ke wo majboori hi ki haalat par rahein bakhshne waala meharbaan hai (33)

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

aur beshak humne utaari tumhari taraf raushan aayatein aur kuchh un logon ka bayaan jo tumse pehle ho guzre aur dar waalo ke liye naseehat (34)

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي
زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

allah noor hai aasmano aur zameen ka uske noor ki

misaal aisi jaise ek taaq ke us mein chiragh hai wo chiragh ek fanoos mein hai wo fanoos goya ek sitara hai moti sa chamakta raushan hota hai barkat waale ped zaitoon se jo na purab ka na pachhim ka qareeb hai ke uska tel bhadak uthe agarche use aag na chhue noor par noor hai, allah apne noor ki raah batata hai jise chahta hai aur allah misalein bayaan farmata hai logon ke liye aur allah sab kuchh jaanta hai (35)

فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۖ

الْأَصَالِ ۖ

aur gharo mein jinhein buland karne ka allah ne hukm diya hai aur un mein us ka naam liya jaata hai allah ki tasbeeh karte hain un mein subah aur shaam (36)

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ

الزَّكَاةِ يُخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ

wo mard jinhein ghafil nahin karta koi sauda aur na khareedi farokht allah ki yaad aur namaz barpa rakhne aur zakat dene se darte hain us din se jis mein ulat jayenge dil aur aankhein (37)

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا أَوْ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۚ

taaki allah unhein badla de unke सबसे behtar kaam ka aur apne fazl se unhein inaan zyada de aur allah rozi deta hai jise chahe be ginti (38)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يُحْسِبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ۖ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾

aur jo kafir hue unke kaam aise hain jaise dhoop mein
chamakta reta kisi jungle mein ke pyasa use paani
samjhe yahan tak jab uske paas aaya to use kuchh na
paaya aur allah ko apne qareeb paaya to usne uska
hisab poora bhar diya aur allah jald hisaab kar leta hai
(39)

أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ۗ طُغِيَتْ
بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرِبَهَا ۗ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا
فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ﴿٤٠﴾

ya jaise andheriya kisi kunde ke darya mein uske upar
mauj mauj ke upar aur mauj uske upar badal andhere
hain ek par ek jab apna haath nikaale to sujhai deta
maloom na ho aur jise allah noor na de uske liye kahin
noor nahin (40)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَفَّتٍ ۖ كُلُّ قَدِّعِلَمَ
صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

kya tum ne na dekha ke allah ki tasbeeh karte hain jo
koi aasmano aur zameen mein hain aur parinde
phailaye sab ne jaan rakhi hai apni namaz aur apni
tasbeeh aur allah unke kaamo ko jaanta hai (41)

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾

aur allah hi ke liye hai saltanat aasmano aur zameen ki

aur allah hi ki taraf phir jaana (42)

الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ
يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ
يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنِّ يَشَاءُ ۚ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ۝

kya tune na dekha ke allah narm narm chalata hai
badal ko phir unhein aapas mein milata hai phir
unhein teh par teh kar deta hai to tu dekhe ke uske
beech mein se meenh nikalta aur utaarta hai aasman
se us mein jo barf ke pahaad hain un mein se kuchh
ole phir daalta hai unhein jis par chahe aur pher deta
hai unhein jisse chahe qareeb hai ke uski bijli ki
chamak aankh le jaaye (43)

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝

aur badli karta hai raat aur din ki beshak is mein
samajhne ka maqam hai nigah waalo ko (44)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي
عَلَى رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

aur allah ne zameen par har chalne waala paani se
banaya to un mein koi apne pet par chalta hai aur un
mein koi do paaon par chalta hai aur un mein koi chaar
paaon par chalta hai allah banata hai jo chahe beshak
allah sab kuchh kar sakta hai (45)

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

beshak humne utaari saaf bayaan karne waali aayatein
aur allah hidayat deta hai jise chahe seedhi raah
dikhaye (46)

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾

aur kehte hain hum imaan laaye allah aur rasool par
aur hukm maana phir kuchh un mein ke uske baad
phir jaate hain aur wo musalman nahin (47)

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

aur jab bulaye jaayein allah aur uske rasool ki taraf ke
rasool un mein faisla farmaye to jabhi unka ek fareeq
moonh pher jaata hai (48)

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩﴾

aur agar unki digri ho to uski taraf aayein maante hue
(49)

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ أُنْزِلَ
أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

kya un ke dilo mein beemari hai ya shak rakhte hain ya
ye darte hain ke allah wa rasool un par zulm karenge
wo khud hi zalim hain (50)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا
سَبِّحْنَا وَآطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾

musalmano ki baat to yahi hai jab allah aur rasool ki
taraf bulaye jaayein ke rasool un mein faisla farmaye

to arz karein humne suna aur hukm maana aur yahi log muraad ko pahunche (51)

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥١﴾

aur jo hukm maane allah aur uske rasool ka aur allah se darw aur parhezgaro kare to yahi log kamyab hain (52)

وَاقْسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لِيَنْ أَمْرَتِهِمْ لِيَخْرُجَنَّ طُغْيَانٌ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٢﴾

aur unhone allah ki qasam khai apne halaf mein had ki koshish se ke agar tum unhein hukm doge to wo zaroor jihad ko niklenge tum farma do qasmein na khao muwafiqe shara hukm bardari chahiye, allah jaanta hai jo tum karte ho (53)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مِمَّا حَمَلْتُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٣﴾

tum farmao hukm maano allah ka aur hukm maano rasool ka phir agar tum moonh phero to rasool ke zimma wahi hai jo us par laazim kiya gaya aur tum par wo hai jiska boj tum par rakha gaya aur agar rasool ki farmanbardari karoge raah paoge, aur rasool ke zimma nahin magar saaf pahuncha dena (54)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِمَّنْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يُعْبُدُونََنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ

بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

allah ne waada diya un ko jo tum mein se imaan laaye aur achhe kaam kiye ke zaroor unhein zameen mein khilafat dega jaisi unse pahlo ko di aur zaroor unke liye jama dega unka wo deen jo unke liye pasand farmaya hai aur zaroor unke agle khauf ko aman se badal dega meri ibadat karein mera shareek kisi ko na thehrayein aur jo iske baad nashukri kare to wahi log be hukm hain (55)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

aur namaz barpa rakho aur zakat do aur rasool ki farmanbardari karo is ummeed par ke tum par reham ho (56)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَأْوَهُمُ النَّارُ ۗ وَلَيْسَ
الْبَصِيرُ ﴿٥٧﴾

hargiz kafiro ko khayal na karna ke wo kahin humare qaabu se nikal jaayein zameen mein aur unka thikana aag hai, aur zaroor kya hi bura anjaam (57)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا
الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ
الظَّهِيرَةِ ۖ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۗ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا
عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۖ طَوْفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

aye imaan waalo chahiye ke tumse izn lein tunhare haath ke maal ghulam aur wo jo tum mein abhi jawani ko na pahunche teen waqt namaze subah se pehle jab tum apne kapde utaar rakhte ho dopahar ko aur namaze isha ke baad ye teen waqt tumhari sharm ke hain in teen ke baad kuchh gunah nahin tum par na un par aamado rifat rakhte hain tumhare yahan ek dusre ke paas allah yun hi bayaan karta hai tumhare liye aayatein, aur allah ilmo hikmat waala hai (58)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ
كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾

aur jab tum mein ladke jawani ko pahunch jaayein to wo bhi izn maangein jaise unke aglo ne izn maanga allah yunhi bayaan farmata hai tumse apni aayatein, aur allah ilmo hikmat waala hai (59)

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
رِجْلَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ﴿٥٩﴾

aur boodhi khana nasheejn auratein jinhein nikah ki aarzu nahin un par kuchh gunah nahin ke apne balai kapde utaar rakhein jab ke singaar na chamkayein aur usse bhi bachna unke liye aur behtar hai aur allah sunta jaanta hai (60)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى

أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
 أَخْوَالَكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
 تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
 تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

na andhe par tangi aur na langde par muzaiqa aur na
 beemar par rok aur na tum mein kisi par ke khao apni
 awlaad ke ghar ya apne baap ke ghar ya apni maa ke
 ghar ya apne bhaiyo ke yahan ya apni bahno ke ghar
 ya apne chachao ke yahan ya apni phuphiyo ke ghar ya
 apne mamuo ke yahan ya apni khalao ke ghar ya jahan
 ki kunjiya tumhare qabza mein hai ya apne dost ke
 yahan tum par koi ilzaam nahin ke mil kar khao ya alag
 alag phir jab kisi ghar mein jao to apno ko salam karo
 milte waqt ki achhi dua allah ke paas se mubarak
 pakiza allah yunhi bayaan farmata hai tumse aayatein
 ke tumhein samajh ho (61)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ
 يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
 رَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذِنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ
 اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾

imaan waale to wahi hain jo allah aur uske rasool par

yaqeen laaye aur jab rasool ke paas kisi aise kaam mein haazir hue ho jis ke liye jama kiye gaye ho to na jaayein jab tak unke ijazat na le lein wo jo tum se ijazat mangte to un mein jise tum chaho ijazat de do aur un ke liye allah se muaafi mango beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (62)

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۗ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۗ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

rasool ke pukarne ko aapas mein aisa na thehra lo jaisa tum mein ek dusre ko pukarta hai beshak allah janta hai jo tum mein chupke nikal jaate hain kisi cheez ki aad le kar to darein wo jo rasool ke hukm ke khilaf karte hain ke unhein koi fitna pahunche ya un par dardnaak azaab pade (63)

الْآنَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۗ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

sun lo beshak allah hi ka hai jo kuchh aasmano aur zameen mein hai, beshak wo jaanta hai jis haal par tum ho aur us din ko jis mein uski taraf phere jaayenge to wo unhein bata dega jo kuchh unhone kiya aur allah sab kuchh jaanta hai (64)

Surah Furqan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝

badi barmat waala hai wo ke jisne utara quran apne
banda par jo saare jahaan ko dar sunane waala ho (1)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝

wo jis ke liye hai aasmano aur zameen ki badshahat
aur usne na ikhteyar farmaya bachha aur uski saltanat
mein koi saajhi nahin usne har cheez paida kar ke
theek andaza par rakhi (2)

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝

aur logon ne uske siwa aur khuda thehra liye ke wo
kuchh nahin banate aur khud paida kiye gaye hain aur
khud apni jaano ke bure bhale kr malik nahin aur na
marne ka ikhteyar na jeetne ka na uthne ka (3)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَفْكٌ أَفْتَرْتَهُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۚ
فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۝

aur kafir bole ye to nahin magar ek bohtan jo unhone

ne bana liya hai aur us par logon ne unhein madad di hai beshak wo zulm aur jhoot par aaye (4)

وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْنَلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

aur bole aglo ki kahaniya hain jo unhone likh li hain to wo un par subah wa shaam padhi jaati hain (5)

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

tum farmao ise to usne utara hai jo aasmano aur zameen ki har ek chhupi baat jaanta hai beshak wo bakhshne waala meharbaan hai (6)

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

aur bole us rasool ko kya hua khana khata hai aur bazaaro mein chalta hai kyun na utara gaya unke saath koi firishta ke unke saath dar sunata (7)

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝

ya ghaib se unhein koi khazana mil jaata ya unka koi baagh hota jis mein se khate aur zaalim bole tum to pairwi nahin karte magar ek aise mard ki jis par jaadu hua (8)

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

aye mahboob dekho kaisi kahawatein tumhare liye bana rahe hain to gumrah hue ke ab koi raah nahin paate (9)

تَبْرِكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾

badi barkat waala hai wo ke agar chahe to tumhare liye
bahut behtar isse karde jannatein jinke niche nehrein
bahein aur kar de tumhare liye oonche oonche mehal
(10)

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿١١﴾

balki ye to qiyamat ko jhutlate hain aur jo qiyamat ko
jhutlaye humne uske liye tayyar rakhi hai bhadakti hui
aag (11)

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَبَعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾

jab wo unhein door se dekhegi to sunenge uska josh
maarna aur chingadhna (12)

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَبِيحًا مُّقْرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾

aur jab uski kisi tang jagah mein daale jayenge
zanjeero mein jakde hue to wahan maut mangenge
(13)

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾

farmaya jayega aaj ek maut na maango aur bahut si
mautein maango (14)

قُلْ أَدْرِكُ خَيْرًا مِّنْ جَنَّةِ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ طُكَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَ
مَصِيرًا ﴿١٥﴾

tum farmao kya bhala wo humeshgi ke baagh jis ka
waada dar walao ko hai wo unka sila aur anjaam hai

(15)

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ﴿١٥﴾

unke liye wahan manmani muradein hain jin mein humesha rahenge tumhare rab ke zimma waada hai manga hua (16)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٦﴾

aur jis din ikattha karega unhein aur jinko allah ke siwa pujte hain phir un maboodo se farmayega kya tum ne gumrah kar diye ye mere bande ya ye khud hi raah bhole (17)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ ۗ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ﴿١٨﴾

wo arz karenge paaki hai tujh ko humi sazawaar na tha ke tere siwa kisi aur ko maula banayein lekin tune unhein aur unke baap dadao ko baratne diya yahan tak ke wo teri yaad bhool gaye aur ye log the hi halaak hone waale (18)

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ۗ فَمَا تَسْتَظِنُونَ ۗ فَمَا تَسْتَظِنُونَ صِرْفًا وَلَا نَصْرًا ۗ وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾

to ab maboodo ne tumhari baat jhutla di to ab tum na azaab pher sako na apni madad kar sako aur tum mein jo zalim hai hum use bada azaab chakhayenge (19)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

aur humne tumse pehle jitne rasool bheje sab aise hi the khana khate aur bazaro mein chalte aur hum ne tum mein ek ko dusre ki jaanch kiya hai aur aye logo kya tum sab karoge aur aye mahboob tumhara rab dekhta hai (20)

Unniswa Paarah

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَمْ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْمَلِكَةَ أَوْ لَمْ يَأْتِنَا رَبَّنَا لَقَدِ

اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾

aur bole wo log jo humare milne ki ummeed nahin rakhte hum par firishte kyun na utaare ya hum apne rab ko dekhte beshak apne jee mein bahut hi oonchi kheenchi aur badi sarkashi par aaye (21)

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾

jis din firishto ko dekhenge wo din mujrimo ki koi khushi ka na hoga aur kahenge ilahi hum mein un mein koi aad kar de ruki hui (22)

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾

aur jo kuchh unhone kaam kiye the hum ne qasd farma kar unhein bareek ghubaar ke bikhre hue zarre kar diya ke rozan ki dhoop mein nazar aate hain (23)

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

jannat waalo ka us din achha thikana aur hisab ke dopahar baad achhi aaram ki jagah (24)

وَيَوْمَ تَشْفُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝

aur jis din phat jayega aasman badalo se aur firishte utaare jayenge poori tarah (25)

أَلَمْ لِكُ يَوْمَ مَبْدِئِ الْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝

us din sachhi badshahi rahman ki hai aur wo din kafiro par sakht hai (26)

وَيَوْمَ يَعْزُضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لَيْسَتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝

aur jis din zalim apne haath chaba chaba lega ke haaye kisi tarah se maine rasool ke saath raha li hoti (27)

يُؤَيِّلَتِي لَيْسَتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ۝

waaye kharabi meri haaye kisi tarah maine fulane ko dost na banaya hota (28)

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝

beshak usne mujhe behka diya mere paas aai hui nasehat se aur shaitan aadmi ko bemadad chhod deta hai (29)

وَقَالَ الرَّسُولُ لِيَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

aur rasool ne arz ki ke aye mere rab meri qaum ne is quran ko chhodne ke qabil thehra liya hai (30)

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًّا وَنَصِيرًا ۝

aur isi tarah humne har nabi ke liye duhsman bana diye the mujrim log aur tumhara rab kaafi hai aur

madad dene ko (31)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ
فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣١﴾

aur kafir bole quran un par ek saath kyun na utaar diya
humne yunhi batadreej ise utara hai ke is se tumhara
dil mazboot karein aur humne use thehar thehar kar
padha (32)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٢﴾

aur wo koi kahawat tumhare paas na laayenge magar
hum haq aur usse behtar bayaan le aayenge (33)

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

wo jo jahannam ki taraf hanke jayenge apne moonh ke
bal unka thikana sabse bura aur wo sab se gumrah (34)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾

aur beshak humne moosa ko kitab ata farmai aur uske
bhai haroon ko wazeer kiya (35)

فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾

to humne farmaya dono jaao us qaum ki taraf jisne
humari aayatein jhutlaai phir humne unhein tabah kar
ke halaak kar diya (36)

وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَاعْتَدْنَا

لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾

aur nooh ki qaum ko jab unhone rasoolo ko jhutlaya
humne unko dubo diya aur unhein logon ke liye

nishani kar diya aur humne zalimo ke liye dardnak
azaab tayyar kar rakha hai (37)

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٧﴾

aur aad aur samood aur kuwein waalo ko aur unke
beech mein bahut si sangatein (38)

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٨﴾

aur humne sab se misalein bayaan farmai aur sab ko
tabah kar ke mita diya (39)

وَلَقَدْ آتَوْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا عَلَيْهَا مَطَرَ السَّوءِ ۖ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلًا
كَانُوا إِلَّا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٣٩﴾

aur zaroor ye ho aaye hain us basti par jis par bura
barsao barsa tha to kya ye dekhte na the balki inhein
jee uthne ki ummeed thi hi nahin (40)

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا ۖ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤٠﴾

aur jab tumhein dekhte hain to tumhein nahin
thehrate magar thatta kya ye hain jin ko allah ne
rasool bana kar bheja (41)

إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْبَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۖ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونِ
الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤١﴾

qareeb tha ke ye humein humare khudao se behka
dein agar hum in par sabr na karte aur ab jaana chahte
hain jis din azaab dekhenge ke kaun gumrah tha (42)

أَرَعَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٢﴾

kya tumne use dekha jisne apne jee ki khwahish ko

apna khuda bana liya to kya tum unki nigehbani ka zimma loge (43)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٣﴾

ya ye samajhte ho ke in mein bahut kuchh sunte ya samajhte hain wo to nahin magar jaise chaupaye balki unse bhi badtar gumrah (44)

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۗ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۚ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ
عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٤﴾

aye mahboob kya tumne apne rab ko na dekha ke kaisa phaila ya saaya aur agar chahta to use thehraya hua kar deta phir humne sooraj ko us par daleel kiya (45)

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٥﴾

phir humne aahista aahista use apni taraf sameta (46)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٦﴾

aur wahi hai jisne raat ko tumhare liye parda kiya aur neend ko aaram aur din banaya uthne ke liye (47)

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
طَهُورًا ﴿٤٧﴾

aur wahi hai jisne hawayein bheji apni rahmat ke aage muzda sunati hui aur humne aasman se paani utara paak karne waala (48)

لِنُنْجِيَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْمَنًا وَنُنْصِفُهَا مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٨﴾

taaki hum usse zinda karein kisi murda shehar ko auer use palayein apne banaye hue bahut se chaupaye aur aadmiyo ko (49)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

aur beshak humne un mein paani ke phere rakhe ke dhyaan karein to bahut logon ne na maana magar nashukri karna (50)

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝

aur hum chahte to har basti mein ek dar sunane waala bhejte (51)

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝

to kafiro ka kaha na maan aur is quran se un par jihad kar bada jihad (52)

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ۝

aur wahi hai jisne mile hue rawaan kiye do samundar ye meetha hai nihayat shireen aur ye khaari hai nihayat talkh aur unke beech mein parda rakha aur roki hui aad (53)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۝

aur wahi hai jisne paani se banaya aadmi phir uske rishte aur sasuraal muqarrar ki aur tumhara rab qudrat waala hai (54)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ

ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾

aur allah ke siwa aisi ko pujte hain jo unka bhala bura kuchh na karein aur kafir apne rab ke muqabil shaitan ko madad deta hai (55)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾

aur humne tumhein na bheja magar khushi aur dar sunata (56)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾

tum farmao main is par tumse kuchh ujrat nahin mangta magar jo chahe ke apne rab ki taraf raah le (57)

وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا ﴿٥٨﴾

﴿٥٨﴾

aur bharosa karo us zinda par jo kabhi na marega aur use sarahte hue uski paaki bolo aur wahi kaafi hai apne bando ke gunaho par khabardar (58)

الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمٰنُ فَسْأَلْ بِهِ خَبِيْرًا ﴿٥٩﴾

jisne aasman aur zameen aur jo kuchh unke darmiyan hai chhe din mein banaye phir arsh par istiya farmaya jaisa uski shaan ke laaiq hai wo badi mehar waala to kisi janne waale se uski tareef puchh (59)

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ ۗ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوْرًا ﴿٦٠﴾

﴿٦٠﴾

aur jab unse kaha jaaye rahman ko sajda karo kehte hain rahman kya hai kya hum sajda kar lein jise tum kaho aur us hukm ne unhein aur bidakta badhaya

(60-sajda)

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦٠﴾

badi barkat wala hai jisne aasman mein burj banaye aur un mein chiragh rakha aur chamakta chand (61)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦١﴾

aur wahi hai jisne raat aur din ki badli rakhi uske liye jo dhyaan karna chahe ya shukr ka irada kare (62)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا

سَلَامًا ﴿٦٣﴾

aur rahman ke wo bande ke zameen par aahista chalte hain aur jab jahil unse baat karte hain to kehte hain bas salam (63)

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾

aur wo jo raat kat'te hain apne rab ke liye sajde aur qiyaam mein (64)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

aur wo jo arz karte hain aye humare rab humse pher de jahannam ka azaab beshak iska azaab gale ka ghul hai (65)

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

beshak wo bahut hi buri theharne ki jagah hai (66)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

aur wo ke jab kharch karte hain na hadd se badhein aur na tangi karein aur un dono ke beech etidal par rahein (67)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

aur wo jo allah ke saath kisi dusre mabood ko nahin pujte aur is jaan ko jis ki allah ne hurmat rakhi nahaq nahin maarte aur badkari nahin karte aur jo ye kaam kare wo saza payega (68)

يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

badhaya jayega us par azaab qiyamat ke din aur humesha us mein zillat se rahega (69)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

magar jo tauba kare aur imaan laaye aur achha kaam kare to aiso ki buraiyo ko allah bhalaiyo se badal dega aur allah bakhshne waala meharbaan hai (70)

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

aur jo tauba kare aur achha kaam kare to allah ki taraf ruju laaya jaisi chahiye thi (71)

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ۗ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغُومِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

aur jo jhooti gawahi nahin dete aur jab behuda par guzarte hain apni izzat sambhaale guzar jaate hain (72)

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صَبَّأً وَعُمِيَانًا ۝

aur wo ke jabki unhein unke rab ki aayatein yaad dilai jaayein to un par behre andhe ho kar nahin girte (73)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا

لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

aur wo jo arz karte hain aye humare rab humein de humari bibiyo aur humari awlaad se aankho ki thandak aur humein parhezgari ka peshwa bana (74)

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۝

un ko jannat ka sabse ooncha baala khana inaan milega badla unke sabr kar aur wahan mujre aur salam ke saath unki peshwai hogi (75)

خَالِدِينَ فِيهَا طَحْسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

humesha us mein rahenge kya hi achhi theharne aur basne ki jagah (76)

قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ؕ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۝

tum farmao tumhari kuchh qadr nahin mere rab ke yahan agar tum use na pujo to tum ne to jhutlaya to ab hoga wo azaan ke lipat rahega (77)

Surah Shuara

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut mehrban rahmat wala.

طَسَمَّ ۝

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝

ye aayaten hain raushan kitab ki (2)

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝

kahin tum apni jaan par khel jaoge unke gham me ke wo imaan nahi laye (3)

إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝

agar hum chahen to aasman se un par koi nishani utaaren ke unke unche unche uske huzoor jhuke reh jayen (4)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۝

aur nahi aati unke paas rahman ki taraf se koi nai nasihat magar usse muh fer lete hain (5)

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

to beshak unhone jhutlaya to ab un par aaya chahti hain khabrein unke thatthe ki (6)

أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

kya unhone zameen ko na dekha humne kitne izzat wale jode ugaye (7)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

beshak isme zaroor nishani hai aur unke aksar imaan
laane wale nahi (8)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

aur beshak tumhara rabb zaroor wahi izzat wala
meharban hai (9)

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

aur yaad karo jab tumhare rabb ne musa ko nida
farmayi ke zalim logon ke paas ja (10)

قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۖ أَلا يَتَّقُونَ ۝

jo firaun ki qaum hai kya wo na darenge (11)

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝

arz ki ay mere rabb mai darta hun ke wo mujhe
jhuthlayenge (12)

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْظِلُّ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هُرُونَ ۝

aur mera seena tangi karta hai aur meri zabaan nahi
chalti to tu haroon ko bhi rasool kar (13)

وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝

aur unka mujh par ek ilzam hai to mai darta hun kahin
mujhe qatl kar den (14)

قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَعِينُونَ ۝

farmaya yun nahi tum dono meri aayaten le kar jao
hum tumhare sath sunte hain (15)

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

to firauun ke paas jao fir usse kaho ke hum dono uske rasool hain jo rabb hai saare jahan ka (16)

أَنْ أَرْسَلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ

ke tu hamare sath bani israel ko chhod de (17)

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا ۖ وَكَبَّيْتُمْ فِيْنَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِيْنَ ۙ

bola kya humne tumhen apne yahan bachpan me na pala aur tum ne hamare yahan apni umr ke kai baras guzare (18)

وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ ۖ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۙ

aur tum ne kiya apna wo jo tum ne kiya aur tum nashukr the (19)

قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَا ۗ وَاَنَا مِنَ الضَّٰلِّيْنَ ۙ

musa ne farmaya maine wo kaam kiya kab ke mujhe raah ki khabar na thi (20)

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا ۖ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۙ

to main tumhare yahan se nikal gaya jab ke tum se dara to mere rabb ne mujhe hukm ataa farmaya aur mujhe paighambaron se kiya (21)

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ ۙ

aur ye koi ne'mat hai jiska tu mujh par ehsan jatata hai ki tume gulam bana kar rakhe bani israeel (22)

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ

firaun bola aur sare jahan ka rabb kya hai (23)

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۙ

musa ne farmaya rabb aasmano aur zameen ka aur jo kuchh unke darmiyan hai agar tumhen yaqeen ho (24)

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَبْعُونَ ﴿٢٤﴾

apne aas paas walon se bola kya tum ghaur se sunte nahi (25)

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾

musa ne farmaya rabb tumhara aur tumhare agle baap dadao ka (26)

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٦﴾

bola tumhare ye rasool jo tumhari taraf bheje gaye hain zaroor aql nahi rakhte (27)

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾

musa ne farmaya rabb purab aur pachchhim ka aur jo kuchh unke darmiyaan hai agar tumhen aql ho (28)

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتِ الْهَاءُ غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ﴿٢٨﴾

bola agar tum ne mere siwa kisi aur ko khuda thehraya to mai zaroor tumhen qaid kar dunga (29)

قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾

farmaya kya agarche me tere paas raushan cheez laun (30)

قَالَ فَآتِ بِهِ إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٣٠﴾

kaha to lao agar sacche ho (31)

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿٣١﴾

to musa ne apna asaa daal diya jabhi wo sareeh

azdaha ho gaya (32)

وَنَزَعِ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظَرِ ۖ ﴿٣٢﴾

aur apna hath nikala to jabhi wo dekhne walon ki nighal me jagmagane laga (33)

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا السِّحْرُ عَلَيَّ ۖ ﴿٣٣﴾

bola apne gird ke sardaron se ke beshak ye dana jadugar hain (34)

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۗ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ ﴿٣٤﴾

chahte hain ke tumhen tumhare mulk se nikal den apne jadu ke zor se tab tumhara kya mashwara hai (35)

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ ﴿٣٥﴾

wo bole inhen aur inke bhai ko thehraye raho aur shehro me jama karne wale bhejo (36)

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۖ ﴿٣٦﴾

ke wo tere paas le aayen jat bade jadugar dana ko (37)

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِيلِيَقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۖ ﴿٣٧﴾

to jama kiye gaye jadugar ek muqarrar din ke wada par (38)

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَبِعُونَ ۖ ﴿٣٨﴾

aur logon se kaha gaya kya tum jama ho gaye (39)

لَعَلَّنَا تَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ ﴿٣٩﴾

shayad hum un jadugaron hi ki pairwi karen agar ye ghalib aaye (40)

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ رَبَّكَ إِذًا إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٤١﴾

fir jab jadugar aaye firauun se bole kya hume kuchh majdoori milegi agar hum ghalib aaye (41)

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾

bola haan aur us waqt tum mere muqarrab ho jaoge (42)

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٤٣﴾

musa ne unse farmaya daalo jo tumhen daalna hai (43)

فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

to unhone apni rasiyan aur lathiyen daali aur bole firauun ki izzat ki qasam beshak hamari hi jeet hai (44)

فَأُلْقِيَ مَوْسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾

to musa ne apna asaa dala jabhi wo unki banawato ko nigalne laga (45)

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدِينَ ﴿٤٦﴾

ab sajda me gire (46)

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾

jadugar bole hum imaan laye us par jo saare jahan ka rabb hai (47)

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾

jo musa aur haroon ka rabb hai (48)

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۗ

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِمَّنْ خِلَافٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ

أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾

firaun bola kya tum us par iman laye qabl iske ke mai tumhen ijazat dun beshak wo tumhara bada hai jisne tumhen jadu sikhaya to ab jana chahte ho mujhe qasam hai beahak mai tumhare hath aur dusari taraf ke paanw kaatunga aur tum sab ko sooli dunga (49)

قَالُوا لَا ضَيْرُ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾

wo bole kuchh nuqsan nahi hum apne rabb ki taraf palatne wale hain (50)

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

hume tama'a hai ke humara rabb hamari khatayen bakhsh de is par ke hum sabse pehle imaan laye (51)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾

aur humne musa ko wahee bheji ke raaton raat mere bando ko le nikal beshak tumhara peechha hona hai (52)

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾

ab firaun ne shehro me jama karne wale bheje (53)

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

ke ye log ek thodi jama'at hai (54)

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ ﴿٥٥﴾

aur beshak wo hum sab ka dil jalate hain (55)

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَذِرُونَ ﴿٥٦﴾

aur beshak hum sab chaukanne hain (56)

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾

to humne unhen baahar nikala bagho aur chashmo
(57)

وَكَنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾

aur khazano aur umda makano se (58)

كَذَلِكَ ۖ وَأَوْرَثْنَاهَا بِنِيَّاسِرَآءِ يَلِٰٓٔ ﴿٥٩﴾

humne aisa hi kiya aur unka waris kar diya bani israeel
ko (59)

فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿٦٠﴾

to firauniyon ne unka ta'aakub kiya din nikle (60)

فَلَمَّا تَرَآءَ الْجَمْعُ نِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾

fir jab aamna saamna hua dono girohon ka musa
walon ne kaha hum ko unhone aa liya (61)

قَالَ كَلَّا ؕ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾

musa ne farmaya yun nahi beshak mera rabb mere
sath hai wo mujhe ab raah deta hai (62)

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ

الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

to humne musa ko wahee farmayi ke dariya par apna
asaa mar to jabhi dariya fat gaya to har hissa ho gaya
jaise bada pahad (63)

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾

aur wahan qareeb laye hum dusron ko (64)

وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾

aur humne bacha liya musa aur uske sab sath walon ko (65)

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾

fir dusron ko dubo diya (66)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

beshak isme zaroor nishani hai aur unme aksar musalman na the (67)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

aur beshak tumhara rabb wahi izzat wala meharban hai (68)

وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

aur un par padho khabar ibraheem ki (69)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾

jab usne apne baap aur apni qaum se farmaya tum kya poojte ho (70)

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عُكْفِِينَ ﴿٧١﴾

bole hum buton ko poojte hain fir unke samne aasan maare rehte hain (71)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾

farmaya kya wo tumhari sunte hain jab tum pukaro (72)

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾

ya tumhara kuchh bhala bura karte hain (73)

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

bole balki humne apne baap dada ko aisa hi karte paya
(74)

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾

farmaya to kya tum dekhte ho ye jinhen pooj rahe ho
(75)

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ ﴿٧٦﴾

tum aur tumhare agle baap dada (76)

فَأَنَّهُمْ عِدُوِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾

beshak wo sab mere dushman baun magar
parwardigare aalam (77)

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

wo jisme mujhe paida kiya to wo mujhe raah dega (78)

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾

aur wo jo mujhe khilata aur pilata hai (79)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

aur jab mai beemar hun to wahi mujhe shifa deta hai
(80)

وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي إِذْ أُرِيهِ نَجْوَىٰ مُرْسِيَّتِي حِينَ الْمَوْتِ ﴿٨١﴾

aur wo mujhe wafaat dega fir mujhe zinda karega (81)

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

aur wo jiski mujhe aas lagi hai ke meri khatayen
qiyamat ke din bakhshega (82)

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنَی بِالصَّالِحِیْنَ ۝

ay mere rabb mujhe hukm ataa kar aur mujhe unse mila de jo tere qurbe khas ke sazawar hain (83)

وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِیْنَ ۝

aur meri sacchi naamwari rakh pichhlon me (84)

وَاجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیْمِ ۝

aur mujhe unme kar jo chain ke baaghon ke waris hain (85)

وَاعْفُرْ لِأَبِیْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّآلِّیْنَ ۝

aur mere baap ko bakhsh de beshak wo gumrah hai (86)

وَلَا تُخْزِنِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ ۝

aur mujhe ruswa na karna jis din sab uthaye jayenge (87)

یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝

jis din na maal kaam aayega na bete (88)

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ ۝

magar wo jo allab ke huzoor hazir hua salamat dil le kar (89)

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ ۝

aur qaeer laayi jayegi jannat parhezgaron ke liye (90)

وَبُرِّزَتِ الْجَحِیْمُ لِلْغَوِیِّیْنَ ۝

aur zahir ki jayegi dozakh gumrahon ke liye (91)

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾

aur unse kaha jayga kahan haai wo jinko tum poojte the (92)

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾

allah ke siwa kya wo tumhari madad karenge ya badla lenge (93)

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾

to aundhe diye gahe jahamman me wo aur sab gumraah (94)

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾

aur iblees ke lashkar sare(95)

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾

kahenge aur wo isme baham jhgadte honge (96)

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾

khuda ki qasam beshak hum khuli gumrahi me the (97)

إِذْ نَسَوْنَ كَيْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

jab ke tumhen rabbul aalameen ke barabr thehrate the (98)

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾

aur hume na behkaya magar mujrimo ne (99)

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾

to ab hamara koi sifarishi nahi (100)

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾

aur na koi ghamkhar dost(101)

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠١﴾

to kisi tarah hume fir jana hota ke hum musalman ho jate (102)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾

beshak usme zaroor nishani hai aur unme bahut imaan wale na the (103)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٣﴾

aur beshak tumhara rabb wahi izzat wala meharban hai (104)

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٤﴾

nooh ki qaum ne paighambaron ko jhuthlaya (105)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٥﴾

jab ke unse unke hum qaum nooh ne kaha kya tum darte nahi (106)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٦﴾

behak mai tumhare liye allah ka bheja hua ameen hun (107)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٧﴾

to allah se daro aur mera hukm mano (108)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

aur mai is par tumse kuchh ujrati nahi mangta mera ajr to usi par hai jo sare jahan ka rabb hai (109)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٩﴾

to allah se daro aur mera hukm mano (110)

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنَّا وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ ﴿١١٠﴾

bole kya hum tum par imaan le aayen aur tumhare
sath kameene hue hain (111)

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١١﴾

farmaya mujhe kya khabar unke kaam kya hain (112)

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٢﴾

unka hisab to mere rabb hi par hai agar tumhen his ho
(113)

وَمَا أَنَا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٣﴾

aur mai musalmano ko door karne wala nahi (114)

إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١١٤﴾

mai to nahi magar saf darr sunane wala (115)

قَالُوا الْبَيْنُ لَنَا إِنَّمَا تَنْتَهٰهُمُ يُنۡوِحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٥﴾

bole ay nooh agar tum baaz na aye to zaroor sangsar
kiye jaoge (116)

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٦﴾

arz ki ay mere rabb meri qaum ne mujhe jhuthlaya
(117)

فَأَفْتَحْ يَبْنَٰى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٧﴾

to mujh me aur unme poora faisla kar de aur mujhe
aur mere satb wale musalmano ko najat de (118)

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿١١٨﴾

to humne bacha liya use aur uske sath walon ko bhari

hui kashti me (119)

ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ۝

fir uske baad humne bakiyon ko dubo diya (120)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۝ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

beshak isme zaroor nishani hai aur unme aksar musalman na the (121)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

aur beshak tumhara rabb hi izzat wala meharban hai (122)

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۝

aad ne rasoolon ko jhuthlaya (123)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

jab ke unse unke hum qaum hood ne farmaya kya tum darte nahi (124)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

beshak mai tumhare liye allah ka amaanatdaar rasool hun (125)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

to allah se daro aur mera hukm mano (126)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

aur mai tum se is par kuchh ujrat nahi maangta mera ajr to usi par hai jo sare jahan ka rabb (127)

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۝

kya har bulandi par ek nishan banate ho raahgoron se

hasne ko (128)

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٨﴾

aur mazboot mahal chunte ho is ummed par ke tum
hamesha rahoge (129)

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

aur jab kisi par girift karte ho to badi bedardi se girift
karte ho (130)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾

to allah se daro aur mera hukm maano (131)

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

aur usse daro jisne tumhari madad ki un cheezo se ke
tumhein maloom hain (132)

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾

tumhari madad ki chaupayo aur batiyo (133)

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾

aur baagho aur chashmo se (134)

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

beshak mujhe tum par dar hai ek bade din ke azaab ka
(135)

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَّعْتُمْ أَمْ لَمْ تُكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

bole humein barabar hai chahe tum nasehat karo ya
naseho mein na ho (136)

إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

ye to nahin magar wahi aglo ki reet (137)

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝

aur humein azaab hona nahin (138)

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

to unhone ise jhutlaya to humne unhein halaal kiya beshak is mein zaroor nishani hai aur un mein bahut musalman na the (139)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

aur beshak tumhara rab hi izzat waala meharban hai (140)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝

samood ne rasoolo ko jhutlaya (141)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ ۝

jab ke unse unke hum qaum saaleh ne farmaya kya darte nahin (142)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝

beshak main tumhare liye allah ka amanatdaar rasool hoon (143)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

to allah se daro aur mera hukm maano (144)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۚ إِنَّا أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

aur main tumse is par kuchh ujrat nahin maangta mera ajr to usi par hai jo saare jahaan ka rab hai (145)

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْنَا أَمِينِينَ ۝

kya tum yahan ki nemato mein chain se chhod diye

jaoge (146)

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٦﴾

baagho aur chashmo (147)

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعَهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٧﴾

aur khetiyo aur khajooro mein jin ka shagofa narm
nazuk (148)

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٨﴾

aur pahado mein se ghar tarashte ho istaadi se (149)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ ﴿١٤٩﴾

to allah se daro aur mera hukm maano (150)

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥٠﴾

aur hadd se badhne waalo ke kehne par na chalo (151)

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥١﴾

wo jo zameen mein fasaad phailate hain aur banaao
nahin karte (152)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسْحَرِينَ ﴿١٥٢﴾

bole tum par to jaadu hua hai (153)

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۗ فَأْتِ بَآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٣﴾

tum to humi jaise aadmi ho to koi nishani laao agar
sachhe ho (154)

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٤﴾

farmaya ye naaqa hai ek din iske peene ki baari aur ek
muayyan din tumhari baari (155)

وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٥٦﴾

aur use burai ke saath na chhuo ke tumhein bade din
ka azaab aa lega (156)

فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرُوْا نَدِيْمِيْنَ ﴿٥٧﴾

is par unhone uski koochein kaat di phir subah ko
pachhtate reh gaye (157)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً ۗ ۙ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٥٨﴾

to unhein azaab ne aa liya beshak is mein zaroor
nishani hai aur in mein bahut musalman na the (158)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٩﴾

aur beshak tumhara rab hi izzat waala meharbaan hai
(159)

كَذَّبَتْ قَوْمٌ لُّوطٌ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٦٠﴾

looth ki qaum ne rasoolo ko jhutlaya (160)

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿٦١﴾

jabki unse unke hum qaum looth ne farmaya kya tum
darte nahin (161)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ ﴿٦٢﴾

beshak main tumhare liye allah ka amanatdaar rasool
hoon (162)

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوْنَ ﴿٦٣﴾

to allah se daro aur mera hukm maano (163)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ إِنَّا أَجْرِيْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦٤﴾

aur main is par tum sw kuchh ujrath nahin maangta
mera ajr to usi par hai jo saare jahaan ka rab hai (164)

اتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلِيِّينَ ۝

kya makhloq mein mardo se bad faili karte ho (165)

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۝

aur chhodte ho wo jo tumhare liye tumhare rab ne
joruyein banai balki tum log hadd se badhne waale ho
(166)

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۝

bole aye looth agar tum baaz na aaye to zaroor nikaal
diye jaoge (167)

قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ۝

farmaya main tumhare kaam se bezaar hoon (168)

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝

aye mere rab mujhe aur mere ghar waalo ko unke
kaam se bacha (169)

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝

to humne use aur uske sab ghar waalo ko najaat
bakhshi (170)

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۝

magar ek budhiya ke pichhe reh gaya (171)

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۝

phir humne dusro ko halaak kar diya (172)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۝

aur humne un par ek barsaao barsaya to kya hi bura
barsaao tha daraye gayo ka (173)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٣﴾

beshak is mein zaroor nishani hai aur un mein bahut
misalman na the (174)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٤﴾

aur beshak tumhara rab hi izzat waala meharbaan hai
(175)

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٥﴾

ban waalo ne rasoolo ko jhutlaya (176)

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٦﴾

ban waalo ne rasoolo ko jhutlaya (177)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٧﴾

beshak main tumhare liye allah ka amanatdaar rasool
hoon (178)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

to allah se daro aur mera hukm maano (179)

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۗ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾

aur main is par kuchh tumse ujrati nahin maangta
mera ajr to usi par hai jo saare jahaan ka rab hai (180)

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾

naap poora karo aur ghatane waalo mein na bano
(181)

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمَارًا الْمُسْتَقِيمِينَ ﴿١٨٢﴾

aur seedhi tarazu se tauilo (182)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ

aur logon ki cheezein kam kar ke na do aur zameen
mein fasaad phailate na phiro (183)

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ ۗ

aur usse daro jisne tumko paida kiya aur agli makhlooq
ko (184)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۗ

bole tum par jaadu hua hai (185)

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۖ

tum to nahin magar hum jaise qadmi aur beshak hum
tumhein jhoota samajhte hain (186)

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۗ

to hum par aasman ka koi tukda gira do agar tum
sachhe ho (187)

قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ

farmaya mera rab khoob jaanta hai jo tumhare kotak
hain (188)

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يُّومِ الظِّلَّةِ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يُّومٍ عَظِيمٍ ۖ

to unhone ise jhutlaya to unhein shamyane waale din
ke azaab ne aa liya beshak wo bade din ka azaab tha
(189)

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ

beshak is mein zaroor nishani hai aur un mein bahut

musalman na the (190)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٠﴾

aur beshak tumhara rab hi izzat waala meharbaan hai
(191)

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩١﴾

aur beshak ye quran rabbul aalameen ka utara hua hai
(192)

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٢﴾

ise roohul ameen le kar utra (193)

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٣﴾

tumhare dil par ke tum dar sunao (194)

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٤﴾

raushan arab zuban mein (195)

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٥﴾

aur beshak iska charcha agli kitabo mein hai (196)

أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْعِلَ عَنْهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٦﴾

aur kya ye unke liye nishani na thi ke us nabi ko jaante
hain bani israyeel ke aalim (197)

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَبِينَ ﴿١٩٧﴾

aur agar hum ise kisi ghair arabi shakhs par utaarte
(198)

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٨﴾

ke wo unhein padh sunata jab bhi is par imaan na laate
(199)

كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

humne yun hi jhutlana paira diya hai mujrimo ke dilo mein (200)

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝

wo us par imaan na layenge yahan tak ke dekhein dardnak azaab (201)

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

to wo achanak un par aa jayega aur unhein khabar na hogi (202)

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ۝

to kahenge kya humein kuchh muhlat milegi (203)

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۝

to kya humare azaab ki jaldi karte hain (204)

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۝

bhala dekho to agar kuchh baras hum inhein baratne dein (205)

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ۝

phir aaye un par wo jiska wo waada diye jaate hain (206)

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَعْوُونَ ۝

to kya kaam aayega unke wo jo baratte the (207)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۝

aur humne koi basti halaak na ki jise dar sunane waale na ho (208)

ذُكِرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

naseehat ke liye aur hum zulm nahin karte (209)

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾

aur is quran ko le kar shaitan na utre (210)

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾

aur wo qabil nahin aur na wo aisa kar sakte hain (211)

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْرُؤُونَ ﴿٢١٢﴾

wo to sunne ki jagah se door kar diye gaye hain (212)

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

to tu allah ke siwa dusra khuda na puj ke tujh par
azaab hoga (213)

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

aur aye mahboob apne qareeb tar rishtedaro ko darao
(214)

وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِئِنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

aur apni rahmat ka baazu bichhao apne pairu
musalmano ke liye (215)

فَإِنْ عَصَاكَ فَوَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

to agar wo tumhara hukm na maanein to farma do
main tumhare kaamo se be ilaqa hoon (216)

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾

aur us par bharosa karo jo izzat waala mehar waala
(217)

الَّذِي يَرُدُّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾

jo tumhein dekhta hai jab tum khade hote ho (218)

وَتَقْلَبَكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿٢١٨﴾

aur namaziyo mein tumhare doore ko (219)

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢١٩﴾

beshak wahi sunta jaanta hai (220)

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ الشَّيْطَانُ ﴿٢٢٠﴾

kya main tumhein bata doon ke kis par utarte hain
shaitan (221)

تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢١﴾

utarte hain har bade bohtan waale gunahgar par (222)

يُلْقُونَ السَّعَةَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢٢﴾

shaitan apni suni hui un par daalte hain aur un mein
aksar jhoote hain (223)

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٣﴾

aur shaairo ki pairwi gumrah karte hain (224)

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٤﴾

kya tum ne na dekha ke wo har naale mein
sargardaa'n phirte hain (225)

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٥﴾

aur wo kehte hain jo nahin karte (226)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا

ظَلَمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٦﴾

magar wo jo imaan laaye aur achhe kaam kiye aur
bakasrat allah ki yaad ki aur badla liya baad iske ke un

par zulm hua aur ab jaana chahte hain zalim ke kis
karwat par palta khayenge (227)

Surah Naml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

طَسَّ تِلْكَ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

ye aayatein hain quran aur raushan kitab ki (1)

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

hidayat aur khushkhabri imaan waalo ko (2)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

wo jo namaz barpa rakhte hain aur zakat dete hain aur
wo aakhirat par yaqeen rakhte hain (3)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْبَهُونَ ۝

wo jo aakhirat par imaan nahin laate humne unke
kotak unki nigah mein bhale kar dikhaye hain to wo
bhatak rahe hain (4)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخُسْرُونَ ۝

ye wo hain jinke liye bura azaab hai aur yahi aakhirat
mein sabse badh kar nuqsan mein (5)

وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝

aur beshak tum quran sikhaye jaate ho hikmat waale
ilm waale ki taraf se (6)

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنستُ نَارًا ۖ سَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ
قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾

jabki moosa ne apni gharwali se kaha mujhe ek aag nazar padi hai anqareeb main tumhare paas us ki koi khabar laata hoon ya us mein se koi chamakti chingari launga ke tum taapo (7)

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۖ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨﴾

phir jab aag ke paas aaya nida ki gai ke barkat diya gaya wo jo is aag ki jalwa gaah mein hai yaani moosa aur jo iske aas paas hain yaani firishte aur paaki hai allah ko jo rab hai saare jahaan ka (8)

يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٩﴾

aye moosa baat ye hai ke main hi hoon allah izzat waala hikmat waala (9)

وَالَّذِي عَصَاكَ ۖ فَلَئِمَّا رَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا ۖ وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يٰمُوسَىٰ لَا
تَخَفْ ۗ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُوْلُوْنَ ﴿١٠﴾

aur apna asaa daal de phir moosa ne use dekha lehrata hua goya saanp hai peeth pher kar chala aur mud kar na dekha humne farmaya aur moosa dar nahin beshak mere huzoor rasoolo ko khauf nahin hota (10)

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١١﴾

haan jo koi zyadati kare phir burai ke baad bhalai se

badle to beshak main bakhshne waala meharban hoon
(11)

وَأَدْخَلَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ ۗ فِي تَسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَ
قَوْمِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝

aur apna haath apne gireban mein daal niklega safed
chamakta be aib no nishaniyo mein firaun aur uski
qaum ki taraf beshak wo be hukm log hain (12)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

phir jab humari nishaniya aankhein kholti unke paas
aai bole ye to sareeh jaadu hai (13)

وَجحدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُفْسِدِينَ ۝

aur unke munkir hue aur unke dilo mein unka yaqeen
tha zulm aur takabbur se to dekho kaisa anjaam hua
fasadiyo ka (14)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۗ وَقَالَ الْحمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ
عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝

aur beshak humne dawood aur suleman ko bada ilm
ata farmaya aur dono ne kaha sab khoobiya'n allah ko
jisne humein apne bahut se imaan waale bando par
fazeelat bakhshi (15)

وَوَرثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝

aur suleman dawood ka janasheen hua aur kaha aye

logon humein parindo ki boli sikhai gai aur har cheez mein se hum ko ata hua beshak yahi zahir fazl hai (16)

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٦﴾

aur jama kiye gaye suleman ke liye uske lashkar jinno aur aadmiyo aur parindo se to wo roke jaate the (17)

حَتَّىٰ إِذَا آتَوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ ۗ لَا

يَحْطِبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ۗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٧﴾

yahan tak ke jab chuntiyo ke naale par aaye ek chunti boli chuntiyo apne gharo mein chali jao tumhein kuchal na daalein suleman aur un ke lashkar be khabri mein (18)

فَتَبَسَّ مَضْحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ

الصَّالِحِينَ ﴿١٨﴾

to uski baat se muskura kar hansa aur arz ki aye mere rab mujhe taufiq de ke main shukr karoon tere ehsan ka jo tune mujh par aur mere maa baap par kiye aur ye ke main wo bhala kaam karoon jo tujhe pasand aaye aur mujhe apni rahmat se apne un bando mein shamil kar jo tere qurbe khaas ke sazawaar hain (19)

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ ۗ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿١٩﴾

aur parindo ka jaiza liya to bola mujhe kya hua ke main hud hud ko nahin dekhta wo waqai hazir nahin (20)

لَا عَذْبَ بَنَّةٍ عَبْدًا أَبًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

zaroor main use sakht azaab karunga ya zibah kar dunga ya koi raushan sanad mere paas laaye (21)

فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ ﴿٢١﴾

to hud hud kuchh zyada der na thehra aur aa kar arz ki ke main wo baat dekh aaya hoon jo huzoor ne na dekhi aur main shehre saba se huzoor ke paas ek yaqeeni khabar laaya hoon (22)

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَبْلُغُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾

maine ek aurat dekhi ke un par badshahi kar rahi hai aur use har cheez mein se mila aur uska bada takht hai (23)

وَجَدْتُنَّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ

أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

maine use aur uski qaum ko paaya ke allah ko chhod kar suraj ko sajda karte hain aur shaitan ne unke aamal unki nigah mein sanwaar kar unko seedhi raah se rok diya to wo raah nahin paate (24)

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّيِّئَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ

وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٤﴾

kyun nahin sajda karte allah ko jo nikaalta hai aasmano aur zameen ki chhupi cheezein aur jaanta hai jo kuchh tum chhupate ho aur zaahir karte ho (25)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٥﴾

allah ke uske siwa koi sachcha mabood nahin wo bade

arsh ka malik hai (26-sajda)

قَالَ سَدَنُظْرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٦﴾

suleman ne farmaya ab hum dekhenge ke tune sach kaha ya jhooto mein hai (27)

اِذْهَبْ بِكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهٖ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَاَنْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٧﴾

mera ye farman le ja kar un par daal phir unse alag hat kar dekh ke wo kya jawab dete hain (28)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اِنِّىْ اُلْقِيْتُ اِلَيْكَ كَرِيْمًا ﴿٢٨﴾

wo aurat boli aye sardaro beshak meri taraf ek izzat waala khat daala gaya (29)

اِنَّهُ مِنْ سُلٰمِيْنَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢٩﴾

beshak wo suleman ki taraf se hai aur beshak allah ke naam se hai jo nihayat meharban raham waala (30)

اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰى وَاَنْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣٠﴾

ye ke mujh par bulandi na chaho aur gardan rakhte mere huzoor haazir ho (31)

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا اَفْتُوْنِيْ فِىْ اَمْرِىْ ؕ مَا كُنْتُ قٰطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ ﴿٣١﴾

boli aye mere sardaro mere is muamla mein mujhe raaye do main kisi muamla mein koi qatai faisla nahin karti jab tak tum mere paas haazir na ho (32)

قَالُوْا اِنْحُنْ اَوْ لُوْا قُوَّةً وَّاُولُوْا بِاَسْ شَدِيْدٍ ﴿٣٢﴾ وَاَلَا مَرُّ اِلَيْكَ فَاَنْظُرِىْ مَاذَا

تَأْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾

wo bole hum zor waale aur badi sakht ladai waale hain aur ikhteyar tera hai to nazar kar ke kya hukm deti hai

(33)

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً ۗ وَكَذَلِكَ

يَفْعَلُونَ ﴿٣٣﴾

boli beshak jab badshah kisi basti mein dakhil hote hain use tabah kar dete hain aur uske izzat waalo ko zaleel aur aisa hi karte hain (34)

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ لِئَلَّا يَمُرُّ بِيَ جُوعٌ أَوْ سَاقَاةٌ ۚ فَاسْتَوَىٰ

aur main unki taraf ek tohfa bhejne waali hoon phir dekhungi ke elchi kya jawab le kar palte (35)

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ

بِهَدِيَّتِكُمْ تُفَرِّحُونَ ﴿٣٤﴾

phir jab wo suleman ke paas aaya suleman ne farmaya kya maal se meri madad karte ho to jo mujhe allah ne diya wo behtar hai usse jo tumhein diya balki tum hi apne tohfa par khush hote ho (36)

ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا آذِلَّةً وَهُمْ

صَغُرُونَ ﴿٣٥﴾

palat ja unki taraf to zaroor hum un par wo lashkar layenge jin ki unhein taaqat na hogi aur zaroor hum unko us shehar se zaleel kar ke nikal denge yun ke wo past honge (37)

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوا الْأِيكُمُ يَا تَيْنِي بِعَرَشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

suleman ne farmaya aye darbariyo tum mein kaun hai ke wo uska takht mere paas le aaye qabal iske ke wo

mere huzoor mutee ho kar haazir ho (38)

قَالَ عَفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ أَنَا أْتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ۚ وَإِنِّي عَلَيْكَ
لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٨﴾

ek bada khabees jinn bola ke wo takht huzoor main haazir kar dunga qabal iske ke huzoor ijlaas barkhast karein aur main beshak is par quwwat waala amanatdar hoon (39)

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتَيْتُكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفَكَ ۗ
فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۗ لِيَبْلُوَنِي ۗ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۗ
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٣٩﴾

usne arz ki jiske paas kitab ka ilm tha ke main ise huzoor mein haazir kar dunga ek pal marne se pehle phir jab suleman ne us takht ko apne paas rakha dekha kaha ye mere rab ke fazl se hai taaki mujhe aazmaye ke main shukr karta hoon ya nashukri aur jo shukr kare to wo apne bhale ko shukr karta hai aur jo nashukri kare to mera rab beparwa hai sab khoobiyo waala (40)

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤٠﴾

suleman ne hukm diya aurat ka takht uske samne waza badal kar begana kar do ke hum dekhein ke wo raah paati hai ya un mein hoti hai jo nawaqif rahe (41)

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۗ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۗ وَأُوْتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ
كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤١﴾

phir jab wo aai usse kaha gaya kya tera takht aisa hi hai
boli goya ye wahi hai aur hum ko is waqiya se pehle
khabar mil chuki aur hum farmanbardar hue (42)

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٢﴾

aur use roka us cheez ne jise wo allah ke siwa puji thi
beshak wo kafir logon mein se thi (43)

قِيلَ لَهَا ادْخِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبْتَهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ۖ قَالَ إِنَّهُ
صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾

usse kaha gaya sehan mein aa phir jab isne use dekha
use gehra paani samjhi aur apni saaqein kholi suleman
ne farmaya ye to ek chikna sehan hai sheeshon jada
aurat ne arz ki aye mere rab maine apni jaan par zulm
kiya aur ab suleman ke saath allah ke huzoor gardan
rakhti hoon jo rab saare jahaan ka (44)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ
يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾

aur beshak humne samood ki taraf unke hum qaum
saaleh ko bheja ke allah ko pujo to jabhi wo do giroh
ho gaye jhagda karte (45)

قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۗ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

saaleh ne farmaya aye meri qaum kyun burai ki jaldi
karte ho bhalai se pehle allah se bakhshish kyun nahin

maangte shayad tum par reham ho (46)

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ ۗ قَالَ طَّيَّرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٦﴾

bole humne bura shugoon liya tum se aur tumhare sathiyon se farmaya tumhari badshuguni Allah ke paas hai balki tum log fitne mein padte ho (47)

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٧﴾

aur shehar mein nau shakhs the ke zameen mein fasaad karte aur sanwaar na chahte (48)

قَالُوا اتَّقَاسِبُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٨﴾

aapas mein Allah ki qasmein kha kar bole hum zaroor raat ko chhapa marengi saaleh aur uske ghar walon par phir uske waris se kahenge is ghar walon ke qatl ke waqt hum haazir na the aur beshak hum sachhe hain (49)

وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرُؤًا مَكْرًا ۗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٩﴾

aur unhone apna sa makar kiya aur humne apni khufya tadbeer farmai aur wo ghafil rahe (50)

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۗ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾

to dekho kaisa anjaam hua unke makar ka humne halaak kar diya unhein aur unki saari qaum ko (51)

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥١﴾

to ye hain unke ghar dhaye badla un ke zulm ka beshak is mein nishani hai janne walon ke liye (52)

وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾

aur humne unko bacha liya jo imaan laaye aur darte the (53)

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾

aur looth ko jab usne apni qaum se kaha kya be hayai par aate jo aur tum soojh rahe ho (54)

أَبْنَيْكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾

kya tum mardo ke paas masti se jaate jo auratein chhod kar balki tum jahil log ho (55)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ

يَتَّبِعُونَ ﴿٥٦﴾

to us ki qaum ka kuchh jawab na tha magar ye ke bole looth ke gharane ko apni basti se nikaal do ye log to suthrapan chahte hain (56)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۖ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾

to humne use aur uske ghar waalo ko najaat di magar uski aurat ko humne thehra diya tha ke wo reh jaane waalo mein hai (57)

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾

aur humne un par ek barsao paaya to kya hi bura barsao tha daraye huo ka (58)

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

tum kaho sab khoobiya'n allah ko aur salaam uske chune hue bando par kya allah behtar ya unke sakhta shareek (59)

Beeswa Paarah

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ
حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ
قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

ya wo jisne aasman wa zameen banaye aur tunhare
liye aasman se pani utara to humne usse baagh ugaye
raunaq wale tumhari taaqat na thi ke unse ped ugaate
kya allah ke sath koi aur khuda hai balki wo log raah se
katrate hain (60)

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلْفَهَا أَنْهْرًا ۖ وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

ya wo jisne zameen basne ko banayi aur uske beech
me nehre nikali aur unke ke liye langar banaye aur
dono samnadaro me aad rakhi kya allah ke sath koi
aur khuda hai balki unme aksar jahil hain (61)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ هُمْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

ya wo jo laachar ki sunta hai jab use pukare aur door
kar deta hai burai aur tumhen zameen ke waris karta
hai kya allah ke sath koi aur khuda hai bahut hi kam
dhyan karte ho (62)

أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ طَعَالَهُ مَعَ اللَّهِ طَتَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾

ya wo jo tumhe raah dikhata hai khushki aur tari ki andheriyon me aur wo ke hawayen bhejta hai apni rahmat ke aage khushkhabri sunati kya allah ke sath koi aur khuda hai bartar hai allah unke shirk se (63)

أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ طَعَالَهُ مَعَ
اللَّهِ طَقُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

ya wo jo khalq ki ibteda farmata hai fir use dubara banayega aur wo jo tumhen aasmano aur zameen se rozi deta hai kya allah ke sath koi aur khuda hai tum farmao ke apni daleel lao agar tum sacche ho (64)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ طَوَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

tum farmao khud gaib nahi jante jo koi aasman aur zameen me hai magar allah aur unhe khabar nahi ke kab uthaye jayenge (65)

بَلِ ادْرَاكِ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ نَسَبُ لُهُمْ فِي شَاكٍ مِّنْهَا نَبَلُ لُهُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

kya unke ilm ka silsila akherat ke jaanne tak pahuch gaya, koi nahi wo uski taraf se shak me hain, balki wo usse andhe hain (66)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُ وَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾

aur kafir bole kya jab hum aur hamare baap dada mitti ho jayenge kya hum fir nikale jayenge (67)

لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

beshak uska wada diya gaya hum ko aur humse pehle hamare baap dadao ko ye to nahi magar aglo ki kahaniyan (68)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٩﴾

tum farmao zameen me chal kar dekho kaisa hua anjaam mujrimo ka (69)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَنْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

aur tum un par gham na khao aur unke makr se dil tang na ho (70)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾

aur kehte hain kab aayega ye wada agar tum sacche ho (71)

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾

tum farmao qareeb hai ke tumhare peechhe aa lagi ho baaz cheez jiski tum jaldi macha rahe ho (72)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

aur beshak tera rabb fazl wala hai aadmiyon par lekin aksar aadmi haqq nahi mante (73)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾

aur beshak tumhara rabb janta hai jo unke seeno me chhupi hai aur jo wo zahir karte hain (74)

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾

aur jitne ghaib hain aasmano aur zameen ke sab ek

batane wali kitab me hai (75)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُضُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٥﴾

beshak ye qur'an zikr farmata hai bani israeel se aksar
wo baaten jisme wo ikhtilaf karte hain (76)

وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٦﴾

aur beshak wo hidayat aur rahmat hai musalmano ke
liye (77)

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾

beshak tumhara rabb unke aapas me faisla farmata
hai apne hukm se aur wahi hai izzat wala ilm wala (78)

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٨﴾

to tum allah par bharosa karo beshak tum raushan
haqq par ho (79)

إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْبَوَاتِي ۖ وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدْبِرِينَ ﴿٧٩﴾

beshak tumhare sunaye nahi sunte murde aur na
tumhare sunaye behre pukar sune jab fire peeth de kar
(80)

وَمَا أَنْتَ بِهَدَى الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَّاتِهِمْ ۗ إِنَّ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ

مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

aur andho ko unki gumrahi se tum hidayat karne wale
nahi tumhare sunaye to wahi sunte hain jo hamari
aayaton par imaan late hain aur musalman hain (81)

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۗ أَنَّ النَّاسَ

كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨١﴾

aur jab baat un par aa padegi hum zameen se unke liye ek chaupaya nikalenge jo logon se kalaam karega isliye ke log hamari aayaton par imaan na late the (82)

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾

aur jis din uthayenge hum har giroh me se ek fauj jo hamari aayaton ko jhuthlati hai to unke agle roke jayenge ke pichhle unse aa mile (83)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالُوا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عَلِيمًا ۗ أَمَّا ذَاكُنْتُمْ تُعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾

yahan tak ke jab sab hazir ho lenge farmayega kya tum ne meri aayeten jhuthlayi halanki tumhara ilm un tak na pahuchta tha ya kya kaam karte the (84)

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٤﴾

aur baat pad chuki un par unke zulm ke sabab to wo ab kuchh nahi bolte (85)

الْمَيْرُوا أَنَا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾

kya unhone na dekha ke humne raat banayi ke usme aaram karen aur din ko banaya sujhane wala beshak isme zaroor nishaniyan hain un logon ke liye ke imaan rakhte hain (86)

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ وَكُلُّ أَتَوْهُ دُخْرِينَ ﴿٨٦﴾

aur jis din phoonka jayega soor to ghabraye jayenge jitne aasmano me hain aur jitne zameen me hain magar kise khuda chahe aur sab uske huzoor hazir hue

aajizi karte (87)

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ ۗ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٧﴾

aur tu dekhega pahado ko khyal karega ke wo jame hue hain aur wo chalte honge baadal ki chaal ye kaam hai allah ka jisne hikmat se banayi har cheez beshak use khabar hai tumhare kamo ki (88)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَ مَبِئَةِ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾

jo neki laye uske liye usse behtar sila hai aur unko us din ki ghabrahat se amaan hai (89)

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۗ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

aur jo badi laye to unke muh aundhayee gaye aag me tumhen kya badla milega magar usi ka jo karte the (90)

إِنَّمَا أَمْرٌ أَنْ عَبَّدَ رَبُّ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّتِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۗ وَأَمْرٌ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

mujhe to yahi hukm hua hai ke poojun is shehar ke rabb ko jisne ise hurmat wala kiya hai aur sab kuchh usi ka hai aur mujhe hukm hua hai ke farmabardaro me hun (91)

وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۗ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا
أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾

aur ye ke qur'an ki tilawat karun to jisne raah payi usne apne bhale ko raah payi aur jo behke to farma do ke

mai to yahi darr sunane wala hun (92)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَّرِيكُمْ إِلَيْهِ فِتْنَةً فَوْنَهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾

aur farmao ke sab khoobiyen allah ke liye hain anqareeb wo tumhen apni nishaniyan dikhayega to unhen pehchan loge aur ay mehboob tumhara rabb ghafil nahi ay logon tumhare amal se (93)

Surah Qasas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

طَسَمَّ ﴿١﴾

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾

ye aayatein hain raushan kitab ki (2)

نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾

hum tum par padhein moosa aur firaun ki sachhi khabar un logon ke liye jo imaan rakhte hain (3)

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ

أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَعْجِلُونَ نِسَاءَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾

beshak firaun ne zameen mein ghalaba paaya tha aur uske logon ko apna taabe bana liya un mein ek giroh ko kamzor dekhta unke beto ko zibah karta aur unki aurato ko zinda rakhta beshak wo fasadi tha (4)

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ

الْوَارِثِينَ ﴿٥﴾

aur hum chahte the ke un kamzoro par ehsaan farmayein aur un ki peshwa banayein aur unke milk wa maal ka unhi ko waris banayein (5)

وَنُمَكِّنْ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا

يَحْذَرُونَ ﴿٦﴾

aur unhein zameen mein qabza dein aur firaun aur hamaan aur lashkaro ko wahi dikha dein jiska unhein unki taraf se khatra hai (6)

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي

وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾

aur humne moosa ki maa ko ilhaam farmaya ke use doodh phila phir jab tujhe us se andesha ho to use darya mein daal de aur na dar aur na gham kar beshak hum use teri taraf pher layenge aur use rasool banayenge (7)

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا

كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿٨﴾

to use utha liya firaun ke ghar waalo ne ke wo unka dushman aur un par gham ho beshak firaun aur haamaan aur unke lashkar khatakaar the (8)

وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِي لِئَلَّا تُفْتَلِحَ ۖ وَكَذَلِكَ ۗ لَا تَقْتُلُوهُ ۗ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ

تَتَّخِذَهَا وَكَدًّا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

aur firauun ki biwi ne kaha ke ye bachha teri aur meri aankho ki thandak hai ise qatl na karo shayad ye humein nafa de ya hum ise beta bana lein aur wo be khabar the (9)

وَاصْبَحَ فَوْأَادُ امِّ مُوسَى فَرِيحًا ۖ إِنَّ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَى قَلْبِهَا
لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾

aur subah ko moosa ki maa ka dil be sabr ho gaya zaroor qareeb tha ke wo iska haal khol deti agar hum na dhaaras bandhate uske dil par ke use humare waade par yaqeen rahe (10)

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾

aur (uski maa ne) uski behan se kaha uske pichhe chali ja to wo use door se dekhti rahi aut un ko khabar na thi (11)

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ
لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نٰصِحُونَ ﴿١٢﴾

aur humne pehle hi sab daaiya us par haraam kar di thi to boli kya main tumhein bata doon aise ghar waale ke tumhare bachha ko paal dein aur wo iske khairkhwah hain (12)

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۗ وَلٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾

to humne use uski maa ki taraf phera ke maa ki aankh

thandi ho aur gham na khaaye aur jaan le ke allah ka waada sachha hai lekin aksar log nahin jaante (13)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾

aur jab apni jawani ko pahuncha aur poore zor par aaya humne use hukm aur ilm ata farmaya aur hum aisa hi sila dete hain neko ko (14)

وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۗ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنَ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۗ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ۗ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾

aur us shehar mein dakhil hua jis waqt shehar waale dopahar ke khwab mein bekhabar the to us mein do mard ladte paaye ek moosa ke giroh se tha aur dusra uske dushmano se to wo jo uske giroh se tha usne moosa se madad maangi us par jo uske dushmano se tha to moosa ne uske ghoonsa maara to uska kaam tamaam kar diya kaha ye kaam shaitan ki taraf se hua beshak wo dushman hai khula gumrah karne waala (15)

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٥﴾

arz ki aye mere rab maine apni jaan par zyadati ki to mujhe bakhsh de to rab ne use bakhsh diya beshak wahi bakhshne waala meharbaan hai (16)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٦﴾

arz ki aye mere rab jaisa tune mujh par ehsan kiya to ab hargiz main mujrimo ka madadgar na honga (17)

فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ ۗ
قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧﴾

to subah ki us shehar mein darte is intezar mein ke kya hota hai jabhi dekha ke wo jisne kal unse madad chahi thi faryad kar raha hai moosa ne usse farmaya beshak tu khula gumrah hai (18)

فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۗ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا
قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۗ إِنَّ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ
تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٨﴾

to jab moosa ne chaha ke us par giraft kare jo un dono ka dushman hai wo bola aye moosa kya tum mujhe waisa hi qatl karna chahte ho jaisa tumne kal ek shakhs ko qatl kar diya tum to yahi chahte ho ke zameen mein sakht geer bano aur islah karna nahin chahte (19)

وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ۚ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُتْرَكُونَ بِكَ
لِيُقْتَلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿١٩﴾

aur shehar ke parle kinare se ek shakhs daudta aaya kaha aye moosa beshak darbar waale aapke qatl ka mashwara kar rahe hain to nikal jaaiye main aapka khairkhwah hoon (20)

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ۚ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٠﴾

to us shehar se nikla darta hua is intezar mein ke ab
kya hota hai arz ki aye mere rab mujhe sitamgaro se
bacha le (21)

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿٢١﴾

aur jab madain ki taraf mutawajje hua kaha qareeb hai
ke mera rab mujhe seedhi raah bataye (22)

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۚ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ
أَمْرَاتَيْنِ تَذُودُنِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٢﴾

aur jab madain ke paani par aaya wahan logon ke ek
giroh ko dekha ke apne janwaro ko paani pila rahe
hain aur unse us taraf do auratein dekhi ke apne
janwaro ko rok rahi hain moosa ne farmaya tum dono
ka kya haal hai wo boli hum paani nahin pilate jab tak
sab charwahe pila kar pher na le jaayein aur humare
baap bahut boodhe hain (23)

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٣﴾

to moosa ne un dono ke janwaro ko paani pila diya
phir saaya ki taraf phira arz ki aye mere rab main is
khane ka jo tu mere liye utare muhtaaj ho (24)

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَىٰ اسْتِحْيَاءٍ ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا
سَقَيْتَ لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۗ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ﴿٢٤﴾

to un dono mein se ek uske paas aai sharma se chalti

hui boli mera baap tumhein bulata hai ke tumhein mazdoori de iski jo tumne humare janwaro ko paani pilaya hai jab moosa uske paas aaya aur use baatein keh sunai usne kaha dariye nahin aap bach gaye zalimo se (25)

قَالَتْ اِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَا جِرُهُ اِنَّ حَايِرٍ مِّنْ اسْتَا جِرَتِ الْقَوِيِّ الْاَمِيْنِ ﴿٢٥﴾

un mein ki ek boli aye mere baap in ko naukar rakh lo beshak behtar naukar wo jo taqatwar amanatdaar ho (26)

قَالَ اِنَّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكَحَاكَ اِحْدَى ابْنَتِيْ هَتِيْنِ عَلٰى اَنْ تَاْجُرِنِيْ ثَلَاثِيْ حَجِيْجٍ ؕ فَاِنْ اَتَيْمَتْ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ؕ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٢٦﴾

kaha main chahta hoon ke apni un dono betiyo mein se ek tumhein byaah doon is mehar par ke tum aath baras meri mulazimat karo phir agar poore dus baras kar lo to tumhari taraf se hai aur main tumhein mashaqqat mein daalna nahin chahta qareeb hai insha allah ta'ala tum mujhe neko mein paoge (27)

قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيُّمَا الْاَجْلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا

نَقُوْلُ وَاكِيْلٌ ﴿٢٧﴾

moosa ne kaha ye mere aur aapke darmiyan iqrar ho chuka main un dono mein jo miyaad poori kar doon to mujh par koi mutalba nahin aur humare is kahe par allah ka zimma hai (28)

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ
 امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾

phir jab moosa ne apni miyaad poori kar di aur apni
 bibi ko le kar chala toor ki taraf se ek aah dekhi apni
 ghar waali se kaha tum thehro mujhe toor ki taraf se
 ek aag nazar padi hai shayad main wahan se kuchh
 khabar laaun ya tumhare liye koi chingari laaun ke tum
 taapo (29)

فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ
 يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾

phir jab aag ke paas haazir hua nida ki gai maidan ke
 dahine kinare se barkat waale maqam mein ped se ke
 aye moosa beshak main hi hoon rab saare jahaan ka
 (30)

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا ۖ وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَٰمُوسَىٰ
 أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۗ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾

aur ye ke daal de apna asaa phir jab moosa ne use
 dekha lehrata hua goya saanp hai peeth pher ka chala
 aur mud kar na dekha aye moosa saamne aa aur dar
 nahin beshak tujhe amaan hai (31)

أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ ۚ وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ
 الرَّهْبِ ۚ فَذُنُوكَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا

فَسِقِينَ ﴿٣٢﴾

apna haath gireban mein daal niklega safed chamakta
be aib aur apna haath apne seene par rakh le khauf
door karne ko to ye do hujjatein hain tere rab ki firau
aur uske darbariyo ki taraf beshak wo be hukm log
hain (32)

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾

arz ki aye mere rab maine un mein ek jaan maar daali
hai to darta hoon ke mujhe qatl kar dein (33)

وَآخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ

يُكذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

aur mera bhai haroon uski zuban mujhse zyada saaf
hai to use meri madad ke liye rasool bana ke meri
tasdeeq kare mujhe dar hai ke wo mujhe jhutlayenge
(34)

قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيٰتِنَا

أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾

farmaya qareeb hai ke hum tere baazu ko tere bhai se
quwwat denge aur tum dono ko ghalaba ata
farmayenge to wo tum dono ka kuchh nuqsan na kar
sakenge humari nishaniyo ke sabab tum dono aur jo
tumhari pairwi karenge ghalib aaoge (35)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَبِعْنَا

بِهٰذِهِ اٰبَاۓنَا الْاَوَّلِيۡنَ ﴿٣٦﴾

phir jab moosa unke paas humari raushan nishaniya aaya bole ye to nahin magar banawat ka jaadu aur hum ne apne agle baap dadao mein aisa na suna (36)

وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِبَنِّ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٦﴾

aur moosa ne farmaya mera rab khoob jaanta hai jo uske paas se hidayat laaya aur jiske liye aakhirat ka ghar hoga beshak zulm muraad ko nahin pahunchte

(37)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ۗ فَأَوْقِدْ لِي يَا مَلِكُ عَلَى
الطِّينِ فَاَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٣٨﴾

aur firauun bola aye darbariyo! main tumhare liye apne siwa koi khuda nahin jaanta to aye hamaan mere liye gaara paka kar ek mehal bana ke shayad main moosa ke khuda ko jhaank aaun aur beshak mere gumaan mein to wo jhoota hai (38)

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾

aur usne aur uske lashkariyo ne zameen mein beja badai chahi aur samjhe ke unhein humari taraf phirna nahin (39)

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

to hum ne use aur uske lashkar ko pakad kar darya mein phenk diya to dekho kaisa anjam hua sitamgaro ka (40)

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

aur unhein humne dozakhiyo ka peshwa banaya ke aag ki taraf bulate hain aur qiyamat ke din inki madad na hogi (41)

وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿٤٢﴾

aur is dunya mein humne unke pichhe lanat lagai ajr qiyamat ke din unka bura hai (42)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَاحِبِ اللَّتَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

aur beshak humne moosa ko kitab ata farmai baad iske ke agli sangatein halaak farma di jis mein logon ke dil ki aankhein kholne waali baatein aur hidayat aur rahmat taaki wo naseehat maanein (43)

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ ۗ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

aur tum toor ji janib maghrib mein na the jabki humne moosa ko risalat ka hukm bheja aur us waqt tum haazir na the (44)

وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

magar hua ye ke humne sangatein paida ki ke un par zamana daraaz guzra aur na tum ahle madain mein muqem the un par humari aayatein padhte hue haan hum rasool banane waale hue (45)

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ۗ وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ

مِّنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

aur na tum toor ke kinare the jab humne nida farmai haan tumhare rab ki mehar se (ke tumhein ghaib ke ilm diye) ke tum aisi qaum ko dar sunao jiske paas tumse pehle koi dar sunane waala na aaya ummeed karte hue ke unko naseehat ho (46)

وَلَوْ لَا أَن تَصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا

رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

aur agar na hota ke kabhi pahunchti unhein koi musibat uske sabab jo unke haatho me aage bheja to kehte aye humare rab tu ne kyun na bheja humari taraf koi rasool ke hum teri aayato ki pairwi karte aur imaan laate (47)

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ ۗ أَوْ لَمْ

يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ۗ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ

كُفْرُونٍ ﴿٤٨﴾

phir jab unke paas haq aaya humari taraf se bole unhein kyun na diya gaya jo moosa ko diya gaya kya uske munkir na hue the jo pehle moosa ko diya gaya bole do jaadu hain ek dusre ki peshi par aur bole hum in dono ke munkir hain (48)

قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

tum farmao to allah ke paas se koi kitab le aao jo un dono kitabo se zyada hidayat ki ho main uski pairwj karunga agar tum sachhe ho (49)

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ
هُوَ لَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

phir agar wo ye tumhara farmana qabool na karein to
jaan lo ke bas wo apni khwahisho hi ke pichhe hain aur
usse badh kar gumrah kaun jo apni khwahish ki pairwi
kare allah ki hidayat se juda beshak allah hidayat nahin
farmata zalim logon ko (50)

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

aur beshak humne unke liye baat musalsal utaari ke
wo dhyaan karein (51)

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

jिन ko humne usse pehle kitab di wo us par imaan laate
hain (52)

وَإِذَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾

aur jab un par ye aayatein padhi jaati hain kehte hain
hum is par imaan laaye beshak yahi haq hai humare
rab ke paas se hum isse pehle hi gardan rakh chuke
the (53)

أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾

un ko unka ajr dobala diya jayega badla unke sabr ka
aur wo bhalai se burai ko taalte hain aur humare diye
se kuchh humari raah mein kharch karte hain (54)

وَإِذَا سَبَّحُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا عَمَلْنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ سَلِّمُوا

عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٦﴾

aur jab behuda baat sunte hain us se taghaful karte hain aur kehte hain humare liye humare amal aur tumhare liye tumhare amal bas tum par salam ho hum jahilo ke gharzi nahin (55)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٧﴾

aur kehte hain agar hum tumhare saath hidayat ki pairwi karein to log humare mulk se humein uchak le jayenge kya humne unhein jagah na di amaan waali haram mein jis ki taraf har cheez ke phal laaye jaate hain humare paas ki rozi lekin un mein aksar ko ilm nahin (57)

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا ۗ أَوَلَمْ نُنْكِنَ لَهُمْ حَرَمًا مَّأْمُونًا

يُجَبَىٰ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

aur kitne shehar humne halaak kar diye jo apne aish par itra gaye the ye hain un ke makaan ke unke baad un mein sukoonat na hui magar kam aur humi waris hain (58)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسْجِدُهُمْ لَمَّا تَسَكَنُوا مِنْ

بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٩﴾

aur kitne shehar humne halaak kar diye jo apne aish par itra gaye the ye hain un ke makaan ke unke baad un mein sukoonat na hui magar kam aur humi waris

hain (58)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۗ وَمَا
كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٨﴾

aur tumhara rab shehro ko halaak nahin karta jab tak unke asal marja mein rasool na bheje jo un par humari aayatein padhe aur hum shehro ko halaak nahin karte magar jabki unke sakin sitamgaar ho (59)

وَمَا أَوْتَيْنَاكَ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ
أَبْقَىٰ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٩﴾

aur jo kuchh cheez tumhein di gai hai wo duniyawi zindagi ka bartawa aur uska singaar hai aur jo allah ke paas hai wo behtar aur zyada baaqi rehne waala to kya tumhein aql nahin (60)

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًّا حَسَنًا فَهُوَ لَا يَأْتِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦٠﴾

to kya wo jise humne accha wada diya to wo usse milega us jaisa hai jise humne duniyawo zindagi ka bartaw baratne diya fir wo qiyamat ke din girftar kar ke hazir laya jayega (61)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦١﴾

aur jis din unhen nida karega to farmayega kahan hai mere wo shareek jinhen tum gumaan karte the (62)

قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۖ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا
أَغْوَيْنَا ۖ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا نَايِبِينَ ﴿٦٢﴾

kahenge wo jin par baat sabit ho chuki ay hamare rabb ye hai wo jinhe humne gumrah kiya humne unhen gumrah kiya jaise khud gumrah hue the, hum unse bezar ho kar teri taraf ruju late hain wo hum ko na poojte the (63)

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿٦٣﴾

aur unse farmaya jayega apne shareeko ko pukaro to wo pukareng to wo usnki na sunenge aur dekhenge azaab, kya accha hota agar wo raah pate (64)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٤﴾

aur jis din unhen nida karega to farmayega tum ne rasoolon ko kya jawab diya (65)

فَعَبِثْتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٥﴾

to us din un par khabren andhi ho jayengi, to wo kuchh poochh gachh na karenge (66)

فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٦﴾

to wo jisne tauba ki aur imaan laya aur accha kaam kiya qareeb hai ki wo raahyaab ho (67)

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

aur tumhara rabb paida karta hai jo chahe aur pasand farmata hai, unka kuchh ikhtiyar nahi paaki aur bartari hai allah ko un ke shirk se (68)

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

aur tumhara rabb janta hai jo unke seeno me chhipa hai aur jo wo zahir karte hain (69)

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

aur wahi hai allah ki koi khuda nahi uske siwa usi ki tareef hai duniya aur aakherat me aur uski ka hukm hai aur uski ki taraf fir jaoge (70)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ

يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

tum farmao bhala dekho to agar allah hamesha tum par qiyamat tak raat rakhe to allah ke siwa kaun khudq hai jo tumhen raushni la de to kya tum sunte nahi (71)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ

اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

tum farmao bhala dekho to agar allah qiyamat rak hamesha din rakhe to allah ke siwa kaun khuda hai jo tumhen raat la de jisme aaram karo, to kay tumhen soojhta nahi (72)

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

aur usne apni mehar se tumhare liye raat aur din banaye ke raat me aaram karo aur din me uska fazl dhoondho aur isliye ke tum haqq mano (73)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾

aur jis din unhen nida karega to farmayega kahan hai mere wo shareek jo tum bakte the (74)

وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

aur har giroh me se hum ek gawaah nikaal kar farmayenge apni daleel laao to jaan lenge ke haqq allah ka hai aur unse khoi jayengi jo banawate karte the (75)

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾

beshak qaroon moosa ki qaum se tha fir usne un par zyadati ki aur humne usko utne khazane diye jin ki kunjiyaan ek zor aawar jama'at par bhati thi jab usse unki qaum ne kaha itra nahi beshak allah itrane walon ko dost nahi rakhta (76)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

aur jo maal tujhe allah ne diya hai usse aakhirat ka ghar talab kar aur duniya me apna hissa na bhoor aur ehsan kar jaisa allah ne tujh par ehsan kiya aur zameen me fasaad na chaah beshak allah fasadiyon ko dost nahi rakhta (77)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۗ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

bola ye to mujhe ek ilm se mila hai jo mere paas hai aur kya use ye nahi maloom ki allah ne isse pehle wo sangate halaak farma di jin ki quwwaten usse sakht thi aur jamaa usse zyada aur mujrimo se unke gunahon ki poochh nahi (78)

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِيَلْبِثَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۗ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾

to apni qaum par nikla apni aaraish me bole wo jo dunya ki zindagi chahte hain kisi tarah hum ko bhi aisa milta jaisa qaroon ko mila beshak uska bada naseeb hai (79)

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكَفِّرُ تَوَابًا ۗ اللَّهُ خَيْرٌ لِمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۗ وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

aur bole wo jinhen ilm diya gaya kharabi ho tumhari allah ka sawab behtar hai uske liye jo imaan laye aur achhe kaam kare aur ye unhi ko milta hai jo sabr wale hain (80)

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ۗ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾

to humne use aur uske ghar ko zameen me dhansa diya to uske paas koi jama'at na thi ke allah se bachane

me iski madad karti aur na wo badla le saka (81)

وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانُّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ۗ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَانُّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ ﴿٨١﴾

aur kal jisne uske martaba ki aarzoo ki thi subah kehne
lage ajab baat hai allah rizq wasee karta hai apne
bando me jiske liye chahe aur tangi farmata hai agar
allah hum par ehsaan na farmata to hume bhi dhansa
deta, ay ajab kafiron ka bhala nahi (82)

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَجُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٢﴾

ye aakherat ka ghar hun unke liye karte hain jo zameen
me takabbur nahi chahte aur na fasad aur aaqibat
parhezgaron hi ki hai (83)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ
عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾

jo neki laye uske liye usse behtar hai aur jo badi laye
bad kaam walon ko badla na milega magar jitna kiya
tha (84)

إِنَّ الذِّمِّيَّ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدِكَ إِلَى مَعَادٍ ۗ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٤﴾

beshak jisne tum par qur'an farz kiya wo tumhen fer le
jayega jahan firna chahte ho tum farmao mera rabb
khoob janta hai use jo hidayat laya aur jo khuli

gumrahi me hai (85)

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا
لِّلْكَافِرِينَ ﴿٨٥﴾

aur tum ummed na rakhte the ke kitab tum par bheji
jayegi haan tunhare rabb ne rahmat farmayi to tum
hargiz kafiron ki pushti na karna (86)

وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٦﴾

aur hargiz wo tumhen allah ki aayaton se na rokenge
baad iske ke wo tumhari taraf utari gayi aur apne rabb
ki taraf bulao aur hargiz shirk walon me se na hona
(87)

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٧﴾

aur allah ke sath dusre khuda ko na pooj uske siwa koi
khuda nahi har cheez faani hai siwa uski zaat ke, usi ka
hukm hai aur usi ki taraf fir jaoge (88)

Surah Ankaboot

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

الْمَرَّةُ

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝

kya log is ghamad mein hain ke itni baat par chhod diye jayenge ke hum imaan laaye aur un ki aazmaish na hogi (2)

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْكَذِبِينَ ۝

aur beshak humne inse aglo ko janचा to zaroor allah sachho ko dekhega aur zaroor jhooto ko dekhega (3)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

ya ye samjhe hue hain wo jo bure काम karte hain ke hum se kahin nikal jayenge kya hi bura hukm lagate hain (4)

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

jise allah se milne ki ummeed ho to beshak allah ki miyaad zaroor aane wali hai aur wahi sunta jaanta hai (5)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝

aur jo allah ki raah mein koshish kare to apne hi bhale ko koshish karta hai beshak beparwa hai saare jahaan se (6)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ

الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

aur jo imaan laaye aur achhe काम kiye hum zaroor unki buraiya utaar denge aur zaroor unhein is काम

par badla denge jo un ke sab kaamo mein achha tha
(7)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾

aur humne aadmi ko takeed ki apne maa baap ke
saath bhalai ki aur agar wo tujhse koshish karein ke tu
mera shareek thehraye jiska tujhe ilm nahin to unka
kaha na maan meri hi taraf tumhara phirna hai to main
bata dunga tumhein jo tum karte the (8)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنُودًا خَلَنَّهُمْ فِي الصُّلْحِينَ ﴿٥١﴾

aur jo imaan laaye aur achhe kaam kiye zaroor hum
unhein neko mein shamil karenge (9)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ
اللَّهِ ۗ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۗ ۗ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي
صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

aur baaz aadmi kehte hain hum allah par imaan laaye
phir jab allah ki raah mein unhein koi takleef di jaati hai
to logon ke fitna ko allah ke azaab ke barabar samajhte
hain aur agar tumhare rab ke paas se madad aaye to
kahenge hum to tumhare hi saath the kya allah khoob
nahin jaanta jo kuchh jahan bhar ke dilo mein hai (10)

وَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ ﴿٥٣﴾

aur zaroor allah zaahir kar dega imaan waalo ko aur
zaroor zahir kar dega munafiqo ko (11)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿١٢﴾

aur kafir musalmano se bole humari raah par chalo aur hum tumhare gunah utha lenge halanki wo unke gunaho mein se kuchh na uthayenge beshak wo jhoote hain (12)

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيَسْئَلَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

aur beshak zaroor apne bojh uthayenge aur apne bojho ke saath aur bojh aur zaroor qiyamat ke din puchhe jayenge jo kuchh bohtan uthate hain (13)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ۖ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

aur beshak humne nooh ko uski qaum ki taraf bheja to wo un mein pachaas saal kam hazaar baras raha to unhein toofan ne aa liya aur wo zalim the (14)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ۖ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

to humne use aur kashti waalo ko bacha liya aur us kashti ko saare jahaan ke liye nishani kiya (15)

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

aur ibrahim ko jab usne apni qaum se farmaya ke allah ko pujo usse daro is mein tumhara bhala hai agar tum jaante (16)

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَبْلُغُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ ط إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

to tum allah ke siwa buto ko pujte ho aur nira jhoot ghadte ho beshak wo jinhein tum allah ke siwa pujte ho tumhari rozi ke kuchh malik nahin to allah ke paas rizq dhundo aur uski bandagi karo aur uska ehsan maano tumhein usi ki taraf phirna hai (17)

وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾
aur agar tum jhutlao to tum se pehle kitne hi giroh jhutla chuke hain aur rasool ke zimma nahin magar saaf pahuncha dena (18)

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾
aur unhone na dekha allah kyunkar khalq ki ibteda farmata hai phir use dobara banayega beshak ye allah ko aasan hai (19)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۗ ط إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

tum farmao zameen mein safar kar ke dekho allah kyunkar pehle batana hai phir allah dusri uthaan uthata hai beshak allah sab kuchh kar sakta hai (20)

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾
azaab deta hai jise chahe aur reham farmata hai jis par chahe aur tumhein usi ki taraf phirna hai (21)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ

لَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾

aur na tum zameen mein qaabu se nikal sako aur na aasman mein aur tumhare liye allah ke siwa na koi kaam banane waala aur na madadgaar (22)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَسُؤُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾

aur wo jinhone meri aayato aur mere milne ko na maana wo hain jinhein meri rahmat ki aas nahin aur unke liye dardnak azaab hai (23)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

to uski qaum ko jo kuchh jawab ban na aaya magar ye bole unhein qatl kar do ya jala do to allah ne use aag se bacha liya beshak is mein zaroor nishaniya hain aql waalo ke liye (24)

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا

لَكُمْ مِنْ نَصِيرِينَ ﴿٢٥﴾

aur ibrahim ne farmaya tum ne to allah ke siwa ye but bana liye hain jinse tumhari dosti yahi dunya ki zindagi tak hai phir qiyamat ke din tum mein ek dusre ke saath kufr karega aur ek dusre par lanat daalega aur tum sab ka thikana jahannam hai aur tumhara koi madadgar

nahin (25)

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ ۖ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٥﴾

to looth us par imaan laaya aur ibrahim ne kaha main apne rab ki taraf hijrat karta hoon beshak wahi izzat wa hikmat waala hai (26)

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ۚ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي

الدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٦﴾

aur humne use is'haq aur yaqoob ata farmaye aur humne uski awlaad mein nubuwat aur kitab rakhi aur humne dunya mein iska sawaab use ata farmaya aur beshak aakhirat mein wo humare qurbe khaas ke sazawaaro mein hai (27)

وَلَوْ طَآ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ۚ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ

الْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

aur looth ko najaat di jab usne apni qaum se farmaya tum beshak behayai ka kaam karte ho ke tumse pehle dunya bhar mein kisi ne na kiya (28)

إِنِّي لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ ۝ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۚ

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٨﴾

kya tum mardo se badfaili karte ho aur raah maarte ho aur apni majlis mein buri baat karte ho to uski qaum ka kuchh jawab na hua magar ye ke bole hum par allah ka azaab laao agar tum sachhe ho (29)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٩﴾

arz ki aye mere rab meri madad kar in fasaadi logon
par (30)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ «قَالُوا إِنَّا مَهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ»
إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣٠﴾

aur jab humare firishte ibrahim ke paas muzdw le kar
aaye bole hum zaroor is shehar waalo ko halaak
karenge beshak iske basne waale sitamgaar hain (31)

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۗ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ۗ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣١﴾

kaha us mein to looth hai firishte bole humein khoob
maloom hai jo kuchh us mein hai zaroor hum use aur
uske ghar waalo ko najaat denge magar uski aurat ko
wo reh jaane waalo mein hai (32)

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءَ بِهِمْ ۖ وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا
تَحْزَنْ ۗ إِنَّا مُنْجِيُونَ ۗ وَأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۗ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾

aur jab humare firishte looth ke paas aaye unka aana
use nagawar hua unke sabab dil tang hua aur unhone
kaha na dariye aur na gham kijiye beshak hum aapko
aur aapke ghar waalo ko najaat denge magar aapki
aurat wo reh jaane waalo mein hai (33)

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٣﴾

beshak hum is shehar waalo pqr aasman se azaab
utaarne waale hain badla unki nafarmaniyo ka (34)

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٤﴾

aur beshak humne us se raushan nishani baaqi rakhi
aql waalo ke liye (35)

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۖ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا
تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٥﴾

madain ki taraf unke hum qaum shuaib ko bheja to
usne farmaya aye meri qaum allah ki bandagi karo aur
pichhle din ki ummeed rakho aur zameen mein fasaad
phailate na phiro (36)

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيًّا ﴿٣٦﴾

to unhone us jhutlaya to unhein zalzale ne aa liya to
subah apne gharo mein ghutno ke bal pade reh gaye
(37)

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ ۗ وَرَآءَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٧﴾

aur aad aur samood ko halaak farmaya aur tumhein
unki bastiya maloom ho chuki hain aur shaitan ne
unke kotak unki nighah mein bhale kar dikhaye aur
unhein raah se roka aur unhein soojhta tha (38)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي
الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٨﴾

aur qaroon aur firaun aur hamaan ko aur beshak unke
paas moosa raushan nishaniya le kar aaya unhone
zameen mein takabbur kiya aur wo hum se nikal jaane
waale na the (39)

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ
الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۖ وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْرَفْنَا ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظِلَّهُمْ ۖ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

to un mein har ek ko humne uske gunah par pakda to un mein kisi par humne pathrao bheja aur un mein kisi ko chinghaad ne aa liya aur un mein kisi ko zameen mein dhansa diya aur un mein kisi ko dubo diya aur allah ki shaan na thi ke un par zulm kare haan wo khud hi apni jaano par zulm karte the (40)

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۖ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَ
إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

unki misaal jinhone allah ke siwa aur malik bana liye hain makdi ki tarah hai usne jaale ka ghar banaya aur beshak sab gharo mein kamzor ghar makdi ka ghar kya achha hota agar jaante (41)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

allah jaanta hai jis cheez ki us ke siwa puja karte hain aur wahi izzat wa hikmat waala hai (42)

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنُضْرِبِهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعُلَمَاءُ ﴿٤٣﴾

aur ye misalein hum logon ke liye bayaan farmate hain aur unhein nahin samajhte magar aalim (43)

خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٤﴾

allah ne aasman aur zameen mein haq banaye beshak us mein nishani hai musalmano ke liye (44)

Ikkiswa Paarah

أَتْلُ مَا أَوْحَى إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

aye mahboob padho jo kitab tumhari taraf wahih ki gai aur namaz qaaim farmao beshak namaz mana karti hai be hayai aur buri baat se aur beshak allah ka zikr sabse bada aur allah janta hai jo tum karte ho (45)

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

aur aye musalmano! kitabiyo se na jhagdo magar wo jinhone un mein zulm kiyq aur kaho hum imaan laaye is par jo humari taraf utra aur jo tumhari taraf utra aur humara tumhara ek mabood hai aur hum uske huzoor gardan rakhe hain (46)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ۗ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

to aye mahboob yunhi tumhari taraf kitab utaari to wo jinhein humne kitab ata farmai is par imaan laate hain aur kuchh in mein se hain jo is par imaan laate hain aur humari aayato se munkir nahin hote magar kafir

(47)

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذَا لَأَزْتَابَ الْمُبْطُونَ ﴿٤٨﴾

aur isse pehle tum koi kitab na padhte the aur na apne haath se kuchh likhte the yun hota to batil waale zaroor shak laate (48)

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا

الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

balki wo raushan aayatein hain un ke seeno mein jin ko ilm diya gaya aur humari aayato ka inkar nahin karte (49)

وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ

مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

aur bole kyun na utri kuchh nishaniya un par unke rab ki taraf se tum farmao nishaniya to allah hi ke paas hain aur main to yahi saaf dar sunane waala hoon (50)

أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

aur kya ye unhein bas nahin ke humne tum par kitab utari jo un par padhi jaati hai beshak us mein rehmat aur naseehat hai imaan waalo ke liye (51)

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ

اٰمَنُوْا بِالْبٰطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٥٢﴾

tum farmao allah bas hai mere aur tumhare darmiyan gawah jaanta hai jo kuchh aasmano aur zameen mein

hai aur wo jo batil par yaqeen laaye aur allah ke munkir hue wahi ghaate mein hain (52)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَلَوْ لَأَجَلَ مُسَيِّ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ۖ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٢﴾

aur tum se azaab ki jaldi karte hain aur ek thehrai muddat na hoti to zaroor un par azaab aa jaata aur zaroor un par achanak aayega jab wo bekhbar honge (53)

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٣﴾

tumse azaab ki jaldi machate hain aur beshak jahannam ghere hue hai kafiro ko (54)

يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾

jis din unhein dhanpega azaab un ke upar aur unke paao ke niche se aur farmayega chakho apne kiye ka maza (55)

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَّيَّ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٥﴾

aye mere bando jo imaan laaye beshak meri zameen wasee hai to meri hi bandagi karo (56)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

har jaan ko maut ka maza chakhna hai phir humari hi taraf phiroge (57)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٧﴾

aur beshak jo imaan laaye aur achhe kaam kiye zaroor hum unhein jannat ke baala khano par jagah denge jinke niche nehrein behti honghi humesha un mein rahenge kya hi achha ajr kaam waalo ka (58)

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٨﴾

wo jinhone sabr kiya apne rab hi par bharosa rakhte hain (59)

وَكَانَ مِنَ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرِزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّيِّعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

aur zameen par chalne waale hain ke apni rozi saath nahin rakhte allah rozi deta hai unhein aur tumhein aur wahi sunta jaanta hai (60)

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاسْحَرَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ
اللَّهُ ۗ فَاَنىٰ يُوَفِّكُوْنَ ﴿٦١﴾

aur agar tum unse puchhoge kisne banaye aasman aur zameen aur kaam mein lagaye suraj aur chand to zaroor kahenge allah ne to kahan aundhe jaate hain (61)

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

allah kushada karta hai rizq apne bando mein jiske liye chahe aur tangi farmata hai jiske liye chahe beshak allah sab kuchh jaanta hai (62)

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللّٰهُ ۗ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

aur jo tum unse puchho kisne utara aasman se paani to uske sabab zameen zinda kar di mare piche zaroor kahenge allah ne tum farmao sab khoobiya allah ko balki un mein aksar be aql hain (63)

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ ۗ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

aur ye dunya ki zindagi to nahin magar khel kood aur beshak aakhirat ka ghar zaroor wahi sachhi zindagi hai kya achha tha agar jaante (64)

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَاوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّيَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾

phir jab kashti mein sawaar hote hain allah ko pukaarte hain ek usi par aqeeda la kar phir jab wo unhein khushki ki taraf bacha laata hai jabhi shirk karne lagte hain (65)

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۗ وَلِيَتَّعَبُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٥﴾

ke nashukri karein humari di hui nemat ki aur bartein to ab jaana chahte hain (66)

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٦﴾

aur kya unhone ye na dekha ke humne hurmat waali zameen panah banai aur unke aas paas waale log uchak liye jaate hain to kya batil par yaqeen laate hain aur allah ki di hui nemat se nashukri karte hain (67)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

aur usse badh kar zalim kaun jo allah par jhoot bandhe ya haq ko jhutlaye jab wo uske paas aaye kya jahannam mein kafiro ka thikana (68)

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

aur jinhone humari raah mein koshish ki zaroor hum unhein apne raste dikhayenge aur beshak allah neko ke saath hai (69)

Surah Room

الرَّٰمِ

غَلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾

roomi maghloob hue (2)

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾

paas ki zameen mein aur apni maghloobi ke baad anqareeb ghalib honge (3)

فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾

chand baras mein hukm allah hi ka hai aage aur pichhe aur us din imaan waale khush honge (4)

بِنَصْرِ اللَّهِ ۗ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

allah ki madad se wo karta jis ki chahe aur wahi hai izzat waala meharban (5)

وَعَدَ اللَّهُ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

allah ka waada allah apna waada khilaf nahin karta
lekin bahut log nahin jaante (6)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ ۝

jante hain aankho ke saamne ki duniyawi zindagi aur
wo aakhirat se poore be khabar hain (7)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ ۖ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا

بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ۝

kya unhone apne jee mein na socha ke allah ne paida
kiye aasman aur zameen aur jo kuchh inke darmiyan
hai magar haq aur ek muqarrar miyaad se aur beshak
bahut se log apne rab se milne ka inkar rakhte hain (8)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا

أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

aur kya unhone zameen mein safar na kiyq dekhte ke
unse aglo ka anjaam kaisa hua wo unse zyada zor
aawar the aur zameen joti aur aabad ki unki aabadi se
zyada aur unke rasool unke paae raushan nishaniya
laaye to allah ki shaan na thi ke un ke paas raushan
nishaniya laaye to allah ki shaan na thi ke un par zulm
karta haan wo khud hi apni jano par zulm karte the (9)

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَءُوا السُّوْءَ أَيَّٰنَ كَذَّبُوا بِآيٰتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا

يَسْتَهْزِءُونَ ۝

phir jinhone hadd bhar ki burai ki unkw anjaam ye hua
ke allah ki aayatein jhutlane lage aur unke saath
tamaskhur karte (10)

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٠﴾

allah pehle banatq hai phir dobara banayega phir uski
taraf phiroge (11)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْسِلُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١١﴾

aur jis din qiyamat qaaim hogi mujrimo ki aas toot
jayegi (12)

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٢﴾

aur unke shareek unke sifarashi na honge aur wo apne
shareeko se munkir ho jaayein (13)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدِ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٣﴾

aur jis din qiyamat qaaim hogi us din alag ho jayenge
(14)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٤﴾

to wo jo imaan laaye aur achhe kaam kiye baagh ki
kyaari mein un ki khatirdari hogi (15)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ

مُحْضَرُونَ ﴿١٥﴾

aur wo jo kafir hue aur humari aayatein aur aakhirat ka
milna jhutlaya wo azaab mein la dhare jayenge (16)

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٦﴾

to allah ki paaki bolo jab sharm karo aur jab subah ho

(17)

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٧﴾

aur usi ki tareef hai aasmano aur zameen mein aur kuchh din rahe aur jab tumhein dopahar ho (18)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُعِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ
كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾

wo zinda ko nikaalta hai murde se aur murde ko nikaalta hai zinda se aur zameen ko jilaata hai uske mare piche aur yun hi tum nikaale jaoge (19)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾

aur usi ki nishaniyo se hai ye ke tumhein paida kiya mitti se phir jabhi tum insan ho dunya mein phaile hue (20)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

aur uski nishaniyo se hai ke tumhare liye tumhari hi jins se jode banaye ke unse aaram pao aur tumhare apas mein muhabbat aur rahmat rakhi hai (21)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ لِأَبْنَائِكُمْ
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

aur uski nishaniyo se hai aasmano aur zameen ki paidaish aur tumhari zubano aur rangato ka ikhtelaf hai beshak us mein nishaniya hain janne waalo ke liye (22)

وَمِن آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾

aur uski nishaniyo mein se hai raat aur din mein tumhara sona aur uska fazl talash karna beshak is mein nishaniya hain sunne waalo ke liye (23)

وَمِن آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

aur uski nishaniyo se hai ke tumhein bijli dikhata hai darati aur ummeed dilati aur aasman se paani utaarta hai to usse zameen ko zinda karta hai uske mare pichhe beshak is mein nishaniya hain aql waalo ke liye (24)

وَمِن آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۗ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ
الْأَرْضِ ۗ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

aur uski nishaniyo se hai ke uske hukm se aasman aur zameen qaaim hain phir jab tumhein zameen se ek nida farmayega jabhi tum nikal padoge (25)

وَلَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ كُلُّ لَهٗ قٰنِطُوْنَ ﴿٢٦﴾

aur usi ke hain jo koi aasmano aur zameen mein hain sab uske zere hukm hain (26)

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي
السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

aur wahi hai ke awwal banata hai phir use dobara banayega aur ye tumhari samajh mein is par zyada

aasan hona chahiye aur usi ke liye sabse bartar shaan
aasmano aur zameen mein aur wahi izzat wa hikmat
wala hai (27)

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي
مَا رَزَقْتُمْ فَإِنَّكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾

tumhare liye ek kahawat bayaan farmata hai khud
tumhare apne haal se kya tumhare liye tumhare haath
ke maal ghulamo mein se kuchh shareek hain us mein
jo humne tumhein rozi di to tum sab us mein barabar
ho tum unse daro jaise aapas mein ek dusre se darte
ho hum aisi mufassal nishaniya bayaan farmate hain
aql waalo ke liye (28)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَا
لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٨﴾

balki zalim apni khwahish ke pichhe ho liye be jaane to
use kaun hidayat kare jise khuda ne gumrah kiya aur
unkq koi madadgar nahin (29)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

to apna moonh seedha karo allah ki ita'at ke liye ek
akele usi ke ho kar allah ki daali hui bana jis par logon
ko paida kiya allah ki banai cheez na badalna yahi
seedha deen hai magar bahut log nahin jaante (30)

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾

uski taraf ruju laate hue aur usse daro namaz qaaim rakho aur mushriko se na ho (31)

مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ۗ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

un mein se jinhone apne deen ko tukde tukde kar diya aur jo gaye giroh giroh har giroh jo uske paas hai us par khush hai (32)

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا

فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

aur jab logon ko takleef pahunchi hai to apne rab ko pukaarte hain uski taraf ruju laate hue phir jab wo unhein apne paas se rahmat ka maza deta hai jabhi un mein se ek giroh apne rab ka shareek thehrane lagta hai (33)

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۗ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

ke humare diye ki nashukri karein to barat lo ab qareeb janna chahte ho (34)

أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾

ya humne un par koi sanad utaari ke wo unhein humare shareek bata rahi hai (35)

وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۗ وَإِن تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا

هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

aur jab hum logon ko rahmat ka maza dete hain us par khush ho jaate hain aur agar unhein koi burai

pahunche badla uska jo unke haatho ne bheja jabhi wo
na ummeed ho jaate hain (36)

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾

aur kya unhone na dekha ke allah rizq wasee farmata
hai jiske liye chahe aur tangi farmata hai jiske liye
chahe beshak is mein nishaniya hain imaan waalo ke
liye (37)

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٧﴾

to rishtadar ko uska haq do aur miskeen aur musafir
ko ye behtar hai unke liye jo allah ki raza chahte hain
aur unhi ka kaam bana (38)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٨﴾

aur tum jo cheez zyada lene ko do ke dene waale ke
maal badhein to wo allah ke yahan na badhegi aur jo
tum khairat do allah ki raza chahte hue to unhi ke
done hain (39)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُعِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ
مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٩﴾

aur tum jo cheez zyada lene ko do ke dene waale ke
maal badhein to wo allah ke yahan na badhegi aur jo
tum khairat do allah ki raza chahte hue to unhi ke

done hain (40)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا أَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٠﴾

chamki kharabi khushki aur tari mein un buraiyo se jo
logon ke haatho ne kamai taaki unhein unke baaz
kotako ka maza chakhaye kahin wo baaz aayein (41)

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ
مُشْرِكِينَ ﴿٤١﴾

tum farmao zameen mein chal kar dekho kaisa anjaqm
hua aglo ka un mein bahut mushrik the (42)

فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ
يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٢﴾

to apna moonh seedha kar ibadat ke liye qabal iske ke
wo din aaye jise allah ki taraf se talna nahin us din alag
phat jayenge (43)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُمْ يَهْدُونَ ﴿٤٣﴾

jo kufr kare uske kufr ka wabaal usi par aur jo achha
kaam karein wo apne hi liye tayyari kar rahe hain (44)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٤﴾

taaki sila de unhein jo imaan laaye aur achhe kaam
kiye apne fazl se beshak wo kafiro ko dost nahin rakhta
(45)

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ ۖ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ

بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

aur uski nishaniyo se hai ke hawayein bhejta hai muzda sunati aur isliye ke tumhein apni rahmat ka zaaiqa de aur isliye ke kashti uske hukm se chale aur isliye ke uska fazl talash karo aur isliye ke tum haq maano (46)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنْ
الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

aur beshak humne tumse pehle kitne rasool unki qaum ki taraf bheje to wo unke paas khuli nishaniya laaye phir humne mujrimo se badla liya aur humare zimma karam par hai musalmano ki madad farmana (47)

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْثِرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ
كَسْفًا فَتَرَىٰ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

allah hai ke bhejta hai hawayein ke ubharti hain badal phir use phaila deta hai aasman mein jaisa chahe aur use paarah paarah karta hai to tu dekhe ke uske beech kein se meenh nikal raha hai phir jab use pahunchata hai apne bando mein jiski taraf chahe jabhi wo khushiya manate hain (48)

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾

agarche uske uttare se pehle aas tode hue the (49)

فَانظُرْ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُبْحَمِي الْمَوْتَىٰ ۗ
 وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

to allah ki rahmat ke asar dekho kyunkar zameen ko jilaata hai uske mare pichhe beshak wo murdo ko zinda karega aur wo sab kuchh kar sakta hai (50)

وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

aur agar hum koi hawa bhejin jisse wo kheti ko zard dekhein to zaroor uske baad nashukri karne lagein (51)

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا يُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾

isliye ke tum murdo ko nahin sunaate aur na bahro ko pukarna sunao jab wo peeth de kar phirein (52)

وَمَا آتَتْ بِهَدْيِ الْعُيُ عَنْ ضَلَّاتِهِمْ ۗ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

aur na tum andho ko unki gumrahi se raah par laao tum to usi ko sunate ho jo humari aayato par imaan laaye to wo gardan rakhe hue hain (53)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

allah hai jis ne tumhein ibteda mein kamzor banaya phir tumhein natawani se taaqat bakhshi phir quwwat ke baad kamzori aur budhapa diya banata hai jo chahe wahi ilm wa qudrat waala hai (54)

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ۗ مَا لِبَشَرِكُمْ إِلَّا غَيْرُ سَاعَةٍ ۗ كَذَٰلِكَ كَانُوا

يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

aur jis din qiyamat qaaim hogi mujrim qasam khayenge ke na rahe the magar ek ghadi wo aise jo aundhe jaate the (55)

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ

فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

aur bole wo jinko ilm aur imaan mila hai beshak tum rahe allah ke likhe hue mein uthne ke din tak to ye hai wo din uthne ka lekin tum na jaante the (56)

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٦﴾

to us din zalimo ko nafa na degi unki mazrat aur na unse koi raazi karna maange (57)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٧﴾

aur beshak humne logon ke liye is quran mein har qism ki misaal bayaan farmai aur agar tum unke paas koi nishani laao to zaroor kafir kahenge tum to nahin magar batil par (58)

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾

yun hi muhar kar deta hai allah jahilo ke dilo par (59)

فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ اللَّهُ ۚ وَالَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

to sabr karo beshak allah ka waada sachcha hai aur tumhein sabak na kar dein wo jo yaqeen nahin rakhte (60)

Surah Luqman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat wala.

الْمَّ ۞

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۞

ye hikmat wali kitab ki aayaten hain (2)

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ۞

hidayat aur rahmat hain neko ke liye (3)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞

wo jo namaz qaeem rakhe aur zakat den aur akhirat par yaqeen layen (4)

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞

wahi apne rabb ki hidayat par hain aur unhin ka kaam bana (5)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ

يَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞

aur kuchh log khel ki baaten khareedte hain ke allah ki raah se behka den be-samjhe aur use hansa len unke liye zillat ka azaab hai (6)

وَإِذَا تَنَلَّىٰ عَلَيْهِ أَيْتِنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۚ فَبَشِّرْهُ

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞

aur jab us par hamari aayatein padhi jayen to takabbur karta hua fire jaise unhen suna hi nahi jaise uske kaamo me tent hai to use dardnak azaab ka muzda do

(7)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۝

beshak jo iman laye aur acche kaam kiye unke liye chain ke baagh hain (8)

خُلِدِينَ فِيهَا ۖ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

hamesha unme rahenge allah ka wada hai saccha aur wahi izzat wa hikmat wala hai (9)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَ أَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ بَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ

كَرِيمٍ ۝

usne aasman banaye be aise sutoono ke jo tumhen nazar aaye aur zameen me daale langar ke tumhen le kar na kaanpe aur usme har qism ke janwar failaye aur humne aasman se pani utara to zameen me har nafees joda ugaya (10)

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ

مُبِينٍ ۝

ye to allah ka banaya hua hai mujhe wo dikhao jo uske siwa auron ne banaya balki zalim khuli gumrahi me hai

(11)

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۖ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّا نَشْكُرْ لِنَفْسِهِ ۖ وَ

مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

aur beshak humne luqman ko hikmat ataa farmayi ke allah ka shukr kar aur jo shukr kare wo apne bhale ko shukr karta hai aur jo nashukri kare to beshak allah beparwah hai sab khoobiyon saraaha (12)

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

aur yaad karo jab luqman ne apne bete se kaha aur wo naseehat karta tha, ay mere bete allah ka kisi ko shareek na karna, beshak shirk bada zulm hai (13)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِضْلُهُ فِي غَامِينِ أَنْ

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

aur humne aadmi ko uske maa baap ke baare me taakeed farmayi uski maa ne use pet me rakha kamzori par kamzori jhelti hui aur uska doodh chhootna do(2) baras me hai ye ke haqq maan mera aur apne maa baap ka aakhir mujhi tak aana hai (14)

وَإِنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۖ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي

الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

aur agar wo dono tujh se koshish kare ke mera shareek thehraye aisi cheez ko jiska tujhe ilm nahi to unka kehna na maan aur duniya me acchi tarah ka sath de aur iski raah chal jo meri taraf ruju' laya fir

meri hi taraf tumhen fir aana hai to mai bata dunga ji
tum karte the (15)

يُبْنَىٰ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي
الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿١٥﴾

ay mere bete burai agar raai ke daana barabar ho fir
wo patthar ki chattan me ya aasmano me ya zameen
me kahin ho allah use le aayega beshak allah har bariki
ka janne wala khabardar hai (16)

يُبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَآمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ
إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٦﴾

ay mere bete namaz barpa rakh aur acchi baat ka
hukm de aur buri baat se mana kar aur jo uftaad tujh
par pade us par sabr kar, beshak ye himmat ke kaam
hain (17)

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَلِلٍ فَخُورٍ ﴿١٧﴾

aur kis se baat karne me apna rukhsara kuj na kar aur
zameen me itrata na chal beshak allah ko nahi bhata
koi itrata fakhr karta (18)

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضَضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٨﴾

aur miyana chaal chal aur apni aawaz kuchh past kar
beshak sab aawazo me buri aawaz gadhe ki aawaz (19)

الْمُتَرَوِّا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ

مُنِيرٌ ﴿٢٠﴾

kya tum ne na dekha ke allah ne tumhare liye kaam me lagaye jo kuchh aasman aur zameen me hai aur tumhen bharpoor di apni ne'maten zahir aur chhupi aur ba'aaze aadmi allah ke bare me jhagadte hai yun ke na ilm a aql na koi raushan kitab (20)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ

كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

aur jab unse kaha jaye uski pairwi karo jo allah ne utara to kehte hain balki hum to uski pairwi karenge jis par humne apne baap dada ko paya kya agarche shaitan unko azaabe dozakh ki taraf bulata ho (21)

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَىٰ

اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

to jo apna muh allah ki taraf jhula de aur ho nekokaar to beshak usne mazboot girah thani aur allah hi ki taraf hai sab kaamo ki inteza (22)

وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

aur jo kufr kare to tum uske kufr se gham na khao unhen hamari hi taraf firna hai hum unhen bata denge jo karte the beshak allah dilon ki baat janta hai (23)

نُنَبِّئُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾

hum unhen kuchh baratne denge fir unhen bebas kar

ke sakht azaab ki taraf le jayenge (24)

وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ طَبَلٌ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

aur agar tum unse poochho kis ne banaye aasman aur zameen to zaroor kahenge allah ne tum farmao sab khoobiyan allah ko balki unme aksar jante nahi (25)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٥﴾

allah hi ka hai jo kuch aasmano aur zameen me hai beshak allah hi be-niyaz hai sab khoobiyon saraaha (26)

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

aur agar zameen me jitne ped hai sab qalamein ho jaye aur samundar uski siyahi ho uske peechhe saat samundar aur to allah ki baaten khatm na hongy, beshak allah izzat wa hikmat wala hai (27)

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

tum sab ka paida karna aur qiyamat me uthana aisa hi hai jaisa ek jaan ka beshak allah sunta dekhta hai (28)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٨﴾

ay sunne wale kya tune na dekha ki allah raat lata hai din ke hisse me aur din karta hai raat ke hisse me aur isme suraj aur chaand kaam me lagaye har ek ek

muqarar meead tak chalta hai aur ye ke allah
tumhare kaamo se khabardar hai (29)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْكَبِيرُ ﴿٢٩﴾

ye isliye ke allah hi haqq hai aur uske siwa jinko poojte
hain sab batil hain aur isliye ke allah hi buland badai
wala hai (30)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٠﴾

kya tune na dekhe ke kishti dariya me chahti hai allah
ke fazl se taki tumhen wo apni kuchh nishaniyaan hain
har bade sabr karne wale shukr guzar ko (31)

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظَّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى

الْبَرِّ فَبِهِمْ مُفْتَصِدٌ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣١﴾

aur jab un par aa padti hai koi mauj pahado ki tarah to
allah ko pukarte hain nire usi par aqeeda rakhte hue fir
jab unhen khushki ki taraf bacha lata hai to unme koi
aitedal par rehta hai aur hamari aayatun ka inkar na
karega magar har bada be-wafa nashukra (32)

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتِّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشُوا أَيَّوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ

جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۗ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا

يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٢﴾

ay logon apne rabb se daro aur is din ka khauf karo
jisme koi baap apne baccha ke kaam na aayega aur na

koi kaami baccha apne baap ko kuchh nafa de beshak allah ka waada sachha hai to hargiz tumhein dhoka na de dunya ki zindagi aur hargiz tumhein allah ke hilm par dhoka na de wo bada farebi (33)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٣﴾

beshak allah ke paas hai qiyamat ka ilm aur utarta hai meenh aur janta hai jo kuchh maaon ke peto me hai aur koi jaan nahi janti ke kal kya kamayegi aur koi jaan nahi janti ke kis zameen me maregi beshak allah janne wala batane wala hai (34)

Surah Sajda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahamat wala

الْمَلِكِ

تَنْزِيلِ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾

kitab ka utaarna beshak parwardigare aalam ki taraf se hai (2)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۗ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢﴾

kya kehte hain unki banayi hui hai, balki wahi haqq hai tumhare rabb ki taraf se ke tum darao aise logon ko jinke paas tum se pehle koi darr sunane na aaya is ummeed par ki wo raah payen (3)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾

allab hai jisne aasman aur zameen aur jo kuchh unke beech me hai chhe (6) din me banaye fir arsh par istiwaa farmaya isse chhoot kar tumhara koi himayati aur na safarishi to kya tum dhyan nahi karte (4)

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤﴾

kaam ki tabbeer farmata hai aasman se zameen tak fir isi ki taraf ruju' karega us din ki jiski miqdaar hazar baras hai tumhari ginti me (5)

ذَٰلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾

ye hai har nihaan aur ayaan ka janne wala izzat wa rahmat wala (6)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٦﴾

wo jisne jo cheez banayi khoob banayi aur paida ishe insan ki ibteda mitti se farmayi (7)

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٧﴾

fir uski nasl rakhi ek be qadr pani ke khulasa se (8)

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

fir use theek kiya aur usme apni taraf ki rooh foonki aur tumhe kaan aur aankhen aur dil ataa farmaye kya hi thoda haqq mante ho (9)

وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ عَرَأْتَالِغِي خَلْقِي جَدِيدٍ ۗ بَلْ هُمْ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ

كُفِرُونَ ﴿١٠﴾

aur bole kya jab hum mitti me mil jayenge kya fir naye banenge balki wo apne rabb ke huzoor hazir se munkir hain (10)

قُلْ يَتَوَفَّيْكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾

tum farmao tumhen wafat deta hai maut ka firishta jo tum par muqarrar hai fir apne rabb ki taraf wapas jaoge (11)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو أَرْءُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَبِعْنَا

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

aur kahin tum dekho jab mujrim apne rabb ke paas sar neeche daale honge ay hamare rabb ab humne dekha aur suna hume fir bhej ke nek kaam karen hum ko yaqeen aa gaya (12)

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىٰهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِن

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾

aur agar hum chahte har jaan ko uski hidayat ataa farmaye magar meri baat qarar paa chuki ke zaroor jahannam ko bhar dunga un jinno aur aadmiyon sabse

(13)

فَدُّوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۗ إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

ab chakho badla uska ke gum apne is din ki haazri bhoole the humne gumhen chhod diya ab hamesha ka azaab chakho apne koye ka badla (14)

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ

لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

hamari aayato par wahi imaan laate hain ki jab ye unhen yaad dilai jati hai sajda me gir jate hain aur apne rabb ki tareef karte hue uski paaki bolte hain aur takabbur nabi karte (15-sajda)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾

unki karwate juda hoti hai khwabgahon se aur apne rabb ko pukarte hain darte aur ummeed karte aur hamare diye hue me se kuchh khairaat karte hain (16)

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ۗ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

to kisi jee ko nahi maloom jo aankh ki thandak unke liye chhipa rahi hai sila unke kaamon ka (17)

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

to kya jo imaan wala hai wo us jaisa ho jayega jo behukm hai ye barabar nahi (18)

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

jo iman laye aur acche kaam kiye unke liye basne ke baagh hain unke kaamo ke sila me mehmandari (19)

وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

rahe wo jo be-hukm hain unka thikana aag hai jab kabhi usme se nikalna chahenge fir usi me fer diye jayenge aur unse farmaya jayega chakho is aag ka azaab jise tum jhuthlate the (20)

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ الْأَكْبَرَ الَّذِي كَانُوا يَعْتَمِدُونَ ﴿٢١﴾

aur zaroor hun unhen chakhayenge kuchh nazdeek ka azaab us bade azaab se pehle jise dekhne wala umeed kare ke abhi baaz aayenge (21)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۗ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ
مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

aur usse badh kar zalim kaun jise uske rabb ki aayaton se nasihat ki gayi fir usne unse muh fer liya beshak hum mujrim hai badla lene wale hain (22)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي
إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾

aur beshak humne musa ko kitab ataa farmayi to tum uske milne me shak na karo aur humne use bani israeel ke liye hidayat kiya (23)

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

aur humne unme se kuchh inaam banaye ke hamare

hukm se batate jab ke unhone sabr kiya aur wo hamari
aayatun par yaqeen laate the (24)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٤﴾

beshak tumhara rabb unme faisla kar dega qiyamat ke
din jis baat me ikhtilaf karte the (25)

أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۗ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٥﴾

aur kya unhen us par par hidayat na hui ke humne
unse pehle kitni sangate halaak kar di ke aaj ye unke
gharo me chal fir rahe hain, beshak usne zaroor
nishaniyan hain, to kya sunte nahi (26)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ ۗ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٦﴾

aur kya nahi dekhte ki hum paani bhejte hain khushk
zameen ki taraf fir usse kheti nikaalte hain ke usme se
unke chaupaye aur wo khud khate hain, to kya unhen
soojhta nahi (27)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٧﴾

aur kehte hain ye faisla kab hoga agar tum sacche ho
(28)

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٨﴾

tum farmao faisla ke din kafiron ko unka imaan lana
nafa na dega aur na unhen muhlat mile (29)

فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٢٩﴾

to unse muh fer lo aur intezar karo beshak unhen bhi
intezar karna hai (30)

Surah Ahzaab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahamat
wala

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ۝

ay ghaib ki khabren batane wale (nabi) allah ka yunhi
khauf rakhna aur kafiron aur munafiqo ki na sunna
beshak allah ilm wa hikmat wala hai (1)

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

aur uski pairwi rakhna jo tumhare rabb ki taraf se
tumhen wahee hoti hai ay log allah tumhare kaam
dekh raha hai (2)

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

aur ay mehboob tum allah par bharosa rakho aur allah
bas hai kaam banane wala (3)

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۗ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اَللّٰهُ تَظْهِرُونَ
مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ ۗ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۗ وَ
اللّٰهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۝

allah ne kisi aadmi ke andar do(2) dil na rakhe aur

tumhari un aurton ko jinhen tum maa ke barabar keh do tumhari maa na banaya aur na tumhare le-paalako ko tumhara beta banaya, ye tumhare apne muh ka kehna hai aur allah haqq farmata hai aur wahi raah dikhata hai (4)

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُوتُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

unhen unke baap hi ka keh kar pukaro ye allah ke nazdeeq zyada theek hai fir agar tumhen unke baap maloom na ho to deen me tumhare bhai hain aur bashariyat me tumhare chachazaad, aur tum par usme kuchh gunah nahi jo nadanista tum se sadir hua haan wo gunah hai jo dil ke qasd se karo aur allah bakhshne wala meharban hai (5)

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۚ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ
أَوْلِيَّائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

ye nabi musulmano ka unki jaan se zyada malik hai aur iski bibiya unki maayein hain aur rishta waale allah ki kitab mein ek dusre se zyada qareeb hain ba nisbat aur musulmano aur muhajireen ke magar ye ke tum apne dosto par koi ehsan karo ye kitab mein likha hai (6)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ ۚ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ

ابن مريم ۷ وَاخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

aur aye mahboob yaad karo jab humne nabio se ahad liya aur tum se aur nooh aur ibrahim aur moosa aur eisa bin maryam aur humne unse gaadha ahad liya (7)

لَيْسَتِ الصُّدُوقِينَ ۙ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

taaki sachho se unke sach ka sawal kare aur usne kafiro ke liye dardnak azaab tayyar kar rakha hai (8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝

aye imaan waalo allah ka ehsan apne upar yaad karo jab tum par kuchh lashkar aaye to humne un par aandhi aur wo lashkar bheje jo tunhein nazar na aaye aur allah tumhare kaam dekhta hai (9)

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ

الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ۝

jab kafir tum par aaye tumhare upar se aur tumhare neechे se jabki thathak kar reh gai nigahein aur dil galo ke paas aa gaye aur tum allah par tarah tarah ke gumaan karne lage (10)

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۝

wo jagah thi ke musalmano ki jaanch hui aur khoob sakhti se jhinjode gaye (11)

وَإِذْ يَقُولُ الْمُبْتَغُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا

عُرُورًا ۝

aur jab kehne lage munafiq aur jin ke dilo mein rog tha humein allah wa rasool ne waada na diya tha magar fareb ka (12)

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا ۗ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ۗ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۗ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا

فِرَارًا ﴿١٢﴾

aur jab un mein se ek giroh ne kaha aye madina waalo! yahan tumhare theharne ki jagah nahin tum gharo ko wapas chalo aur un mein se ek giroh nabi se izn maangta tha ye keh kar ke humare ghar be hifazat hain aur wo be hifazat na the wo to na chahte the magar bhaagna (13)

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارٍ هَآئِمَّةٍ سَبَّلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا

يَسِيرًا ﴿١٣﴾

aur agar un par faujein madina ke atraaf se aati phir unse kufr chahti to zaroor unka maanga de baithe aur us mein der na karte magar thodi (14)

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۗ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُورًا ﴿١٤﴾

aur beshak isse pehle wo allah se ahad kar chuke the ke peeth na pherenge aur allah ka ahad puchha jayega (15)

قُلْ لَّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿١٥﴾

tum farmao hargiz tumhein bhagna nafa na dega agar

maut ya qatl se bhago aur jab bhi dunya na baratne
diye jaoge magar thodi (16)

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۗ وَلَا
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝

tum farmao wo kaun hai jo allah ka hukm tum par se
taal de agar wo tumhara bura chahe ya tum par muhar
farmana chahe aur wo allah ke siwa koi haami na
payenge na madadgaar (17)

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ
الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

beshak allah janta hai tumhare unko jo auron ko jihad
se rokne hain aur apne bhaiyon se kehte hain hamari
taraf chale aao aur ladai me nahi aate magar thode
(18)

أَشْحَةٌ عَلَيْكُمْ ۗ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي
يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۗ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى
الْخَيْرِ ۗ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝

tumhari madad me gayi karte hain fir jab darr ka waqt
aaye tum unhen dekhoge tumhari taraf yun nazar
karte hain ke unki aankhe ghoom rahi hain jaise kisi
par maut chhayi ho fir jab darr ka waqt nikal jaye
tumhen ta'ane dene lagen tez zabano se maale
ghanimat ke lalach me ye log imaan laaye hi nahi, to
allah ne unke amal akarat kar diye aur ye allah ko

aasan hai (19)

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوَدُّوْنَ أَنَّهُمْ بِأَدْوَانَ فِي
الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن آتْيَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝

wo samajh rahe hain ke kafiro ke lashkar abhi na gaye
aur agar lashkar dobara aayein to unki khwahish hogi
ke kisi tarah gaaon mein nikla kar tumhari khabrein
puchhte aur agar wo tum mein rehte jab bhi na ladte
magar thode (20)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَ
ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝

beshak tumhein rasoolullah ki pairwi behtar hai iske
liye ke allah aur pichhle din ki ummeed rakhta ho aur
allah ko bahut yaad kare (21)

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ ۗ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ ۗ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝

aur jab musalmano ne kafiro ke lashkar dekhe bole ye
hai wo jo humein waada diya tha allah aur uske rasool
ne aur sach farmaya allah aur uske rasool ne aur usse
unhein na badha magar imaan aur allah ki raza par
raazi hona (22)

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَ
مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۝

musalmano mein kuchh wo mard hain jinhone sachha
kar diya jo ahad allah se kiya tha to un mein koi apni
mannat पूरी kar chuka aur koi raah dekh raha hai aur

wo zarra na badle (23)

لَيَجْزِيَّ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

taaki allah sachho ko unke sach ka sila de aur munafiqo ko azaab kare agar chahe ya unhein tauba de beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (24)

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۗ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۗ
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيمًا ۝

aur allah ne ne kafiro ko unke dilo ki jalan ke saath paltaya ke kuchh bhala na paaya aur allah ne musalmano ko ladai ki kifayat di aur allah zabardast izzat waala hai (25)

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا هُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۝

aur jin ahle kitab ne unki madad ki thi unhein unke qilo se utara aur unke dilo mein raub daala un mein ek giroh ko tum qatl karte ho aur ek giroh ko qaid (26)

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرًا ۝

aur humne tumhare haath lagaye unki zameen aur unke makaan aur unke maal aur wo zameen jis par tum ne abhi qadam nahin rakha hai aur allah har cheez par qadir hai (27)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكِ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ

أُمَّتَعُكُنَّ وَأُسْرٍ حُكَّنَ سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾

aye ghaib batane waale (nabi) apni bibiyo se farma de agar tum dunya ki zindagi aur iski aaraish chahti ho to aao main tumhein maal doon aur achhi tarah chhod doon (28)

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرَدُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

aur agar tum allah aur uske rasool aur aakhirat ka ghar chahti ho to beshak allah ne tumhari neki waliyo ke liye bada ajr tayyar kar rakha hai (29)

لِيُنْسَأَ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

aye nabi ki bibiyo jo tum mein sareeh haya ke khilaf koi jurat kare us par auro se doona azaab hoga aur ye allah ko aasan hai (30)

Baaiswa Paarah

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

aur jo tum mein farmanbardar rahe allah aur rasool ki
aur achha kaam kare hum use auro e3 doona sawaab
denge aur humne uske liye izzat ki rozi tayyar kar rakhi
hai (31)

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنَّ اَتَّقِيْتَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِيْ قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

aye nabi ki bibiyo tum aur aurato ki tarah nahin ho
agar allah se daro to baat mein aisi narmi na karo ke
dil ka rogi kuchh lalach kare haan achhi baat kaho (32)

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولٰٓئِ وَاقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَآتِيْنَ
الزَّكٰوةَ وَاَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۗ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

aur apne gharo mein thehri raho aur beparda na raho
jaisi agli jahiliyat ki bepardagi aur namaz qaaim rakho
aur zakaat do aur allah aur uske rasool ka hukm
maano allah to yahi chahta hai aye nabi ke ghar waalo
ke tumse har napaki door farma de aur tumhein paak
kar ke khoob suthra kar de (33)

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا

خَيْرًا ۝

aur yaad karo jo tumhare gharo mein padhi jaati hain
allah ki aayatein aur hikmat beshak allah har bareeki
janta khabardar hai (34)

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَ
الضَّادِقِينَ وَالضَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَ
الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ
الْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا ۝

beshak musalman mard aur musalman auratein aur
imaan waale aur imaan waaliya aur farmanbardar aur
farmanbardarein aur sachhe aur sachhiya aur sabr
waale aur sabr waaliya aur aajizi karne waale aur aajizi
karne waaliya aur khairat karne waale aur khairat
karne waaliya aur roze waale aur roze waaliya aur apni
parsai nigah rakhne waale aur nigah rakhne waaliya
aur allah ko bahut yaad karne waale aur yaad karne
waaliya un sab ke liye allah ne bakhshish aur bada
sawaab tayyar kar rakha hai (35)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ۝

aur kisi musalman mard na musalman aurat ko
pahunchta hai ke jab allah wa rasool kuchh hukm
farma dein to unhein apne muamla ka kuchh ikhteyar

rahe aur jo hukm na maane allah aur uske rasool ka
wo beshak sareeh gumrahi behka (36)

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَ تَخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ۗ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا
قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٦﴾

aur aye mahboob yaad karo jab tum farmate the usse
jise allah ne nemat di aur tumne use nemat di ke apni
bibi apne paas rehne de aur allah se dar aur tum apne
dil mein rakhte the wo jise allah ko zaahir karna
manzoor tha aur tumhein logon ke taane ka andesha
tha aur allah zyada sazawaar hai ke uska khauf rakho
phir jab zaid ki arz usse nikal gai to humne wo tumhare
nikah mein de di ke musalmano par kuchh haraj na
rahe unke le palako ki bibiyo mein jab unse unka kaam
khatm ho jaaye aur allah ka hukm ho kar rehna (37)

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
قَبْلُ ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٧﴾

nabi par koi haraj nahin is baat mein jo allah ne uske
liye muqarrar farmai allah ka dastoor chala aa raha hai
un mein jo pehle guzar chuke aur allah ka kaam
muqarra taqdeer hai (38)

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ
حَسِيبًا ﴿٣٨﴾

wo jo allah ke payaam pahunchate aur usse darte aur allah ke siwa kisi ka khauf na karte aur allah bas hai hisab lene waala (39)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

muhammad tumhare mardo mein kisi ke baap nahin haan allah ke rasool hain aur sab nabiyo mein pichhle aur allah sab kuchh jaanta hai (40)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝

aye imaan waalo allah ko bahut yaad karo (41)

وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

aur subah wa shaam uski paaki bolo (42)

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝

wahi hai ke durood bhejta hai tum par wo aur uske firishte ke tumhein andheriyo se ujaale ki taraf nikaale aur wo musulmano par meharban hai (43)

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝

unke liye milte waqt ki dua salam hai aur unke liye izzat ka sawaab tayyar kar rakha hai (44)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

aye ghaib ki khabrein batane waale (nabi) beshak humne tumhein bheja haazir naazir aur khushkhabri deta aur dar sunata (45)

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

aur allah ki taraf uske hukm se bulata aur chamka dene waala aftar (46)

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝

aur imaan waalo ko khushkhabri do ke unke liye allah ka bada fazl hai (47)

وَلَا تُطِيعِ الْكُفْرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ

وَكَيْلًا ۝

aur kafiro aur munafiqo ki khushi na karo aur unki izaar par dar guzar farmao aur allah par bharosa karo aur allah bas hai karsaaz (48)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَ لَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝

aye imaan waalo jab tum musalman aurato se nikah karo phir unhein be haath lagaye chhod do to tumhare liye kuchh iddat nahin jise gino to unhein kuchh faida do aur achhi tarah se chhod do (49)

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا

أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي

هَاجَرْنَ مَعَكَ ۚ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ

يَسْتَنْكِحَهَا ۚ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِنَّ فِي

أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يُكَونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِيمًا ۝

aye ghaib batane waale (nabi) humne tumhare liye halaal farmai tumhari wo bibiya jin ko tum mehar do aur tumhare haath ka maal kaneezein jo allah ne tumhein ghanimat mein di aur tumhare chacha ki betiya aur phuphi ki betiya aur maamu ki betiya aur khalao ki betiya jinhone tumhare saath hijrat ki aur imaan waali aurat agar wo apni jaan nabi ki nazr kare agar nabi use nikah mein laana chahe ye khaas tumhare liye hai ummat ke liye nahin humein maloom hai jo humne musalmano par muqarrar kiya hai unki bibiyo aur unke haath ke maal kaneezo mein ye khususiyat tumhari isliye ke tum par koi tangi na ho aur allah bakhshne waala meharbaan (50)

تُرْجَىٰ مَنْ نَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُسْوَىٰ إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝

pichhe hatao un mein se jise chaho aur apne paas jagah do jise chaho aur jise tumne kinare kar diya tha use tumhara jee chahe to us mein bhi tum par kuchh gunah nahin ye amr isse nazdeek tar hai ke unki aankhein thandi ho aur gham na karein aur tum unhein jo kuchh ata farmao us par wo sab ki sab raazi rahein aur allah jaanta hai jo tum sab ke dilo mein hai aur allah ilmo hilm waala hai (51)

لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ﴿٥٢﴾

unke baad aur auratein tumhein halaal nahin aur na ye ke unke iwaz aur bibiya badlo agarche tumhein unka husn bhaaye magar kaneez tumhare haath ka maal aur allah har cheez par nigezban hai (52)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ
نُظْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا
مُسْتَأْنَسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَعْيِبُ مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَعْيِبُ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ ذَلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا
أَرْوَاحَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

aye imaan waalo nabi ke gharo mein na haazir ho jab tak izn na paoo maslan khane ke liye bulaye jao na yun ke khud uske pakne ki raah tako haan jab bulaye jao to hazir ho aur jab kha chuko to mutafarriq ho jao na ye ke baithe baato mein dil behlao beshak is mein nabi ko izaah hoti thi to wo tumhara lihaaz farmate the aur allah haq farmane mein nahin sharmata aur jab tum unse baratne ki koi cheez maango to parde ke baahar se maango is mein zyada suthrai hai tumhare dilo aur unke dilo ki aur tumhein nahin pahunchta ke rasoolullah ko izaah do aur na ye ke unke baad kabhi unki bibiyo se nikah karo beshak ye allah ke nazdeek badi sakht baat hai (53)

إِنْ تُبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

agar tum koi baat zaahir karo ya chhupao to beshak allah sab kuchh jaanta hai (54)

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
أَبْنَاءَ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِينَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

in par muzaiqa nahin inke baap aur beto aur bhaiyo aur bhateejo aur bhaanjo aur apne deen ki aurato aur apni kaneezo mein aur allah se darti raho beshak har cheez allah ke saamne hai (55)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

beshak allah aur uske firishte durood bhejte hain us ghaib batane waale (nabi) par aye imaan waalo un par durood aur khoob salam bhejo (56)

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

beshak jo izaah dete hain allah aur uske rasool ko un par allah ki lanat hai dunya aur aakhirat mein aur allah ne unke liye zillat ka azaab tayyar kar rakha hai (57)

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كُتِبَ لَهُمْ فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
إِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

aur jo imaan waale mardo aur aurato ko be kiye satate

hain unhone buhtan aur khula gunah apne sar liya (58)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٨﴾

aye nabi apni bibiyo aur sahibzadiyo aur musalmano ki aurato se farma do ke apni chadaro ka ek hissa apne moonh par daale rahein ye isse nazdeek tar hai ke unki pehchan ho to satai na jaayein aur allah bakhshne waala meharbaan hai (59)

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِبَنَّهُمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۗ ﴿٦٠﴾

agar baaz na aaye munafiq aur jin ke dilo mein rog hai aur madina mein jhoot udaane waale to zaroor hum tumhein un par sheh denge phir wo madina mein tumhare paas na rahenge magar thode din (60)

مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقُفُوا أُخَذُوا وَقَتْلُوا قَتْلًا ۗ ﴿٦١﴾

phatkare hue jahan kahin milein pakde jaayein aur gin gin kar qatl kiye jaayein (61)

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ ﴿٦٢﴾

allah ka dastoor chala aata hai un logon mein jo pehle guzar gaye aur tum allah ka dastoor hargiz badalta na paoge (62)

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۗ ﴿٦٣﴾

log tum se qiyamat ko puchhte hain tum farmao uska

ilm to allah hi ke paas hai aur tum kya jaano shayad
qiyamat paas hi ho (63)

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٣﴾

beshak allah ne kafiro par lanat farmai aur unke liye
bhadakti aag tayyar kar rakhi hai (64)

خٰلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا ؕ لَا يَجِدُوْنَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿٦٤﴾

us mein humesha rahenge us mein na koi himayati
payenge na madadgaar (65)

يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ لِيَلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللَّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ﴿٦٥﴾

jis din unke moonh ulat ulat kar aag mein tale jayenge
kehte honge haaye kisi tarah humne allah ka hukm
maana hota aur rasool ka hukm maana hota (66)

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَاٰرَآءَنَا فَاَصَلُوْنَا السَّبِيْلًا ﴿٦٦﴾

aur kahenge aye humare rab hum apne sardaro aur
apne bado ke kehne par chale to unhone humein raah
se behka diya (67)

رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُوْهُمْ لَعْنَا كَبِيْرًا ﴿٦٧﴾

aye humare rab unhein aag ka doona azaab de aur un
par badi lanat kar (68)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذٰوْا مُوْسٰى فَاَبْرَاَهٗ اَللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ۗ وَكَانَ
عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٦٨﴾

aye imaan waalo un jaise na hona jinhone moosa ko
sataya to allah ne use bari farma diya is baat se jo
unhone kahi aur moosa allah ke haan aabru waala hai
(69)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝

aye imaan waalo allah se daro aur seedhi baat kaho
(70)

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ
فَوْزًا عَظِيمًا ۝

tumhare aamaal tumhare liye sanwaar dega aur
tumhare gunaaah bakhsh dega aur jo allah aur uske
rasool ki farmanbardari kare usne badi kamyabi paai
(71)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝

beshak humne amanat pesh farmai aasmano aur
zameen aur pahado par to unhone iske uthane se
inkaar kiya aur usse dar gaye aur aadmi ne utha li
beshak wo apni jaan ko mashaqqat mein daalne waala
bada nadaan hai (72)

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

taaki allah azaab de munafiq mardo aur munafiq
aurato aur mushrik mardo aur mushrik aurato ko aur
allah tauba qabool farmaye musalman mardo aur
musalman aurato ki aur allah bakhshne waala
meharbaan hai (73)

Surah Saba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ۗ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۝

sab khoobiya allah ko ke usi ka maal hai jo kuchh
aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein aur
aakhirat mein usi ki tareef hai aur wahi hai hikmat
waala khabardar (1)

يَعْلَمُ مَا يَلْجُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ
وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝

jaanta hai jo kuchh zameen mein jaata hai aur jo
zameen se nikalta hai aur jo aasman se utarta hai aur
jo us mein chadhta hai aur wahi hai meharban
bakhshish waala (2)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ۗ عِلْمِ الْغَيْبِ ۗ
لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا
أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝

aur kafir bole hum par qiyamat na aayegi tum farmao
kyun nahin mere rab ki qasam beshak zaroor tum par
aayegi ghaib janne waala usse ghaaib nahin zarra bhar
koi cheez aasmano mein aur na zameen mein aur na

isse chhoti na badi magar ek saaf batane waali kitab mein hai (3)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

taaki sila de unhein jo imaan laaye aur achhe kaam kiye ye hain jin ke liye bakhshish hai aur izzat ki rozi (4)

وَالَّذِينَ سَعَوْا عَلَيْنَا فإِئْتِنَا مُعْجِزِينَ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝

aur jinhone humari aayato mein harane ki koshish ki unke liye sakht azaab dardnak mein se azaab hai (5)

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ۖ وَيَهْدِي إِلَىٰ

صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

aur jinhein ilm mila wo jaante hain ke jo kuchh tumhari taraf tumhare rab ke paas se utra wahi haq hai aur izzat waale sab khoobiyo saraahe ki raah batata hai (6)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدَّبَكُمُ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبئُكُمْ إِذَا مَرَّ قَتْمٌ كُلِّ مَمْرٍ ۖ

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝

aur kafir bole kya hum tumhein aisa mard bata dein jo tumhein khabar de ke jab tum purze ho kar bilkul reza reza ho jaao to phir tumhein naya banna hai (7)

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَ

الضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝

kya allah par usne jhoot bandha ya use sauda hai balki wo jo aakhirat par imaan nahin laate azaab aur door ki gumrahi mein hain (8)

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّ نَاشِئًا

نُخَسِفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ

عَبْدٍ مُّذْنِبٍ ۝۹

kya unhone na dekha jo unke aage aur pichhe hai aasman aur zameen hum chahein to unhein zameen mein dhansa dein ya un par aasman ka tukda gira dein beshak us mein nishani hai har ruju laane waale bande ke liye (9)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۗ يُجِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ۗ وَالنَّالَةُ الْحَدِيدُ ۝۱۰

aur beshak humne dawood ko apna bada fazl diya ayr pahado uske saath allah ki taraf ruju karo aur aye parindo aur humne uske liye loha narm kiya (10)

أَنْ أَعْمَلَ سُبُغْتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنَّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱

ke wasee zar hain bana aur banane mein andaze ka lihaaz rakh aur tum sab neki karo beshak main tumhare kaam dekh raha hoon (11)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۗ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۗ وَمِنَ

الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَمَنْ يَّزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقُهُ مِنَ

عَذَابِ السَّعِيرِ ۝۱۲

aur suleman ke bas mein hawa kar di uski subah ki manzil ek mahina ki raah aur shaam ki manzil ek mahine ki raah aur humne uske liye pighle hue taambe ka chashma bahaya ayr jinno mein se wo jo jo uske aage kaam karte uske rab ke hukm se aur jo un mein humare hukm se phire hum use bhadakti aag ka azaab chakhayenge (12)

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رُسِيَّتٍ ط
إِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ط وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ ١٣

uske liye banate jo wo chahta unche unche mahal aur tasweerein aur bade hauzo ke barabar lagan aur langardar degein aye dawood waalo shukr karo aur mere bando mein kam hain shukr waale (13)

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ء
فَلَمَّا حَرَ تَبَيَّنَتْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ١٤

phir jab humne us par maut ka hukm bheja jinno ko uski maut na batai magar zameen ki deemak ne ke uska asaa khaati thi phir jab suleman zameen par aaya jinno ki haqeeqat khul gai agar ghaib jaante hote to us khwari ke azaab mein na hote (14)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ ۚ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ط كُلُّوا مِنْ رِّزْقِ
رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ط بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ١٥

beshak saba ke liye unki aabadi mein nishani thi do baagh dahine aur baayein apne rab ka rizq khao aur uska shukr ada karo pakeeza shehar bakhshne waala rab (15)

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ
خَبِطٍ وَآتَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ١٦

to unhone moonh phera to humne un par zor ka ahla bheja aur unke baagho ke iwaz do baagh unhein badal diye jin mein bakta mewa aur jhaao aur kuchh thodi si

beriya (16)

ذَلِكَ جَزَائِهِمْ بِمَا كَفَرُوا ۗ وَ هَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرِينَ ﴿١٦﴾

humne unhein ye badla diya unki nashukri ki saza aur hum kise saza dete hain usi ko jo nashukra hai (17)

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۗ

سَيَّرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا أَمِينِينَ ﴿١٨﴾

aur humne kiye the un mein aur un shehro mein jin mein humne barkat rakhi sare raah kitne shehar aur unhein manzil ke andaze par rakha un mein chalo raato aur dino aman wa amaan se (18)

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعُدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ

كُلَّ مُمَرِّقٍ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

to bole aye humare rab humein safar mein doori daal aur unhone khud apna hi nuqsan kiya to humne unhein kahaniya kar diya aur unhein poori pareshani se paraganda kar diya beshak is mein zaroor nishaniya hain har bade sabr waale har bade shukr waale ke liye

(19)

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

aur beshak iblees ne unhein apna gumaan sach kar dikhaya to wo uske pichhe ho liye magar ek giroh ke musalman tha (20)

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي

شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾

aur shaitan ka un par kuchh qaabu na tha magar isliye ke hum dikha dein ke kaun aakhirat par imaan laata hai aur kaun isse shak mein hai aur tumhara rab har cheez par nigezban hai (21)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَبْلُغُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍَ ۚ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٢١﴾

tum farmao pukaro unhein jinhein allah ke siwa samajh baithe ho aur wo zarra bhar ke malik nahin aasmano mein aur na zameen mein aur na un ka in dono mein kuchh hissa aur na allah ka in mein se koi madadgar (22)

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾

aur uske paas shafa'at kaam nahin deti magar jiske liye wo izn farmaye yahan tak ke jab izn de kar unke dilo ki ghabrahat door farma di jaati hai ek dusre se kehte hain tumhare rab ne kya hi baat farmai wo kehte hain jo farmaya haq farmaya aur wahi hai buland badai waala (23)

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللَّهُ ۗ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ
أَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

tum farmao kaun jo tumhein rozi deta hai aasmano aur zameen se tum khud hi farmao allah aur beshak hum ya tum ya tu zaroor hidayat par hain ya khuli gumrahi mein (24)

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

tum farmao humne tumhare gumaan mein agar koi jurm kiya to uski tum se puchh nahin na tumhare kotako ka humse sawal (25)

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ۗ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

tum farmao humara rab hum sab ko jama karega phir hum mein sachha faisla farma dega aur wahi hai bada nyaaw chukane waala sab kuchh jaanta (26)

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَحَقُّنَّ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا ۗ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

tum farmao mujhe dikhao to wo shareek jo tumne usse milaye hain hasht balki wahi hai allah izzat waala hikmat waala (27)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

aur aye mahboob humne tumko na bheja magar aisi risalat se jo tamam aadmiyo ko gherne wali hai khushkhabri deta aur dar sunata lekin bahut log nahin jaante (28)

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾

aur kehte hain ye waada kab aayega agar tum sachhe ho (29)

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ ۖ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً ۗ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

tum farmao tumhare liye ek aise din ka waada jisse tum na ek ghadi pichhe hat sako na aage badh sako (30)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَى إِذِ

الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ۗ يَقُولُ

الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾

aur kafir bole hum hargiz na imaan layenge is quran par na un kitabo par jo isse aage thi aur kisi tarah to dekhe jab zalim apne rab ke paas khade kiye jayenge un mein ek dusre par baat dalega wo jo dabe the unse kahenge jo unche khinchte the agar tum na hote to hum zaroor imaan le aate (31)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ

جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

wo jo unche khinchte the unse kahenge jo dabe hue the kya humne tumhein rok diya hidayat se baad iske ke tumhare paas aai balki tum khud mujrim the (32)

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضِعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا

أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا ۖ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ تَبَارَأُوا الْعَذَابَ ۖ وَجَعَلْنَا

الْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ هَلْ يُجْرُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

aur kahenge wo jo dabe hue the unse jo unche khinchte the balki raat din ka daan tha jabki tum humein hukm dete the ke allah ka inkaar karein aur uske barabar waale thehrayein aur dil hi dil mein pachtane lage jab azaab dekha aur humne tauq daale unki gardano mein jo munkir the wo kya badla payenge magar wahi jo kuchh karte the (33)

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا ۖ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

aur humne jab kisi shehar mein koi dar sunane waala bheja wahan ke aasudo ne yahi kaha ke tum jo le kar bheje gaye hum uske munkir hain (34)

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۝

aur bole hum maal aur awlaad mein badh kar hain aur hum par azaab hona nahin (35)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

tum farmao beshak mera rab rizq wasee karta hai jiske liye chahe aur tangi farmata hai lekin bahut log nahin jaante (36)

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا ۖ لِيُغْنِيََ إِلَّا مَن أَمِنَ وَعَمِلَ

صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ۝

aur tumhare maal aur tumhari awlaad is qabil nahin ke tumhein humare qurb tak pahunchayein magar wo jo imaan laaye aur neki ki unke liye doona doon sila unke amal ka badla aur wo bala khano mein amno amaan se hain (37)

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۝

aur wo jo humari aayato mein harane ki koshish karte hain wo azaab mein la dhare jayenge (38)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ

شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

tum farmao beshak mera rab rizq wasee farmata hai apne bando mein jiske liye chahe aur tangi farmata hai

jiske liye chahe aur jo cheez tum allah ki raah mein kharch karo wo uske badle aur dega aur wo sab se behtar rizq dene waala (39)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِيحًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٣٩﴾

aur jis din un sab ko uthayega phir firishto se farmayega kya ye tumhein pujte the (40)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مَنْ دُونَهُمْ ؕ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ؕ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤٠﴾

wo arz karenge paaki hai tujh ko tu hamara dost hai na wo balki wo jinno ko poojte the unme aksar unhi par yaqeen laye the (41)

فَالْيَوْمَ لَا يَنْبَغُ لَكَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۗ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤١﴾

to aaj tum me ek dusre ke bhale bure ka kuchh ikhtiyar na rakhega aur hun farmayenge zalimo se us aag ka azaab chakho jise tum jhuthlate the (42)

وَإِذْ تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ ؕ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا أَفْكٌ مُّفْتَرًى ۗ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَنَا جَاءَهُمْ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٢﴾

aur jab un par hamari raushan aayaten padhi jaye to kehte hain ye to nahi magar ek mard ke tumhein rokna chahte hain tumhare baap dada ke ma'boodo se aur kehte haain ye to nahi magar bohtan joda hua aur kafiron ne haqq ko kaha jab unke paas aaya ye to nahi

magar khula jadu (43)

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَّدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ ۗ

aur humne unhen kuchh kitaben na di jinhen padhte hon na tum se pehle unke paas koi darr sunane wala aaya (44)

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ۗ

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

aur unse aglon ne jhuthlaya aur ye uske daswe ko bhi na pahuche jo humne unhen diya tha fir unhone mere rasoolo ko jhuthlaya to kaisa hua mera inkar (45)

قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا ۗ

بِصَاحِبِكُمْ مِّن جَنَّةٍ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝

tum farmao mai tumhen ek hi nasihat karta hun ke allah ke liye khade raho do do aur akele akele fir socho ke tumhare un sahib me junoon ki koi baat nahi, wo to nahi magar tumhen darr sunane wale ek sakht azaab ke aage (46)

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۚ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ ۝

tum farmao maine tum se us par kuchh ajr manga hoto wo tumhi ko mera ajr to allah hi par hai aur wo har cheez par gawah hai (47)

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَفْضِلُ بِالْحَقِّ ۚ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ۝

tum farmao beshak mera rabb haqq par ilqa farmata

hai bahut janne wala sab gaib ka (48)

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيهِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُهُ ۝

tum farmao haqq aaya aur batil na pehal kare aur na fir kar aaye (49)

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۚ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۖ إِنَّهُ

سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۝

tum farmao agar main behka to apne hi bure ko behka aur agar maine raah paai to uske sabab jo mera rab meri taraf wahih farmata hai beshak wo sunne waala nazdeek hai (50)

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَاتَّخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝

aur kisi tarah tu dekhe jab wo ghabrahat mein daale jayenge phir bach kar na nikal sakenge aur ek qareeb jagah se pakad liye jayenge (51)

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ ۚ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَادُ شُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

aur kahenge hum is par imaan laaye aur ab wo ise kyunkar paayein itni door jagah se (52)

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝

ke pehle tu usse kufr kar chuke the aur be dekhe phenk maarte hain door makaan se (53)

وَ حَيْلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي

شَكِّ مُرِيبٍ ۝

aur rok kar di gai un mein aur us mein jise chhate hain jaise unke pehle giroho se kiya gaya tha beshak wo

Surah Fatir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat wala

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مَّتَنِي وَ
تُلْكَ وَرُبْعٍ ۖ يُزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

sab khoobiyen allah ko jo aasmano aur zameen ka banane wala firishtek ko rasool karne wala jinke do do, teen teen, char char par hain, badhata hai aaftrinash me jo chahe, beshak allah har cheez par qaadir hai (1)

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمْسِكُ ۙ فَلَا يُرْسِلُ لَهُ مِنْ
بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

allah jo rahmat logon ke liye khole uska koi rokne wala nahi aur jo kuchh rok le to uski rok ke baad uska koi chhodne wala nahi, aur wahi izzat wa hikmat wala hai (2)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرزُقُكُمْ مِّن
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآتَىٰ تَوْفُكُونَ ۝

ay logon apne upar allah ka ehsan yaad karo kya allah ke siwa aur bhi koi khaliq hai ke aasman aur zameen se tumhen rozi de uske siwa koi ma'abood nahi to tum kahan aundhe jate ho (3)

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝

aur agar ye tumhen jhuthlaye to beshak tum se pehle kitne hi rasool jhuthlaye gaye aur sab kaam allah hi ki taraf se firte hain (4)

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ

الْغُرُورُ ۝

ay logon beshak allah ka wada sach hai to hargiz tumhen dhokha na de duniya ki zindagi aur hargiz tumhen allah ke hukm par fareb na de wo bada farebi (5)

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۗ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ

السَّعِيرِ ۝

beshak shaitan tumhara dushman hai to tum bhi use dushman samjho wo to apne giroh ko isi liye bulata hai ke dozakh me hon (6)

الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

kafiron ke liye sakht azaab hai aur jo imaan laye aur acche kaam kiye unke liye bakhshish aur bada sawab hai (7)

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۗ فَإِنَّ اللَّهَ يُوْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ

يَشَاءُ ۗ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

to kya wo jiski nighah me uska bura kaam aarasta kiya gaya ki usne use bhala samjha hidayat wale ki tarah ho

jayega isliye allah gumrah karta hai jise chahe aur raah deta hai jise chahe to tumhari jaan un par hasrato me na jaye allah khoob janta hai jo kuchh wo karte hain (8)

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُبِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَدَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٨﴾

aur allah hai jisne bheji hawayen ke baadal ubhaarti hain fir hum use kisi shehar ki taraf rawaan karte hain to uske sabab hum zameen ko zinda farmate hain uske mare peeche yuhni hashr me uthana hai (9)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۗ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ
الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَمَكْرُ أُولَئِكَ
هُوَ يَبُورُ ﴿٩﴾

jise izzat ki chah ho to izzat to sab allah ke hath hai usi ki taraf chadhta hai pakiza kalam aur ko nek kaam hai wo use buland karta hai aur wo jo bure daanw karte hain unke liye sakht azaab hai aur unhi ka makr barbad hoga (10)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى
وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يَعْمَرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمرَةٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۗ إِنَّ
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٠﴾

aur allah ne tumhen banaya mitti se fir paani ki boond se fir tumhen kiya jode jode aur kisi maada ko pet nahi rahta aur na wo janti hai magar uske ilm se aur jis badi umr wale ko umr di jaye ya jis kisi ki umr kam rakhi

jaye ye sab ek kitab me hai beshak ye allah ko aasan
hai (11)

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ ۗ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٍ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۗ وَمِن
كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ
مَوَاجِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١١﴾

aur dono samundar ek se nahi, ye meetha hai khoob
meetha jiska pani khushgawar aur ye khari hai talkh,
aur har ek me se tum khate ho taza gosht aur nikalte
ho pehanne ka ek gehna, aur tu kashtiyon ko usme
dekhe ke pani cheerti hai taki tum uska fazl talash karo
aur kisi tarah haqq mano (12)

يُوجِبُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوجِبُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ
يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطِيرٍ ﴿١٣﴾

raat lata hai din ke hisse me aur din lata hai raat ke
hisse me aur usne kaam me lagaye suraj aur chaand
har ek ek muqarar meaad tak chalta hai ye hai allah
tumhara rabb usi ki badshahi hai aur uske siwa jinhen
tum poojte ho dana e khurma ke chhilke tak ke malik
nahi (13)

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْعَوْا دُعَاءَكُمْ ۗ وَلَوْ سَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكُمْ ۗ وَلَا يَنْبِتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

tum unhen pukaro to wo tumhari pukar na sune aur
bilfarz sun bhi len to tumhari haajat rawaa na kar sake

aur qiyamat ke din wo tumhare shirk se munkir honge aur tujhe koi na batayega us batane wale ki tarah (14)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٤﴾

ay logon tum sab allah ke mohtaj aur allah hi be-niyaz hai sab khoobiyon saraha (15)

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

wo chahe to tumhein le jaye aur nayi makhlooq le aaye (16)

وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌّ ﴿١٦﴾

aur ye allah par kuchh dushwar nahi (17)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَآ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَا وَكَلًا ۗ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾

aur koi bojh uthane wali jaan dusri jaan ka bojh na uthayegi aur agar koi bojh wali apna bojh bataane ko kisi ko bulaye to uske bojh me se koi kuchh ne uthayega agarche qareeb rishtedar ho ay mehboob tumhara darr sunana to unhi ko kaam deta hai jo be dekhe apne rabb se darte hain aur namaz qaeem rakhte hain aur jo suthra hua to apne hi bhale ko suthra hua aur allah hi ki taraf firna hai (18)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿١٨﴾

aur barabar nahi andha aur ankhiyara (19)

وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿١٩﴾

aur na andheriyaan aur ujala (20)

وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ ۗ

aur na saya aur na tez dhoop (21)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا أَنْتَ

بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۗ

aur barabar nahin zinde aur murde beshak allah sunata hai jise chahe aur tum nahi sunane wale unhen jo qabro me pade hain (22)

إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۗ

tum to yahi dar sunane wale ho (23)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۗ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۗ

ay mehboob beshak humne tumhen haqq ke sath bheja khushkhabri deta aur darr sunata aur jo koi giroh tha sab me ek darr sunane wala guzar chuka (24)

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ

بِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۗ

aur agar ye tumhen jhuthlayen to unse agle bhi jhuthla chuke hain unke paas unke rasool aaye raushan daleelen aur sahife aur chamakti kitab le kar (25)

ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ

fir maine kafiron ko pakda to kaisa hua mera inkar (26)

الْمَرَّتْ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۗ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۗ وَ

مِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۗ

kya tune na dekha ke allah ne aasman se pani utara to humne usse phal nikaale rang birang aur pahado me raste hain safed aur surkh rang rang ke aur kuchh kaale bhuchang (27)

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٧﴾

aur aadmiyon aur janwaro aur chaupayon ke rang yunhi tarah tarah ke hain allah se uske bandon me wahi darte hain jo ilm wale hain beshak allah bakhshne wala izzat wala hai (28)

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرُجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

beshak wo jo allah ki kitab padhte hain aur namaz qaeem rakhte aur hamare diye me se kuchh hamari raah kharch karte hain posheeda aur zahir wo aisi tijarat ke ummeedwar hain jis mein hargiz toota nahin (29)

لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

taki unke sawab unhen bharpoor de aur apne fazl se aur zyada ataa kare beshak wo bakhshne wala qadr farmane wala hai (30)

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

aur wo kitab jo humne tumhari taraf wahi bheji wahi

haqq hai apne se agli kitabo ki tasdeeq farmati hui,
beshak allah apne bando se khabardar dekhne wala
hai (31)

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۗ وَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ ۗ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْتُونَ اللَّهَ ۖ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ۝

fir humne kitab ka waris kiya apne chune hue bando
ko to unme koi apni jaan par zulm karta hai aur unme
koi miyana chaal par hai aur unme koi wo hai jo allah
ke hukm se bhalaiyon sabqat le gaya wahi bada fazl hai
(32)

جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَوَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ
فِيهَا حَرِيرٌ ۝

basne ke baagho me dakhil honge wo unme sone ke
kangan aur moti pehnaye jayenge aur wahan unki
poshak reshmi hai (33)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ۝

aur kahenge sab khoobiyon allah ko jisne hamara
gham door kiya beshak hamara rabb bakhshne wala
qadar farmane wala hai (34)

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۗ لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا
لُغُوبٌ ۝

wo jisne hume aaram ki jagah utara apne fazl se hume
usme na koi takleef pahuche na hume usme koi takaan
laahi ho (35)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
مِّنْ عَذَابِهَا ۗ كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كٰفِرٍ ﴿٣٦﴾

aur jinhone kufr kiya unke liye jahannam ki aag hai na unki qaza aaye ke mar jaye aur na un par uska azaab kuchh halka kiya jaye, hum aisi hi saza dete hain har bade nashukre ko (36)

وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا ۖ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۗ أَوْ
لَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۗ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

aur wo usme chillate honge ay hamare rabb hume nikal ke hum accha kaam karen uske khilaf jo pehle karte the aur kya humne tumhen wo umr na di thi jisme samjh leta jise samjhna hota aur darr sunane wala tumhare paas tashreef laya tha, to ab chakho ke zalimo ka koi madadgar nahi (37)

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذٰتِ الصُّدُوْرِ ﴿٣٨﴾

beshak allah janne wala hai aasmano aur zameen ki har chhupi baat ka, beshak wo dilon ki baat janta hai (38)

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خٰلِفٰٓ فِي الْاَرْضِ ۗ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۗ وَلَا يَزِيْدُ
الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتًا ۗ وَلَا يَزِيْدُ الْكٰفِرِيْنَ كُفْرُهُمْ اِلَّا
خَسٰرًا ﴿٣٩﴾

wahi hai jisne tumhen zameen me aglo ka jaanasheen kiya to jo kufr kare uska kufr usi par pade aur kafiron

ko unka kufr unke rabb ke yahan nahi badhayega
magar bezari aur kafiron ko unka kufr na badhayega
magar nuqsan (39)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ
الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ ۚ بَلْ
إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۝

tum farmao bhala batao to apne wo shareek jinhen
allah ke siwa poojte ho, mujhe dikhao unhone zameen
me kaun sa hissa banaya ya aasmano me kuchh unka
saajha hai ya humne unhen koi kitab di hai ke wo uski
raushan daleelon par hain balki zalim aapas me ek
dusre ko wada nahi dete magar fareb (40)

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ
أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

beshak allah roke hue hai aasmano aur zameen ko ke
junbish na kare aur agar wo hat jayen to unhen kaun
toke allah ke siwa, beshak wo hilm wala bakhshne wala
hai (41)

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَىٰ
الْأُمَمِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝

aur unhone allah ki qasam khayi apni qasmo se hadd
ki koshish se ke agar unke paas koi darr sunane wala
aaya to wo zaroor kisi na kisi giroh se zyada raah par
honge fir jab unke paas darr sunane wala tashreef laya

to usne unhen na badhaya magar nafrat karna (42)

اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ ۗ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۗ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ
اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٢﴾

apni jaan ko zameen me ooncha kheencha aur bura
daanw aur bura aur bura daanw apne chalne wale hi
par padta hai to kaahe ke intezar me hain magar usi ke
jo aglon ka dastoor hua to tum hargiz allah ke dastoor
ko badalta na paoge aur hargiz allah ke qanoon ko
talta na paoge (43)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٣﴾

aur kya unhone zameen me safar na kiya ke dekhte
unse aglo ka kaisa anjaam hua aur wo unse zor me
sakht the aur allah wo nahi jisne qaboo se nikal sake
koi shay aasmano aur na zameen me beshak wo ilm
wa qudrat wala hai (44)

وَلَوْ يُؤِخِّرُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِا مِنْ دَابَّةٍ ۚ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٤﴾

aur agar allah logo ko unke liye par pakadta to zameen
ki peeth pat koi chalne wala na chhodta lekin ek
muqarrar meead tak unhen dheel deta hai fir jab
unka wada aayega to beahak allah ke sab bande uski

nigah me hain (45)

Surah Yaseen

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat wala

يُسِّ ۞

"yaseen"(1)

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۞

hikmat wale qur'an ki qasam (2)

إِنَّكَ لَئِنِ الْمُرْسَلِينَ ۞

beshak tum (3)

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞

seedhi raah par bheje gaye ho (4)

تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۞

izzat wale meharban ka utara hua (5)

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۞

taki tum us qaum ko darr sunao jiske baap dada na daraye gaye to wo bekhabar hain (6)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

beshak unme aksar par baat sabit ho chuki hai to wo imaan na layenge (7)

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۞

humne unko gardano me tauq kar diye hain ke wo thodiyon tak hain to ye ab upar ko muh uthaye reh gaye (8)

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٨﴾

aur humne unke aage diwar bana di aur unke peeche ek diwar aur unhen upar se dhaank diya to unhen kuch nahi soojhta (9)

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾

aur unhen ek sa hai tum unhen darao ya na darao wo imaan lane ke nahi (10)

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِسَعْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

tum to usi ko darr sunate ho jo naseehat par chale aur rahman se be-dekhe dare to use bakhshish aur izzat ke sawab ki basharat do (11)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾

beshak hum murdo ko jilayenge aur hum likh rahe hain jo unhone aage bheja aur jo nishaniyan peeche chhod gaye aur har cheez humne gin rakhi hai ek batane wali kitab me (12)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ۚ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٢﴾

aur unse misaal bayan karo us shehar walon ki jab

unke paas firistade aaye (13)

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

jab humne unki taraf do bheje fir unhone unko jhuthlaya to humne teesre se zor diya ab un sab ne kaha ke beshak hum tumhari taraf bheje gaye hain (14)

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۗ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا

تَكْذِبُونَ ﴿١٤﴾

bole tum to nahi magar hum jaise aadmi aur rahman ne kuchh nahi utara tum nire jhootho ho (15)

قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لِنَا إِلَيْكُمْ لِمَنْ سَأَلْنَا ﴿١٥﴾

wo bole hamara rabb janta hai ke beshak zaroor hum tumhari taraf bheje gaye hain (16)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

aur hamare zimme nahi magar saaf pahucha dena (17)

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ ۚ وَلَيَسَسَنَنَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ

الْبِئْسَ

bole hum tumhen manhoos samjhate hain beshak tum agar baaz na aaye to zaroor hum tumhen sangsaar karenge aur beshak hamare hatho tum par dukh ki maar padegi (18)

قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ۗ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾

unhone farmaya tumhari nuhusat to tumhare sath hai kya is par bidakte ho ke tum samjhaye gaye balki tum hadd se badhne wale log ho (19)

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۝

aur shehar ke parle kinare se ek mard daudta hua aaya
bola ay meri qaum! bheje huo ki pairwi karo (20)

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝

aiso ki pairwi karo jo tumse kuchh neg nahi mangte
aur wo raah par hain (21)

Teiswa Paarah

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

aur mujhe kya hai ke uski bandagi na karun jisne
mujhe paida kiya aur usi ki taraf tumhein palatna hai
(22)

ءَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهَا إِلَهًا إِنَّ يَوْمَ الرَّحْمَنِ يَوْمٌ مُبْهِتٌ ۝
يُنْقِذُ ۝

kya allah ke siwa aur khuda thehraun ke agar rahman
mera kuchh bura chahe to unki sifarish mere kuchh
kaam na aaye aur na wo mujhe bacha saken (23)

إِنِّي إِذًا لَنُفِيٍّ ۝

beshak jab to mai khuli gumrahi me hun (24)

إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمِعُونِ ۝

muqarrar mai tumhare rabb par imaan laya to meri
suno (25)

قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۝ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۝

usse farmaya gaya ke jannat me dakhil ho kaha kisi tarah meri qaum janti (26)

بِمَا غَفَر لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٦﴾

jaisi mere rabb ne meri magfirat ki aur mujhe izzat walon me kiya (27)

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٧﴾

aur humne uske baad uski qaum par aasman se koi lashkar na utara aur na hume wahan koi lashkar utarna tha (28)

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿٢٨﴾

wo to bas ek hi cheekh thi jabhi wo bujh kar reh gaye (29)

يُحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَاْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٩﴾

aur kaha gaya ke haaye afsos un bando par kab unke paas koi rasool aata hai to usse thatta hi karte hain (30)

الْمُيْرُواكُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣٠﴾

kya unhone na dekha humne usne pehle kitni sangate halak fatmayi ke wo ab unki taraf palatne wale nahi (31)

وَإِنْ كُلُّ لَبَّاءٍ جَبِينٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣١﴾

aur jitne bhi hain sabke sab hamare huzoor hazir laye jayenge (32)

وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْبَيْتَةُ ۖ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٢﴾

aur unke liye ek nishani murda zameen hai humne use zinda kiya aur fir usse anaj nikala to usme se khate hain (33)

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٣﴾

aur humne usme baagh banaye khajooro aur angooro ke aur humne usme kuchh chashme bahaye (34)

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۖ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٤﴾

ke uske phalo me se khayen aur use unke hath ke banaye nahi to kya haqq na manenge (35)

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾

paaki hai use jisne sab jode banaye un chhezo se jinhen zameen ugati hai aur khud unse aur un cheezon se jin ki unhen khabar nahi (36)

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ۖ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٦﴾

aur unke liye ek nishani raat hai hum us par se din kheench lete hain kabhi wo andhere me hai (37)

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٧﴾

aur suraj chalta hai apne ek thehraw ke liye ye hukm hai zabardast ilm wale ka (38)

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٨﴾

aur chand ke liye humne manzile muqarrar yahan tak ke fir ho gaya jaisi khajoor ki purani daal (39)

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

suraj ko nahi pahuchta ke chand ko pakad le aur na raat din par sabqat le jaye aur har ek ek ghere me pair raha hai (40)

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾

aur unke liye ek nishani ye hai ke unhen unke buzurgo ki peeth me humne bhari kashti me sawaar kiya (41)

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

aur unke liye waisi hi kashtiyen bana di jin par sawaar hote hain (42)

وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴿٤٣﴾

aur hum chaahen to unhen dubo den to na koi unki fariyad ko pahuchne wala ho aur na wo bachaye jayen (43)

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

magar hamari taraf ki rahmat aur ek waqt tak baratne dena (44)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

aur jab unse farmaya jata hai daro tum usse jo tumhare samne hai aur jo tumhare peeche aane wala hai is ummeed par ke tum par mehar ho to muh fer lete hain (45)

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾

aur jab kabhi unke rabb ki nishaniyon se koi nishani unke paas aayi hai to usse muh fer lete hain (46)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۖ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ
مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۗ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٠﴾

aur jab unse farmaya jaye allah ke diye me se kuchh uski raah me kharch karo to kafir musalmano ke liye kehte hain ke kya hum use khilaye jise allah chahta to khila deta tum to nahi magar khuli gumrahi me (47)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ ۖ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥١﴾

aur kehte hain kab aayega ye waada agar tum sacche ho (48)

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ ﴿٥٢﴾

raah nahi dekhte magar ek cheekh ki ke unhen aa legi jab wo duniya ke jhagde me phanse honge (49)

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٣﴾

to na wasiyat kar sakenge aur na apne ghar palat kar jayen (50)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥٤﴾

aur phoonka jayega soor jabhi wo qabro se apne rabb ki taraf daudte chalenge (51)

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۗ ۗ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٥﴾

kahenge haaye hamari kharabi kis ne hame sote se jaga diya ye hai wo jiska rahman ne waada diya tha aur rasoolo ne haqq farmaya (52)

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٦﴾

wo to na hogi magar ek chinghaad jabhi wo sabke sab hamare huzoor hazir ho jayenge (53)

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

to aaj kisi jaan par kuchh zulm na hoga aur tumhen badla na milega magar apne kiye ka (54)

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ ﴿٥٤﴾

beshak jannat wale aaj dil ke behlaawo me chain karte hain (55)

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ ﴿٥٥﴾

wo aur unki biwiyen saayo me hain takhto par takiya lagaye (56)

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٦﴾

unke liye usme mewa hai aur unke liye hai usme jo maange (57)

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٧﴾

un par salam hoga meharban rabb ka farmaya hua (58)

وَأَمْتَأَزُوا الْيَوْمَ أَيَّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٨﴾

aur aaj alag fat jao ay mujrimo (59)

أَلَمْ آعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ؕ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾

ay aulade aadam kya maine tumse ahad na liya tha ke shaitan ko na poojna beshak wo tumhara khula dushman hai (60)

وَأَنِ اعْبُدُونِي ۗ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

aur meri bandagi karna ye seedhi raah hai (61)

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

aur beshak usne tum me se bahut si khilqat ko behka
diya to kya tumhen aql na thi (62)

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾

ye hai wo jahannam jiska tumse waada tha (63)

إِضْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾

aaj is me jao badla apne kufr ka (64)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

aaj hum unke muhon par muhar kar denge aur unke
hath hum se baat karenge aur unke paanw unke kiye ki
gawahi denge (65)

وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾

aur agar hum chahte to unki aankhe mita dete fir lapak
kar raste ki taraf jaye to unhen kuchh na soojhta (66)

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

aur agar hum chahte to unke ghar beithe unki auraten
badal dete ki na aage badh sakte na peechhe lautate
(67)

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۗ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

aur jise hum badi umr ka karen use paidaish me ulta
fere to kya samjhate nahi (68)

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾

aur humne unko she'r kehna na sikhaya aur na wo

unki shan ke laaiq hai wo to nahi magar naseehat aur
raushan qur'an (69)

لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾

ke use daraye jo zinda ho aur kafiron par baat sabit ho
jaye (70)

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَتٌ آيَاتِنَا أَنْعَامًا فَهَمُّوا بِهَا مَالِكُونَ ﴿٧٠﴾

aur kya unhone na dekha ke humne apne hath ke
banaye hue chaupaye unke liye paida kiye to ye unke
malik hain (71)

وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧١﴾

aur unhen unke liye narm kar diya to kisi par sawaar
hote aur kisi ko khate hain (72)

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٢﴾

aur unke liye unme kar tarah ke nafe aur peene ki
cheezen hain to kya shukr na karenge (73)

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٣﴾

aur unhone allah ke siwa aur khuda thehra liye ke
shayad unki madad ho (74)

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿٧٤﴾

wo unki madad nahi kar sakte aur wo unke lashkar sab
giriftar hazir aayenge (75)

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّآ نَعْلَمُ مَا يَسْرُونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٥﴾

to tum unki baat ka gham na karo beshak hum jante
hain hi wo chhupate hain aur zahir karte hain (76)

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾

aur kya aadmi ne na dekha ke humne use pani ki boond se banaya jabhi wo sareeh jhagdalua hai (77)

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُعْجِبُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

aur hamare liye kahawat kehta hai aur apni paidaish bhool gaya, bola aisa kaun hai ke haddiyon ko zinda kare jab wo bilkul gal gayi (78)

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

tum farmao unhen wo zinda karega jisne pehli baar unhen banaya aur use har paidaish ka ilm hai (79)

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

jisne tumhare liye hare ped me se aag paida ki jabhi tum usse sulgate ho (80)

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۗ بَلَىٰ ۗ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

aur kya wo jisne aasman aur zameen banaye un jaise aur nahi bana sakta (81)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

uska kaam to yahi hai ke jab kisi cheez ko chahe to usse farmaye ho ja to wo fauran ho jati hai (82)

فَسُبْحٰنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

to paki hai use jiske hath har cheez ka qabza hai aur usi ki taraf fere jaoge (83)

Surah Saffaat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالصُّفُّتِ صَفًّا ۝

qasam unki ke baqaida saf bandhein (1)

فَالرُّجْرُتِ رَجْرًا ۝

phir unki ke jhidak kar chalayein (2)

فَالتُّلُوتِ ذِكْرًا ۝

phir un jama'ato ki ke quran padhein (3)

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝

beshak tumhara mabood zaroor ek hai (4)

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝

malik aasmano aur zameen ka aur jo kuchh unke
darmiyen hai aur maalik mashriqo ka (5)

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ۝

beshak humne niche ke aasman ko taaro ke singaar se
aarasta kiya (6)

وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝

aur nigah rakhne ko har shaitan sarkash se (7)

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْدِفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝

aalame baala ki taraf kaan nahin laga sakte aur un par

har taraf se maar phenk hoti hai (8)

دُحُورًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٨﴾

unhein bhagane ko aur unke liye humesha ka azaab (9)

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٩﴾

magar jo ek aadh baar uchak le chala to raushan
angaar uske pichhe laga (10)

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۗ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ﴿١٠﴾

to unse puchho kya un ki paidaish zyada mazboot hai
ya humari aur makhlooq (aasmani aur firishto
waghaira) ki beshak humne unko chipakti mitti se
banaya (11)

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١١﴾

balki tumhein achamba aaya aur wo hansi karte hain
(12)

وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٢﴾

aur samjhaye nahin samajhte (13)

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٣﴾

aur jab koi nishani dekhte hain thathha karte hain (14)

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾

aur kehte hain ye to nahin magar khula jadu (15)

عِذَا مِنَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۗ إِنَّا لَبَعُوثُونَ ﴿١٥﴾

kya jab hum mar kar mitti aur haddiya ho jayenge kya
hum zaroor uthaye jayenge (16)

أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ﴿١٦﴾

aur kya humare agle baap dada bhi (17)

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٧﴾

tum farmao haan yun ke zaleel ho ke (18)

فَأَنْتُمْ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٨﴾

to wo ek hi jhidak hai jabhi wo dekhne lagenge (19)

وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ﴿١٩﴾

aur kahenge haaye humari kharabi unse kaha jayega
ye insaf ka din hai (20)

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾

ye hai wo faisla ka din jise tum jhutlate the (21)

أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢١﴾

zalimo aur unke jodo ko aur jo kuchh wo pujte the (22)

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٢﴾

allah ke siwa un sab ko haanko raahe dozakh ki taraf
(23)

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٣﴾

aur unhein thehrao unse puchhna hai (24)

مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿٢٤﴾

tumhein kya hua ek dusre ki madad kyun nahin karte
(25)

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٥﴾

balki wo aaj gardan daale hain (26)

وَاقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٦﴾

aur un mein ek ne dusre ki taraf moonh kiya aapas
mein puchhte hue (27)

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

bole tum humare dahni taraf se behkane aate the (28)

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

jawab denge tum khud hi imaan na rakhte the (29)

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٢٩﴾

aur humara tum par kuchh qaabu na tha balki tum
sarkash log the (30)

فَحَقِّقْ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا ۗ إِنَّكَ لَدَٰبِقُونَ ﴿٣٠﴾

to saabit ho gai hum par humare rab ki baat humein
zaroor chakhna hai (31)

فَاغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غُٰوِينَ ﴿٣١﴾

to humne tumhein gumraah kiya ke hum khud gumrah
the (32)

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٢﴾

to us din wo sab ke sab azaab mein shareek hain (33)

إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾

mujrimo ke saath hum aisa hi karte hain (34)

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۙ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٤﴾

beshak jab unse kaha jaata tha ke allah ke siwa kisi ki
bandagi nahin to unche khinchte the (35)

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَأْتِيَنَّكَ رُكُودًا ۖ وَلَقَدْ جَاءتُنَا رُسُلٌ مِنَّا مِن قَبْلِكَ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ إِنَّا كُنَّا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٣٥﴾

aur kehte the kya hum apne khudao ko chhod dein ek
deewana shaair ke kehne se (36)

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٦﴾

balki wo to haq laaye hain aur unhone rasoolo ki
tasdeeq farmai (37)

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٧﴾

beshak tumhein zaroor dukh ki maar chakhni hai (38)

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٨﴾

to tumhein badla na milega magar apne kiye ka (39)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٣٩﴾

magar jo allah ke chune hue bande hain (40)

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤٠﴾

unke liye wo rozi hai jo humare ilm mein hai (41)

فَوَاكِهُ ؕ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤١﴾

mewe aur unki izzat hogi (42)

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٤٢﴾

chain ke baagho mein (43)

عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٣﴾

takhto par honge aamne saamne (44)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٤٤﴾

un par daura hoga nigah ke saamne behti sharab ke
jaam ka (45)

يَبِضْءٍ لَّذِي لِّلشَّرِّ بَيْنَ ﴿٤٥﴾

safed rang peene waalo ke liye lazzat (46)

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٦﴾

na us mein khumar hai aur na us se unka sar phire (47)

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ طَّرْفٍ عَيْنٍ ﴿٤٧﴾

aur unke paas hain jo shauharo ke siwa dusri taraf aankh utha kar na dekhengi badi aankho waaliya (48)

كَأَنَّهُنَّ بَيِّضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٨﴾

goya wo ande hain poshida rakhe hue (49)

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٤٩﴾

to un mein ek ne dusre ki taraf moonh kiya puchhte hue (50)

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥٠﴾

un mein se kehne waala bola mera ek hum nasheen tha (51)

يَقُولُ أَبَيْتِكَ لِبَنِ الْبُصْدِ قَيْنِ ﴿٥١﴾

mujhse kaha karta kya tum ise sach maante ho (52)

عَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَأَنَا لَكِدِيُنُونَ ﴿٥٢﴾

ya jab hum mar kar mitti aur haddiya ho jayenge to kya humein jaza saza di jayegi (53)

قَالَ هَلْ أُنْتُمْ مُّطَّلَعُونَ ﴿٥٣﴾

kaha kya tum jhaank kar dekhoge (54)

فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٤﴾

phir jhanka to use beech bhadakti aag mein dekha (55)

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدَّتْ لَتُرْدِيْنَ ۝

kaha khuda ki qasam qareeb tha ke tu mujhe halaak
kar de (56)

وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ۝

aur mera rab fazl na kare to zaroor main bhi pakad kar
haazir kiya jaata (57)

اَفَبَا نَحْنُ بِبَيِّنٰتِيْنَ ۝

to kya humein marna nahin (58)

اِلَّا مَوْتَنَا الْاُولٰٓئِ وَ مَا نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ۝

magar humari pehli maut aur hum par azaab na hoga
(59)

اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

beshak yahi badi kamyabi hai (60)

لِيَسْئَلِ هٰذَا فَاَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ۝

aisi hi baat ke liye kaamiyo ko kaam karna chahiye (61)

أَذِيكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمُ شَجَرَةُ الرَّقُومِ ﴿٦٢﴾

to ye mehmani bhali ya thohad ka ped (62)

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾

beshak humne use zalimo ki jaanch kiya hai (63)

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾

beshak wo ek ped hai ke jahannam ki jadein nikalta hai
(64)

طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾

uska shagofa jaise dewo ka sar (65)

فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لَعُونُ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾

phir beshak wo us mein se khayenge phir usse pet
bharengi (66)

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٧﴾

phir beshak unke liye us par khaulte paani ki maloni
hai (67)

ثُمَّ إِنَّ مَرَجِعَهُمْ لِآلِي الْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾

phir unki baazgusht zaroor bhadakti aag ki taraf hai
(68)

إِنَّهُمْ الْفَوَا أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾

beshak unhone apne baap dada gumrah paaye (69)

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧٠﴾

to wo unhi ke nishane qadam par daude jaate hain (70)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾

aur beshak unse pehle bahut se agle gumrah hue (71)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ ﴿٧١﴾

aur beshak humne un mein dar sunane waale bheje
(72)

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ ﴿٧٢﴾

to dekho daraye gayo ka kaisa anjaam hua (73)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٣﴾

magar allah ke chune hue bande (74)

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلِنِعْمِ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٤﴾

aur beshak humein nooh ne pukara to hum kya hi
achhe qabool farmane waale (75)

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٥﴾

aur humne use aur uske ghar waalo ko badi takleef se
najaat di (76)

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٦﴾

aur humne usi ki awlaad baaqi rakhi (77)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٧﴾

aur humne pichhlo mein uski tareef baaqi rakhi (78)

سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٨﴾

nooh par salaam ho jahaan waalo mein (79)

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٩﴾

beshak hum aisa hi sila dete hain neko ko (80)

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٠﴾

beshak wo humare aala darja ke kamilul imaan bando
mein hai (81)

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨١﴾

phir humne dusro ko dubo diya (82)

وَإِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِابْرَاهِيمَ ﴿٨٢﴾

aur beshak usi ke giroh se ibrahim hai (83)

إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٣﴾

jabki apne rab ke paas haazir hua ghair se salamat dil
le kar (84)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٤﴾

jab usne apne baap aur apni qaum se farmaya tum kya
poojte ho (85)

أَفِغَاكُمُ إِلَهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٥﴾

kya bohtan se allah ke siwa aur khuda chahte ho (86)

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾

to tumhara kya gumaan hai rabbul aalameen par (87)

فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٧﴾

phir usne ek nigah sitaro ko dekha (88)

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٨﴾

phir kaha main beemar hone waala hoon (89)

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٨٩﴾

to wo us par peeth de kar phir gaye (90)

فَرَأَى إِلَى الْهَيْتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩٠﴾

phir unke khudao ki taraf chhup kar chala to kaha kya
tum nahin khaate (91)

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩١﴾

tumhein kya hua ke nahin bolte (92)

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٢﴾

to logon ki nazar bacha kar unhein dahne haath se
maarne laga (93)

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ ﴿٩٣﴾

to kafir uski taraf jaldi karte aaye (94)

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴿٩٤﴾

farmaya kya apne haath ke tarasho ko pujte ho (95)

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

aur allah ne tumhein paida kiya aur tumhare aamaal
ko (96)

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٦﴾

bole iske liye ek imarat chino phir ise bhadakti aag
mein daal do (97)

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٧﴾

to unhone us par daanw chalna chaha humne unhein
nicha dikhaya (98)

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٨﴾

aur kaha main apne rab ki taraf jaane waala hoon ab
wo mujhe raah dega (99)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩٩﴾

ilahi mujhe laaiq awlaad de (100)

فَبَشِّرْهُ بِغُلْمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠٠﴾

to humne use khushkhabri sunai ek aqlmand ladke ki
(101)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يُبْنَىٰ إِنَّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۖ

قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠١﴾

phir jab wo uske saath kaam ke qabil ho gaya kaha aye mere bete maine khwab dekha ke main tujhe zibah karta hoon ab tu dekh teri kya raaye hai kaha aye mere baap kijiye jis baat ka aapko hukm hota hai khuda ne chaha to qareeb hai ke aap mujhe sabir payenge (102)

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٢﴾

to jab un dono ne humare hukm par gardan rakhi aur baap ne bete ko maathe ke bal litaya us waqt ka haal na puchh (103)

وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا بُرْهِيمُ ﴿١٠٣﴾

aur humne use nida farmai aye ibrahim (104)

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْيَا ؕ إِنَّا كَدُوكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٤﴾

beshak tu ne khwab sach kar dikhai hum aisa hi sila dete hain neko ko (105)

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٥﴾

beshak ye rawish jaanch thi (106)

وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٦﴾

aur humne ek bada zabiha uske sadqe mein de kar use

bacha liya (107)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝

aur humne pichhlo mein uski tareef baaqi rakhi (108)

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

salam ho ibrahim par (109)

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

hum aisa hi sila dete hain neko ko (110)

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

beshak wo humare aala darja ke kamilul imaan bando
mein hain (111)

وَبَشِّرْهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

aur humne use khushkhabri di is'haaq ki ke ghaib ki
khabrein batane waala humare qurbe khaas ke
sazawaaro mein (112)

وَابْرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۖ وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ۝

aur humne barkat utari us par aur is'haaq par aur unki
awlaad mein koi achha kaam karne waala aur koi apni
jaan par sareeh zulm karne waala (113)

وَلَقَدْ مَنَّآ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

aur beshak humne moosa aur haroon par ehsan
farmaya (114)

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

aur unko aur unki qaum ko badi sakhti se najaat
bakhshi (115)

وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾

aur unki humne madad farmai to wahi ghalib hue (116)

وَأَتَيْنَهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾

aur humne un dono ko raushan kitab ata farmai (117)

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾

aur unko seedhi raah dikhai (118)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ ﴿١١٩﴾

aur pichhlo mein unki tareef baaqi rakhi (119)

سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾

salam ho moosa aur haroon par (120)

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾

beshak hum aisa hi sila dete hain neko ko (121)

إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

beshak wo dono humare aala darja ke kamilul imaan bando mein hain (122)

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

aur beshak ilyaas paighambaro se hai (123)

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

jab usne apni qaum se farmaya kya tum darte nahin (124)

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾

kya bail ko poojte ho aur chhodte ho sab se achha paida karne waale allah ko (125)

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولَىٰ ﴿١٢٦﴾

jo rab hai tumhara aur tumhare agle baap dada ka
(126)

فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

phir unhone use jhutlaya to wo zaroor pakde aayenge
(127)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾

magar allah ke chune hue bande (128)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾

aur humne pichhlo mein uski sana baaqi rakhi (129)

سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَبْسُتُونَ ﴿١٣٠﴾

salam ho ilyaas par (130)

إِنَّا كَذَّبُكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

beshak hum aisa hi sila dete hain neko ko (131)

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾

beshak wo humare aala darja ke kamilul imaan bando
mein hai (132)

وَإِنَّ لَوْ كَا لَيْنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾

aur beshak looth paighambaro mein hai (133)

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾

jabki humne use aur uske sab ghar waalo ko najaat
bakhshi (134)

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾

magar ek budhya ke reh jaane waalo mein hui (135)

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٥﴾

phir dusro ko humne halaak farma diya (136)

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٦﴾

aur beshak tum un par guzarte ho subah ko (137)

وَبِاللَّيْلِ ط أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٧﴾

aur raat mein to kya tumhein aql nahin (138)

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٨﴾

aur beshak yunus paighambaro se hai (139)

إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٩﴾

jab ke bhari kashti ki taraf nikal gaya (140)

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤٠﴾

to qur'a daala to dhakelo huo mein hua (141)

فَالْتَقَبَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤١﴾

phir use machhli ne nigal liya aur wo apne aap ko
malamat karta tha (142)

فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٢﴾

to agar wo tasbeeh karne waala na hota (143)

لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٣﴾

zaroor uske pet mein rehta jis din tak log uthaye
jayenge (144)

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٤﴾

phir humne use maidan par daal diya aur wo beemaar

tha (145)

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِينٍ ﴿١٤٥﴾

aur humne us par kaddu ka ped ugaya (146)

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٦﴾

aur humne use lakh aadmiyo ki taraf bheja balki zyada
(147)

فَأَمَّنُوا فَتَرْتَهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٧﴾

to wo imaan le aaye to humne unhein ek waqt baratne
diya (148)

فَاسْتَفْتَيْهِمْ رَسُولُكَ الْبَنَاتِ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٤٨﴾

to unse puchho kya tumhare rab ke liye betiya hain aur
unke bete (149)

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٤٩﴾

ya humne malaika ko auratein paida kiya aur wo haazir
the (150)

أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿١٥٠﴾

sunte ho beshak wo apne bohtan se kehte hain (151)

وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٥١﴾

ke allah ki awlaad hai aur beshak zaroor wo jhoote
hain (152)

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٢﴾

kya usne betiya pasand ki bete chhod kar (153)

مَا لَكُمْ تَكْتُمُونَ ﴿١٥٣﴾

tumhein kya hai kaisa hukm lagate ho (154)

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾

to kya dhyaan nahin karte (155)

أَمْ لَكُمْ سُلْطَنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾

ya tumhare liye koi khuli sanad hai (156)

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٥٧﴾

to apni kitab lao agar sachhe ho (157)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۗ وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

aur us mein aur jinno mein rishta thehraya aur beshak jinno ko maloom hai ke wo zaroor haazir laaye jayenge (158)

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٥٩﴾

paaki hai allah ko in baato se ke ye batate hain (159)

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾

magar allah ke chune hue bande (160)

فَأَنذَرْتُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾

to tum aur jo kuchh tum allah ke siwa pujte ho (161)

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْرِينَ ﴿١٦٢﴾

tum uske khilaf kisi ko behkane waale nahin (162)

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾

magar use jo bhadakti aag mein jaane waala hai (163)

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾

aur firishte kehte hain hum mein har ek ka ek maqaam maloom hai (164)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٦٥﴾

aur beshak hum par phailaye hukm ke muntazir hain
(165)

وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

aur beshak hum uski tasbeeh karne waale hain (166)

وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٦٧﴾

aur beshak wo kehte the (167)

لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأُولَىٰ ﴿١٦٨﴾

agar humare paas aglo ki koi naseehat hoti (168)

لَكِنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٦٩﴾

to hum zaroor allah ke chune bande hote (169)

فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

to iske munkir hue to anqareeb jaan lenge (170)

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

aur beshak humara kalaam guzar chuka hai humare
bheje hue bando ke liye (171)

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾

ke beshak unhi ki madad hogi (172)

وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

aur beshak humara hi lashkar ghalib aayega (173)

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

to ek waqt tak tum unse moonh pher lo (174)

وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٥﴾

aur unhein dekhte raho ke anqareeb wo dekhenge
(175)

أَفِيعَدًا إِنَّا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٥﴾

to kya humare azaab ki jaldi karte hain (176)

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٦﴾

phir jab utrega unke aangan mein to daraye gayo ki
kya hi buri subah hogi (177)

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٧﴾

aur ek waqt tak unse moonh pher lo (178)

وَأَبْصُرُ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٩﴾

aur intezar karo ke wo anqareeb dekhenge (179)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾

paaki hai tumhare rab ko izzat waale rab ko unki baato
se (180)

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾

aur salam hai paighambaro par (181)

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

aur sab khoobiya'n allah ko jo saare jahaan ka rab hai
(182)

Surah Saad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat wala

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝

is naamwar qur'an ki qasam (1)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝

balki kafir takabbur aur khilaf me hain (2)

كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَاوَلَاتِ حِينٍ مِّنَاصٍ ۝

humne unse pehle kitni sangate khapayi to ab wo pukaren aur chootne ka waqt na tha (3)

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ ۝

aur unhen islam achambha hua ke unke paas unhi me ka ek darr sunane wala tashreef laya aur kafir bole ye jadugar hai bada jhutha (4)

أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ ۝

kya usne bahut khudao ka ek khuda kar diya beshak ye ajeeb baat hai (5)

وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۚ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝

aur unme ke sardar chale ke uske paas se chal do aur apne khudao par sabir raho beshak isme uska koi matlab hai (6)

مَا سَبِعْنَا بِهَذَا فِي الْبِلَّةِ الْآخِرَةِ ۚ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ ۝

ye to humne sabse pichhle deen nasraniyat me bhi na
suni ye to niri nayi gadhat hai (7)

أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۚ بَلْ لَمَّا يَدُوُّ قَوْمًا
عَذَابٍ ۙ

kya un par qur'an utara gaya hum sab me se balki wo
shak me hai meri kitab se balki abhi meri maar nahi
chakhi hai (8)

أَمْرٍ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۙ

kya wo tumhare rabb ki rahmat ke khajanchi hain wo
izzat wala bahut ataa farmane wala hai (9)

أَمْرٌ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۙ

kya unke liye hai saltanat aasmano aur zameen ki aur
jo kuchh unke darmiyan hai to rassiyan latka kar chadh
na jayein (10)

جُنْدًا مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ۙ

ye ek zaleel lashkar hai unhin lashkari me se jo wahin
bhaga diya jayega (11)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ۙ

unse pehle jhutla chuke hain nooh ki qaum aur aad
aur chaumekha karne wala firaun (12)

وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ۚ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ۙ

aur samood aur loot ki qaum aur ban wale ye hain wo
giroh (13)

إِنَّ كُلَّ الْإِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۙ

unme koi aisa nahi jisne rasoolo ko na jhuthlaya ho to
mera azaab lazim hua (14)

وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٤﴾

aur ye raah nahi dekhte magar ek cheekh ki jise koi fer
nahi sakta (15)

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٥﴾

aur bole ay hamare rabb hamara hissa hume jald de
de hisab ke din se pehle (16)

إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۗ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٦﴾

tum unki baaton par sabr karo aur hamare bande
dawood ne'maton wale ko yaad karo beshak wo bada
ruju' karne wala hai (17)

إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٧﴾

beshak hamne uske sath pahad musakhkhar farma
diye ke tasbeeh karte shaam ko aur suraj chamakte
(18)

وَالطَّيْرِ مَحْشُورَةً ۗ كُلُّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾

aur parinde jama kiye hue sab uske farmabardar the
(19)

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَضَّلْنَا الْخُطَابِ ﴿٢٠﴾

aur humne uski saltanat ko mazboot kiya use hikmat
aur qaule faisal diya (20)

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضْمِ ۗ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ ﴿٢١﴾

aur kya tumhein us daawe waalo ki bhi khabar aai jab

wo deewar kood kar dawood ki masjid mein aaye (21)

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ خَصَصْنَا لَكَ مِنْهَا بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ

فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝

jab wo dawood par dakhil hue to wo unse ghabra gaya unhone arz ki dariye nahin hum do fareeq hain ke ek ne dusre par zyadati ki hai to hum mein sachha faisla farma dijiye aur khilafe haq na kijiye aur humein seedhi raah bataiye (22)

إِنَّ هَذَا أَخِي ۖ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْبَةً وَلِي نَعْبَةٌ وَاحِدَةٌ ۖ فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَ

عَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝

beshak ye mera bhai hai iske paas ninanwe dumbiya hain aur mere paas ek dumbi ab ye kehte hai wo bhi mujhe hawale kar de aur baat mein mujh par zor daalta hai (23)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْبَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ

بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ

دَاوُدُ أَنَّهُ فَتَنَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

dawood ne farmaya beshak ye tujh par zyadati karta hai ke teri dumbi apni dumbiyo mein milane ko maangta hai aur beshak aksar saajhe waale ek dusre par zyadati karte hain magar jo imaan laaye aur achhe kaam kiye aur wo bahut thode hain ab dawood samjha ke humne ye uski jaanch ki thi to apne rab se muaafi maangi aur sajde mein gir pada aur ruju laaya

(24-sajda)

فَعَفَرْنَا لَهُ ذُلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٢٥﴾

to humne use ye muaaf farma diya aur beshak uske liye humari bargaah mein zaroor qurb aur achha thikana hai (25)

يَا أَوْدَانَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

aye dawood beshak humne tujhe zameen mein naaib kiya to logon mein sachha hukm kar aur khwahish ke pichhe na jaana ke tujhe allah ki raah se behka degi beshak wo jo allah ki raah se behakte hain unke liye sakht azaab hai is par ke wo hisab ke din ko bhool baithe (26)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

aur humne aasman aur zameen aur jo kuchh unke darmiyan hai bekaar na banaye ye kafiro ka gumaan hai to kafiro ki kharabi hai aag se (27)

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾

kya hum unhein jo imaan laaye aur achhe kaam kiye un jaisa kar dein jo zameen mein fasaad phailate hain ya hum parhezgaro ko shareer be hukmo ke barabar thehra dein (28)

كُنْتُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾

ye ek kitab hai ke humne tumhari taraf utaari barkat waali taaki iski aayato ko sochein aur aqlmand nasehat maanein (29)

وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

aur humne dawood ko suleman ata farmaya kya achha banda beshak wo bahut ruju laane waala (30)

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفُوفُ الْجِيَادِ ﴿٣١﴾

jabki us par pesh kiye gaye teesre pehar ko ke rokiye to teen paaon par khade ho chauthe sum ka kinara zameen par lagaye hue aur chalaye to hawa ho jaayein (31)

فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي ۗ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾

to suleman ne kaha mujhe in ghodo ki muhabbat pasand aai hai apne rab ki yaad ke liye phir unhein chalane ka hukm diya yahan tak ke nighah se parde mein chhup gaye (32)

رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۗ طُفِيفًا مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

phir hukm diya ke unhein mere paas wapas laao to unki pindliyo aur gardano par haath pherne laga (33)

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾

aur beshak humne suleman ko jaancha aur uske takht par ek be jaan badan daal diya phir ruju laaya (34)

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

to humne hawa uske bas mein kar di ke uske hukm se
narm narm chalti jahan wo chahta (36)

وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

aur dew bas mein kar diye har maymar aur ghoti khor
(37)

وَالْآخِرِينَ مَقْرَرِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

aur dusre aur bediyo mein jakde hue (38)

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

ye humari ata hai ab tu chahe to ehsan kar ya rok rakh
tujh par kuchh hisab nahin (39)

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٠﴾

aur beshak uske liye humari bargah mein zaroor qurb
aur achha thikana hai (40)

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

aur yaad karo humare banda ayyub ko jab usne apne
rab ko pukara ke mujhe shaitan ne izaah aur takleef laga
di (41)

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۗ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

humne farmaya zameen par apna paaon maar ye hai
thanda chashma nahane aur peene ko (42)

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٣﴾

aur humne use uske ghar waale aur unke barabar aur
ata farma diye apni rahmat karne aur aqilmando ki

naseehat ko (43)

وَحُدِّ بِيَدِكَ ضِعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ ۖ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۖ نِعْمَ الْعَبْدُ ۗ ط

إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٣﴾

aur farmaya ke apne haath mein ek jhaadu le kar us se
maar de aur qasam na tod beshak humne use sabir
paaya kya achha banda beshak wo bahut ruju laane
wala hai (44)

وَادْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ ۖ وَاسْحُقْ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي ۖ وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾

aur yaad karo humare bando ibrahim aur is'haaq aur
yaqoob qudrat aur ilm waalo ko (45)

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾

beshak humne unhein ek khari baat se imtiyaz
bakhsha ke wo is ghar ki yaad hai (46)

وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

aur beshak wo humare nazdeek chune hue
pasandeeda hain (47)

وَادْكُرْ إِسْمَاعِيلَ ۖ وَالْيَسَعَ ۖ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلًّا مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

aur yaad karo ismayeel aur yasa aur zulkifl aur sab
achhe hain (48)

هَذَا ذِكْرٌ ۖ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّأَبٍ ﴿٤٩﴾

ye naseehat hai aur beshak parhezgaro ka thikana
bhala (49)

جَنَّتْ عَدْنٌ مُّفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥٠﴾

basne ke baagh unke liye sab darwaze khule hue (50)

مُتَّكِبِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾

un mein takiya lagaye un mein bahut se mewe aur sharab maangte hain (51)

وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ طَّرْفٍ أَثْرَابٍ ﴿٥٢﴾

aur unke paas wo bibiya hain ke apne shauhar ke siwa aur ki taraf aankh nahin uthati ek umr ki (52)

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾

ye hai wo jiska tumhein waada diya jaata hai hisab ke din (53)

إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ نَامَالُهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾

beshak ye humara rizq hai ke kabhi khatm na hoga (54)

هَذَا وَإِنَّ لِلطُّغْيَانِ لَشَرًّا مَآبٍ ﴿٥٥﴾

unko to ye hai aur beshak sarkasho ka bura thikana (55)

جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبئْسَ الْبِهَادُ ﴿٥٦﴾

jahannam ke us mein jayenge to kya hi bura bichhauna (56)

هَذَا ۚ فَلْيَذُوقُوهُ حَبِيمٌ ۚ وَعَسَاقُ ﴿٥٧﴾

un ko ye hai to use chakhein khaulta paani aur peep (57)

وَأَخْرُ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاحٌ ﴿٥٨﴾

aur usi shakl ke aur jode (58)

هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

unse kaha jayega ye ek aur fauj tumhare saath dhansi

padti hai jo tumhari thi wo kahenge unko khuli jagah na milo aag mein to unko jaana hi hai wahan bhi tang jagah mein rahein (59)

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَمَّا مَرَّحَبًا بِكُمْ ۖ أَنْتُمْ قَدْ مُتُّوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٥٩﴾

taabe bole balki tumhein khuli jagah na milo ye musibat tum humare aage laaye to kya hi bura thikana (60)

قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرِذَّةً عَدَا بَا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦٠﴾

wo bole aye humare rab jo ye musibat humare aage laaya use aag mein doona azaab badha (61)

وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦١﴾

aur bole humein kya hua hum un mardo ko nahin dekhte jinhein bura samajhte the (62)

أَتَّخَذْتُهُمْ سِحْرِيًّا أَمْ رَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٢﴾

kya humne unhein hansi bana liya ya aankhein unki taraf se phir gai (63)

إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٣﴾

beshak ye zaroor haq hai dozakhiyo ka baaham jhagda (64)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٦٤﴾

tum farmao main dar sunane waala hi hoon aur mabood koi nahin magar ek allah sab par ghalib (65)

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٦٥﴾

malik aasmano aur zameen ka aur jo kuchh unke darmiyan hai sahabe izzat bada bakhshne waala (66)

قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٌ ﴿٦٧﴾

tum farmao wo badi khabar hai (67)

أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾

tum usse ghaflat mein ho (68)

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾

mujhe aalame baala ki kya khabar thi jab wo jhagadte the (69)

إِنْ يُؤْمَى إِلَىٰ إِلَّا أَنْبَأْنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾

mujhe to yahi wahih hoti hai ke main nahin magar raushan dar sunane waala (70)

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿٧١﴾

jab tumhare rab ne firishto se farmaya ke main mitti se insan banaunga (71)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾

phir jab main use theek bana loon aur us mein apni taraf ki rooh phunku to tum uske liye sajde mein girna (72)

فَسَجَدَ الْمَلَكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

to sab firishto ne sajda kiya ek ek ne koi baaqi na raha (73)

إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾

magar iblees ne usne ghuroor kiya aur wo tha hi kafiro mein (74)

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ۖ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ

الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

farmaya aye iblees tujhe kis cheez ne roka ke tu uske liye sajda kare jise maine apne haatho se banaya kya tujhe ghuroor aa gaya ya tu tha hi maghrooro mein (75)

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ طَخَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾

bola main isse behtar hoon tune mujhe aag se banaya aur ise mitti se paida kiya (76)

قَالَ فَأَخْرَجُ مِنْهَا فَاثَاكَ رَجِيمًا ﴿٧٧﴾

farmaya ke tu jannat se nikal ja ke tu raandha gaya (77)

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

aur beshak tujh par meri lanat hai qiyamat tak (78)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾

bola aye mere rab aisa hai to mujhe mohlat de us din tak ke wo utha liye jaayein (79)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٨٠﴾

farmaya to tu mohlat waalo mein hai (80)

إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾

us jaane hue waqt ke din tak (81)

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾

bola to teri izzat ki qasam zaroor main in sab ko gumrah kar dunga (82)

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٣﴾

magar jo un mein tere chune hue bande hain (83)

قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقْوَلُ ۝

farmaya to sach ye hai aur main sach hi farmata hoon
(84)

لَا مُلْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْبَعِينَ ۝

beshak main zaroor jahannam bhar dunga tujhse aur
un mein se jitne teri pairwi karenge sab se (85)

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝

tum farmao is quran par tumse kuchh ajr nahin
maangta aur main banawat waalo mein nahin (86)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

wo to nahin magar nasehat saare jahaan ke liye (87)

وَلَتَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ۝

aur zaroor ek waqt ke baad tum uski khabar janoge
(88)

Surah Zumar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

kitab utarna hai allah izzat wa hikmat waale ki taraf se
(1)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ فَاَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝

beshak humne ye kitab tumhari taraf haq ke saath utaari to allah ko poojo nire uske bande ho kar (2)

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ۝

haan khalis allah hi ki bandagi hai aur wo jinhone iske siwa aur waali bana liye kehte hain hum to unhein sirf itni baat ke liye pujte hain ke ye humein allah ke paas nazdeek kar dein allah in mein faisla kar dega is baat ka jis mein ikhtelaf kar rahe hain beshak allah raah nahin deta use jo jhoota bada nashukra (3)

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

allah apne liye bachha banata to apni makhloq mein se jise chahta chun leta paaki hai use wahi hai ek allah sab par ghalib (4)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۗ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ يَجْرِي لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

usne aasman aur zameen haq banaye raat ko din par lapet'ta hai aur din ko raat par lapet'ta hai aur usne chand aur suraj ko kaam mein lagaya har ek thehrai miyaad ke liye chalta hai sunta hai wahi saahibe izzat bakhshne waala hai (5)

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ

ثُمَّ نَبِيَّةٌ أَرْوَّاجِ ۖ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۗ
ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآتَىٰ تَصْرَفُونَ ۝

usne tumhein ek jaan se banaya phir usi se uska joda paida kiya aur tumhare liye chaupayo se aath jode utare tumhein tumhari maa ke pet mein banata hai ek tarah ke baad aur tarah teen andheriyo mein ye hai allah tumhara rab usi ki badshahi hai uske siwa kisi ki bandagi nahin phir kahan phere jaate ho (6)

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۗ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

agar tum nashukri karo to beshak allah be niyaaz hai tum se aur apne bando ki nashukri use pasand nahin aur agar shukr karo to use tumhare liye pasand farmata hai aur koi bojh uthane waali jaan dusre ka bojh nahin uthayegi phir tumhein apne rab hi ki taraf phirna hai to wo tumhein bata dega jo tum karte the beshak wo dilo ki baat jaanta hai (7)

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝

aur jab aadmi ko koi takleef pahunchti hai apne rab ko pukarta hai usi taraf jhuka hua phir jab allah ne use apne paas se koi nemat di to bhool jaata hai jis liye

pehle pukara tha aur allah me liye barabar waale thehrane lagta hai taaki uski raah se behka de tum farmao thode din apne kufr ke saath barat le beshak tu dozakhiyo mein hai (8)

أَمَّنْ هُوَ قَانَتْ أَنَاءَ الْبَيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝

kya wo jise farmanbardari mein raat ki ghadiya guzri sujood mein aur qiyaam mein aakhirat se darta aur apne rab ki rahmat ki aas lagaye kya wo nafarmano jaisa ho jayega tum farmao kya barabar hain janne waale aur anjaan naseehat to wahi maante hain jo aql waale hain (9)

قُلْ يُعْبَادُ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

tum farmao aye mere bando jo imaan laaye apne rab se daro jinhone bhalai ki unke liye is dunya mein bhalai hai aur allah ki zameen wasee hai sabiro hi ko unka sawab bharpoor diya jayega be ginti (10)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۝

tum farmao mujhe hukm hai ke allah ko puju nira us ka banda ho kar (11)

وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝

aur mujhe hukm hai ke main sabse pehle gardan rakhu (12)

قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

tum farmao bilfarz agar mujhse nafarmani ho jaaye to mujhe bhi apne rab se ek bade din ke azaab ka dar hai

(13)

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٣﴾

tum farmao main allah hi ko poojta hoon nira uska banda ho kar (14)

فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ الْخُسْرَيْنَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ
أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾

to tum uske siwa jise chaho pujo tum farmao poori haar unhein jo apni jaan aur apne ghar waale qiyamat ke din haar baithe haan yahi khuli haar hai (15)

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۗ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۗ
لِيَعْبَادُوا فَاتَّقُونَ ﴿١٦﴾

unke upar aag ke pahaad hain aur unke niche pahaad usi se allah darata hai apne bando ko aye mere bando tum mujhse daro (16)

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ۗ فَبَشِّرْ
عِبَادِ ﴿١٧﴾

aur wo jo buto ki puja se bache aur allah ki taraf ruju hue unhi ke liye khushkhabri hai ti sunao mere bando ko (17)

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ
أُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

jo kaan laga kar baat sunein phir us ke behtar par chalein ye hain jin ko allah ne hidayat farmai aur ye hain jinko aql hai (18)

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ۖ

to kya wo jis par azaab ki baat saabit ho chuki najaat waalo ke barabar ho jayega to kya tum hidayat de kar aag ke mustahiq ko bacha loge (19)

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيثَاقَ ۖ

lekin jo apne rab se dare unke liye baala khane hain un par baala khane bane unke niche nehrein bahein allah ka waada allah waada khilaf nahin karta (20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَبْصَارِ ۖ

kya tune na dekha ke allah ne aasman se paani utara phir us se zameen mein chashme banaye phir usse kheti nikaalta hai kai rangat ki phir sookh jaati hai to tu dekhe ke wo peeli pad gai phir use reza reza kar deta hai beshak us mein dhyaan ki baat hai aql mando ko (21)

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ ۗ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ

to kya wo jiska seena allah ne islam ke liye khol diya to

wo apne rab ki taraf se noor par hai us jaisa ho jayega jo sang dil hai to kharabi hai unki jinke dil yaade khuda ki taraf se sakht ho gaye hain wo khuli gumrahi mein hain (22)

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ ﴿٢٢﴾

allah ne utaaru sab se achhi kitab ke awwal se aakhir tak ek si hai dohre bayaan waali isse baal khade hote hain unke badan par jo apne rab se darte hain phir unki khaalein aur dil narm padte hain yaade khuda ki taraf raghbat mein ye allah ki hidayat hai raah dikhaye use jise chahe aur jise allah gumrah kare use koi raah dikhane waala nahin (23)

أَفَمَنْ يَتَّبِعْ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٣﴾

to kya wo jo qiyamat ke din bure azaab ki dhaal na payega apne chehre ke siwa najaat waale ki tarah ho jayega aur zalimo se farmaya jayega apna kamaya chakho (24)

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٤﴾

un se aglo ne jhutlaya to unhein azaab aaya jahan se unhein khabar na thi (25)

فَأَذَاتَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ ۖ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

aur allah ne unhein dunya ki zindagi mein ruswai ka maza chakhaya aur beshak aakhirat ka azaab sabse bada kya achha tha agar wo jaante (26)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

aur beshak humne logon ke liye is quran mein har qism ki kahawat bayaan farmai ke kisi tarah unhein dhyaan ho (27)

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٩﴾

allah ek misaal bayaan farmaya hai ek ghulam mein kai badkhu aaqa shareek aur ek nire ek maula ka kya un dono ka haal ek sa hai sab khoobiya'n allah ko balki unke aksar nahin jaante (29)

هَلْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴿٣٠﴾

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۖ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ﴿٣٢﴾

allah ek misaal bayaan farmaya hai ek ghulam mein kai badkhu aaqa shareek aur ek nire ek maula ka kya un dono ka haal ek sa hai sab khoobiya'n allah ko balki unke aksar nahin jaante (29)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

beshak tumhein inteqal farmana hai aur unko bhi marna hai (30)

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾

phir tum qiyamat ke din apne rab ke paas jhagdoge (31)

Chaubiswa Paarah

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ
مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

to isse badh kar zalim kaun jo allah par jhooth
baandhe aur haqq ko jhuthlaye jab uske paas aaye, kya
jahannam me kafiron ka thikana nahi (32)

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

aur wo jo ye sach le kar tashreef laye aur wo jinhone
unki tasdeeq ki yahi darr wale hain (33)

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ ذَٰلِكَ جَزَاؤُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾

unke liye hai jo wo chahe apne rabb ke paas nekon ka
yahi sila hai (34)

لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾

taki allah unse utaar de bure se bura kaam jo unhone
kiya aur unhen unke sawab ka sila de acche se acche
kaam par jo wo karte the (35)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾

kya allah apne bande ko kafi nahi aur tumhen darate
hain uske siwa auro se aur jise allah gumrah kare uski
koi hidayat karne wala nahi (36)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

aur jise allah hidayat de use koi behkane wala nahi kya allah izzat wala badla lena wala nahi?(37)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۗ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

aur agar gun unse poochho aasman aur zameen kis ne banaye to zaroor kahenge allah ne tum farmao bhala batao to wo jinhen tum allah ke siwa poojte ho agar allah mujhe koi takleef pahuchana chahe to kya wo uski bheji takleef taal denge ya wo mujh par mehar farmana chahe to kya wo uski mehar ko rok rakhenge tum farmao allah mujhe bas hai bharse wale us par bharsa karen (38)

قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

tum farmao ay meri qaum apni jagah kaam kiye jao mai apna kaam karta hun to aage jaan jaoge (39)

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾

kis par aata hai wo azaab ke use ruswa karega aur kis par utarta hai azaab ki reh padega (40)

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۗ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ

فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِهَا ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾

beshak humne tum par ye kitab logon ki hidayat ko haqq ke sath utari to jisne raah payi to apne bhale ko

aur jo behka wo apne hi bure ko behka aur tum kuchh unke zimmedar nahi (41)

اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ
عَلَيْهَا الْبَوَاتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

allah jaano ko wafaat deta hai unki maut ke waqt aur jo na mare unhen unke sote me fir jis par maut ka hukm farma diya use rok rakhta hai aur dusri ek meeaad muqarrar tak chhod deta hai beshak isme zaroor nishaniya hai sochne walon ke liye (42)

أَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۗ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿٤٢﴾

kya unhone allah ke muqabil kuchh safarishi bana rakhe hain tum farmao kya agarche wo kisi cheez ke malik na hon aur na aql rakhen (43)

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٣﴾

tum farmao shafa'at to sab allah ke hath me hai usi ke liye hai aasmano aur zameen ki baadshahi fir tumhen usi ki taraf palatna hai (44)

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْبَهَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٤﴾

aur jab ek allah ka zikr kiya jata hai dil simat jate hain unke jo aakherat par iman nahi late aur jab uske siwa auron ka zikr hota hai jabhi wo khushiyan manate hain

(45)

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٥﴾

tum arz karo ay allah aasmano aur zameen ke paida karne wale nihaan aur ayaan ke jaanne wale tu apne bando me faisla farmayega jis mein wo ikhtilaf rakhte the (46)

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَبَدَأَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٦﴾

aur agar zalimo ke liye hota jo kuchh zameen mein hai sab aur usje saath us jaisa to ye sab chhudai mein dete roze qiyamat ke bade azaab se aur unhein allah ki taraf se wo baat zaahir hui jo unke khayal mein na thi (47)

وَ بَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا كَسَبُوا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٧﴾

aur un par apni kamai hui buraiya khul gai aur un par aa pada wo jiski hanshi banate the (48)

فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
عِلْمٍ ۗ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٨﴾

phir jab aadmi ko koi takleef pahunchti hai to humein bulata hai phir jab use hum apne paas se koi nemat ata farmayein kehta hai ye to mujhe ek ilm ki badaulat mili hai balki wo to aazmaish hai magar un mein bahuto ko ilm nahin (49)

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٤٩﴾

unse agle bhi aise hi keh chuke to unka kamaya unke kuchh kaam na aaya (50)

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۗ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا ۗ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٠﴾

to un par pad gai unki kamaiyo ki buraiya aur wo jo un mein zalim hain anqareeb un par padengi unki kamaiyo ki buraiya aur wo qaabu se nahin nikal sakte (51)

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

kya unhein maloom nahin ke allah rozi kushada karta hai jiske liye chahe aur tang farmata hai beshak is mein zaroor nishaniya hain imaan waalo ke liye (52)

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۗ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٢﴾

tum farmao aye mere wo bando jinhone apni jaano par zyadati ki allah ki rahmat se na ummeed na ho beshak allah sab gunah bakhsh deta hai wahi bakhshne waala meharbaan hai (53)

وَإِنِّيَبُوءَ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿٥٣﴾

aur apne rab ki taraf ruju laao aur uske huzoor gardan rakho qabal iske ke tum par azaab aaye phir tumhari madad na ho (54)

وَآتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بِغَتَّةٍ ۗ

أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

aur uski pairwi karo jo achhi se achhi tumhare rab se tumhari taraf utaari gai qabal iske ke azaab tum par achanak aa jaaye aur tumhein khabar na ho (55)

أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَحْسِرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ

السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

ke kahin koi jaan ye na kahe ke haaye afsos uj taqseero par jo maine allah ke baare mein ki aur beshak hansa banaya karta tha (56)

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

ya kahe agar allah mujhe raah dikhata to main dar waalo mein hota (57)

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

ya kahe jab azaab dekhe kisi tarah mujhe wapasi mile ke main nekiya karu (58)

بَلَى قَدْ جَاءَ ثَلَاثُ الْبَيِّنَاتِ الْبَيِّنَاتِ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾

haan kyun nahin beshak tere paas meri aayatein aai to tune unhein jhutlaya aur takabbur kiya aur tu kafir tha (59)

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ۗ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

مَنْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾

aur qiyamat ke din tum dekhoge unhein jinhone allah par jhoot bandha ke unke moonh kaale hain kya maghroor ka thikana jahannam mein nahin (60)

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

aur allah bachayega parhezgaro ko unki najaat ki jagah na unhein azaab chhuye aur na unhein gham ho (61)

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾

allah har cheez ka paida karne waala hai (62)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْخٰسِرُونَ ﴿٦٣﴾

usi ke liye hain aasmano aur zameen ki kunjiya aur jinhone allah ki aayato ka inkar kiya wahi nuqsan mein hain (63)

قُلْ أَفَعَيِّرُ اللَّهَ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾

tum farmao to kya allah ke siwa dusre ko pujne ko mujhse kehte ho aye jahilo (64)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ

لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾

aur beshak wahih ki gai tumhari taraf aur tum se aglo ki taraf aye sunne waale agar tune allah ka shareek kiya to zaroor tera sab kiya dhara akarat jayega aur zaroor tu haar mein rahega (65)

بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾

balki allah hi ki bandagi kar aur shukr waalo se ho (66)

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوٰتُ

مَطْوِيٰتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

aur unhone allah ki qadr na ki jaisa ke uska haq tha aur wo qiyamat ke din sab zameeno ko samet dega aur uski qudrat se sab aasman lapet diye jayenge aur unke shirk se paak aur bartar hai (67)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ
نُفِخَ فِيْهِ اٰخِرٰى فَاِذَا هُمْ قِيٰمًا يَنْظُرُوْنَ ﴿٦٧﴾

aur soor phoonka jayega to be hosh ho jayenge jitne aasman mein hain aur jitne zameen mein magar jise allah chahe phir wo dobara phunka jayega jabhi wo dekhte hue khade ho jayenge (68)

وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتٰبِ وَجِئَتْ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهَدٰءِ وَ
قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

aur zameen jagmaga uthegi apne rab ke noor se aur rakhi jayegi kitab aur laaye jayenge ambiya aur ye nabi aur uski ummat ke un par gawah honge aur logon mein sachha faisla farma diya jayega aur un par zulm na hoga (69)

وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٦٩﴾

aur har jaan ko uska kiya bharpoor diya jayega aur use khoob maloom hai jo wo karte the (70)

وَسَيِّقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتّٰىٰ اِذَا جَاؤُوهَا فَتَحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ
لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوْنَكُمْ
لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۗ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾

aur kafir jahannam ki taraf haanke jayenge giroh giroh

yahan tak ke jab wahan pahunchenge uske darwaze khole jayenge aur uske darogha unse kahenge kya tumhare paas tumhi mein se wo rasool na aaya the jo tum par tunhare rab ki aayatein padhte the aur tumhein is din ke milne se darate the kahenge kyun nahin magar azaab ka qaul kafiro par theek utra (71)

قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ۝

farmaya jayega dakhil ho jahannam ke darwazo mein is mein humesha rehne to kya hi bura thikana mutakabbiro ka (72)

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا ۖ

قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ۝

aur jo apne rab se darte the unki sawariya giroh giroh jannat ki taraf chalai jayengi yahan tak ke jab wahan pahunchenge aur uske darwaze khule honge aur uske darogha unse kahenge salam tum par tum khoob rahe to jannat mein jaao humesha rehne (73)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ ۖ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ

نَشَاءُ ۚ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

aur wo kahenge sab khoobiya'n allah ko jisne apna waada humse sachha kiya aur humein is zameen ka waris kiya ke hum jannat mein rahein jahan chahein to kya hi achha sawaab kaamiyo ka (74)

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ

بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

aur tum firishto ko dekhoge arsh ke aas paas halqa kiye apne rab ki tareef ke saath uski paaki bolte aur logon mein sachha faisla farma diya jayega aur kaha jayega ke sab khoobiya'n allah ko jo saare jahaan ka rab (75)

Surah Momin (Al Ghafir)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

حَمْدًا

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾

ye kitab utaarna hai allah ki taraf se jo izzat waala ilm waala (2)

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ طَائِبِهِ

الْبَصِيرِ ﴿٣﴾

gunah bakhshne waala aur tauba qabool karne waala sakht azaab karne waala bade inaan waala uske siwa koi mabood nahin usi ki taraf phirna hai (3)

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٤﴾

allah ki aayato mein jhagda nahin karte magar kafir to aye sunne waale tujhe dhoka na de unka shehro mein ahle gahle phirna (4)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۗ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ

عَقَابٌ ۝

inse pehle nooh ki qaum aur unke baad ke giroho ne jhutlaya aur har ummat ne ye qasad kiya ke apne rasool ko pakad lein aur batil ke saath jhagde ke usse haq ko taal dein to maine unhein pakda phir kaisa hua mera azaab (5)

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

aur yunhi tumhare rab ki baat kafiro par sabit ho chuki hai ke wo dozakhi hain (6)

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ۗ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ

تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

wo jo arsh uthate hain aur jo uske gird hain apne rab ki tareef ke saath uski paaki bolte aur us par imaan laate aur musalmano ki maghfirat mangte hain aye rab humare tere rahmat wa ilm mein har cheez ki samaao hai tu unhein bakhsh de jinhone tauba ki aur teri raah par chale aur unhein dozakh ke azaab se bacha le (7)

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

aye humare rab aur unhein basne ke baagho mein dakhil kar jinka tune unse waada farmaya hai aur unko

jo nek ho unke baap dada aur bibiyo aur awlaad mein
beshak tu hi izzat hikmat waala hai (8)

وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ۖ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۗ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ⑩

aur unhein gunaho ki shamat se bacha le jise tu us din
gunaho ki shamat se bachaye to beshak tu ne us par
reham farmaya aur yahi badi kamyabi hai (9)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑪

beshak jinhone kufr kiya unko nida ki jayegi ke zaroor
tum se allah ki bezari isse bahut zyada hai jaise tum aaj
apni jaan se bezaar ho jabki tum imaan ki taraf bulaye
jaate to tum kufr karte (10)

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا إِئْتِنَا إِئْتِنَا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ
مِّنْ سَبِيلٍ ⑫

kahenge aye humare rab tune humein dobara murda
kiya aur dobara zinda kiya ab hum apne gunaho par
muqir hue to aag se nikalne ki bhi koi raah hai (11)

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ۚ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا ۗ فَالْحُكْمُ لِلَّهِ
الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ⑬

ye is par hua ke jab ek allah pukara jaata to tum kufr
karte aur uska shareek thehraya jaata to tum maan
lete to hukm allah ke liye hai jo sabse buland bada (12)

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ آيَاتِهِ وَيُنزِلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ۗ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ

يُنَبِّئُ ﴿١٣﴾

wahi hai ke tumhein apni nishaniya dikhata hai aur tumhare liye aasman se rozi utaarta hai aur naseehat nahin maanta magar jo ruju laaye (13)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

to allah ki bandagi karo nire uske bande ho kar pade bura maanein kafir (14)

رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

buland darje dene waala arsh ka malik imaan ki jaan wahih daalta hai apne hukm se apne baneo mein jis par chahe ke wo milne ke din se daraye (15)

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِّلْمَلِكِ الْيَوْمَ ۙ اللَّهُ

الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

jis din wo bilkul zaahir ho jayenge allah par unka kuchh haal chhupa na hoga aaj kis ki badshahi hai ek allah sab par ghalib ki (16)

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

aaj har jaan apne kiye ka badla payegi aaj kisi par zyadati nahin beshak allah jald hisab lene waala hai (17)

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأُزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كُظِيمٍ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

حَبِيمٍ ۚ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

aur unhein darao us nazdeek aane waali aafat ke din

se jab dil galo ke paas aa jayenge gham mein bhare aur zalimo ka na koi dost na koi sifarashi jiska kaha maana jaaye (18)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٨﴾

allah jaanta hai jo chori chhupe ki nigah aur jo kuchh seeno mein chhupaye (19)

وَاللَّهُ يَفْضِي بِالْحَقِّ ۖ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾

aur allah sachha faisla farmata hai aur uske siwa jinko pujte hain wo kuchh faisla nahin karte beshak allah hi sunta dekhta hai (20)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٢١﴾

to kya unhone zameen mein safar na kiya ke dekhte kaisa anjaam hua unse aglo ka unki quwwat aur zameen mein jo nishaniya chhod gaye unse zaaid to allah ne unhein unke gunaho par pakda aur allah se unka koi bachane waala na hua (21)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا ۖ فَآخَذَهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

ye isliye ke unke paas unke rasool raushan nishaniya le kar aaye phir wo kufr karte to allah ne unhein pakda beshak allah zabardast azaab waala hai (22)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾

aur beshak humne moosa ko apni nishaniyo aur raushan sanad ke saath bheja (23)

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿٢٤﴾

firaun aur hamaan aur qaroon ki taraf to wo boke jadugar hai bada jhoota (24)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ

اسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ۗ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿٢٥﴾

phir jab wo un par humare paas se haq laaya bole jo is par imaan laaye unke bete qatl karo aur auratein zinda rakho aur kafiro ka daao nahin magar bhataкта phirta (25)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ

أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

aur firaun bola mujhe chhodo main moosa ko qatl karoon aur wo apne rab ko pukare main darta hoon kahin wo tumhara deen badal de ya zameen mein fasaad chamkaye (26)

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

aur moosa ne kaha main tumhare aur apne rab ki panah leta hoon har mutakabbir se ke hisab ke din par yaqeen nahin laata (27)

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي

اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَإِنَّكَ كَادِبٌ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِنَّ يَكُ

صَادِقًا يُصِبُّكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

aur bola firauun waalo mein se ek mard musalman ke apne imaan ko chhupata tha kya ek mard ko is par maare daalte ho ke wo kehta hai mera rab allah hai aur beshak wo raushan nishaniya tumhare paas tumhare rab ki taraf se laaye aur agar bilfarz wo ghalat kehte hain to unki ghalat goi ka wabaal un par aur agar wo sachhe hain to tumhein pahunch jayega kuchh wo jis ka tumhein waada dete hain beshak allah raah nahin deta use jo hadd se badhne waala bada jhoota ho (28)

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَهَرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ

جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا آرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

aye meri qaum aaj badshahi tumhari hai is zameen mein ghalaba rakhte ho to allah ke azaab se humein kaun bachayega agar hum par aaye firauun bola main to tumhein wahi sujhata hoon jo meri soojh hai aur main tumhein wahi batata hoon jo bhalai ki raah hai (29)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾

aur wo imaan waala bola aye meri qaum mujhe tum par agle giroho ke din ka sa khauf hai (30)

مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا

لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

jaisa dastoor guzra nooh ki qaum aur aad aur samood aur unke baad auro ka aur allah bando par zulm nahin

chahta (31)

وَيَقُومِرَ اِنِّيْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ یَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣١﴾

aur aye meri qaum main tum par us din se darta hoon
jis din pukaar machegi (32)

یَوْمَ تُولُوْنَ مُدْبِرِیْنَ مَّا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ؕ وَ مَنْ یُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ

هَادٍ ﴿٣٢﴾

jis din peeth de kar bhagoge allah se tumhein koi
bachane waala nahin aur jise allah gumrah kare uska
koi raah dikhane waala nahin (33)

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلِ بِلْبِیْنَتٍ فَمَا زِلْتُمْ فِیْ شَاكٍ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ طَحْتٰ
اِذَا هَلَكْتَ قُلْتُمْ لَنْ یَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِہٖ رَسُوْلًا ط كَذٰلِكَ یُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ

مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٣﴾

aur beshak isse pehle tumhare paas yusuf raushan
nishaniya le kar aaye to tum unke laaye hue se shak hi
mein rahe yahan tak ke jab unhone inteqal farmaya
tum bole hargiz ab allah koi rasool na bhejega allah
yun hi gumrah karta hai use ho hadd se badhne waala
shak laane waala ho (34)

الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْ اٰیٰتِ اللّٰهِ بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اٰتٰہُمْ ط کَبْرٌ مَّقْتَدًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ
الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ط كَذٰلِكَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٤﴾

wo jo allah ki aayato mein jhagda karte hain be kisi
sanad ke ke unhein mili ho kis qadr sakht bezari ki baat
hai allah ke nazdeek allah yun hi muhar kar deta hai
mutakabbir sarkash ke saare dil par (35)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمُنُ ابْنُ بِنْتِ صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝

aur firauun bola aye hamaan mere liye ooncha mehal bana shayad main pahunch jaauun raasto tak (36)

أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ۖ وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ

سُوءٌ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ۝

kaahe ke raaste aasmano ke to moosa ke khuda ko jhaank kar dekhoon aur beshak mere gumaan mein to wo jhoota hai aur yun hi firauun ki nigah mein uska bura kaam bhala kar dikhaya gaya aur wo raste se roka gaya aur firauun ka daao halaak hone hi ko tha (37)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۝

aur wo imaan waala bola aye meri qaum mere piche chalo main tumhein bhalai ki raah bataaun (38)

يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

aye meri qaum ye dunya ka jeena to kuchh baratna hi hai aur beshak wo picchla humesha rehne ka ghar hai (39)

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

jo bura kaam kare to use badla na milega magar itna hi aur jo achha kaam kare mard khwah aurat aur ho musalman to wo jannat mein dakhil kiye jayenge wahan be ginti rixq payenge (40)

وَيَقَوْمٍ مَا لِيَ أَدْعُوكُمُ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۝

aur aye meri qaum mujhe kya hua main tumhein bulata hoon najaat ki taraf aur tum mujhe bulaate ho dozakh ki taraf (41)

تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ
الْغَفَّارِ ﴿٤١﴾

mujhe us taraf bulate ho ke allah ka inkaar karoon aur aise ko uska shareek karoon jo mere ilm mein nahin aur main tumhein us izzat waale aur bahut bakhshne waale ki taraf bulata hoon (42)

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدْنَا
إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٢﴾

aap hi saabit hua ke jiski taraf mujhe bulate ho use bulana kahin kaam ka nahin dunya mein na aakhirat mein aur ye humara phirna allah ki taraf hai aur ye ke hadd se guzarne waale hi dozakhi hain (43)

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۗ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٣﴾

to jald wo waqt aata hai ke jo main tumse keh raha hoon use yaad karoge aur main apne kaam allah ko saunpta hoon beshak allah bando ko dekhta hai (44)

فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٤﴾

to allah ne use bacha liya unke makr ki buraiyo se aur firaun waalo ko bure azaab ne aa ghera (45)

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ۖ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ
أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

aag jis par subah wa shaam pesh kiye jaate hain aur jis din qiyamat qaaim hogi hukm hoga firauun waalo ko sakht tar azaab mein dakhil karo (46)

وَإِذِيتَحَا جُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُو لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا
فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ ﴿٤٦﴾

aur jab wo aag mein baaham jhagdenge to kamzor unse kahenge jo bade bante the hum tumhare taabe the to kya tum humse aag ka koi hissa ghata loge (47)

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴿٤٧﴾

wo takabbur waale bole hum sab aag mein hain beshak allah bando mein faisla farma chuka (48)

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ

الْعَذَابِ ﴿٤٨﴾

aur jo aag mein hain uske daarogho se bole apne rab se dua karo hum par azaab ka ek din halka kar de (49)

قَالُوا أَوْ لَمْ تُك تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فادْعُوا ۚ وَمَا دَعُوا

الْكُفْرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٤٩﴾

unhone kaha kya tumhare paas tumhare rasool nishaniya na laate the bole kyun nahin bole to tumhi dua karo aur kafiro ki dua nahin magar bhatakte phirne ko (50)

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥٠﴾

beshak zaroor hum apne rasoolo ki madad karenge aur imaan waalo ki dunya ki zindagi mein aur jis din

gawah khade honge (51)

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥١﴾

jis din zalimo ko unke bahane kuchh kaam na denge aur unke liye lanat hai aur unke liye bura ghar (52)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْثَقْنَا بِئِهِ إِسْرَآءِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾

aur beshak humne moosa ko rahnumai ata farmai aur bani israyeel ko kitab ka waris kiya (53)

هُدَىٰ وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

aqlmendo ki hidayat aur naseehat ko (54)

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

الْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

to aye mahboob tum sabr karo beshak allah ka waada sachha hai aur apno ke gunaho ki muaafi chaho aur apne rab ki tareef karte hue subah aur shaam uski paaki bolo (55)

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَّهُمْ ۗ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ

مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ ۗ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

wo jo allah ki aayato mein jhagda karte hain be kisi sanad ke jo unhein mili ho unke dilo mein nahin magar ek badaai ki hawas jise na pahunchenge to tum allah ki panah maango beshak wahi sunta dekhta hai (56)

لَخَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾

beshak aasmano aur zameen ki paidaish aadmiyo ki

paidaish se bahut badi lekin bahut log nahin jaante
(57)

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْلَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا
الْمُبْسِيءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

aur andha aur ankiyara barabar nahin aur na wo jo
imaan laaye aur achhe kaam kiye aur badkaar kitna
kam dhyaan karte ho (58)

إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾

beshak qiyamat zaroor aane waali hai is mein kuchh
shak nahin lekin bahut log imaan nahin laate (59)

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ ﴿٦٠﴾

aur tumhare rab ne farmaya mujhse dua karo main
qabool karunga beshak wo jo meri ibadat se unche
khinchte hain anqareeb jahannam mein jayenge zaleel
ho kar (60)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾

allah hai jisne tumhare liye raat banai ke us mein
aaram paao aur din banaya aankhein kholta beshak
allah logon par fazl waala hai lekin bahut aadmi shukr
nahin karte (61)

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ مَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَآتَىٰ تَوْفِكُونَ ﴿٦٢﴾

wo hai allah tumhara rab har cheez ka banane waala

uske siwa kisi ki bandagi nahin to kahan aundhe jaate
ho (62)

كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٢﴾

yunhi aundhe hote hain wo jo allah ki aayato ka inkaar
karte hain (63)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ

وَرَزَقَكُمُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَرِكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

allah hai jisne tumhare liye zameen thehrao banai aur
aasman chhat aur tumhari tasweer ki to tumhari
sooratein achhi banai aur tumhein suthri cheezein rozi
di ye hai allah tumhara rab to badi barkat waala hai
allah rab saare jahaan ka (64)

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

wahi zinda hai uske siwa kisi ki bandagi nahin to usw
pujo nire usi ke bande ho kar sab khoobiya allah ko jo
saare jahaan ka rab (65)

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

tum farmao main mana kiya gaya hoon ke unhein puju
jinhein tum allah ke siwa pujte ho jabki mere paas
raushan daleelein mere rab ki taraf se aai aur mujhe
hukm hua hai ke rabbul aalameen ke huzoor gardan
rakhu (66)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ

لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا ۖ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا
أَجَلًا مُّسَمًّى ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

wahi hai jisne tumhein mitti se banaya phir paani ki boond se phir khoon ki phatak se phir tumhein nikaalta hai bachha phir tumhein baaqi rakhta hai ke apni jawani ko pahuncho phir isliye ke boodhe ho aur tum mein koi pehle hi utha liya jaata hai aur isliye ke tum ek muqarrar waada tak pahuncho aur isliye ke samjho (67)

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

wahi hai ke jilaata hai aur maarta hai phir jab koi hukm farmata hai to usse yahi kehta hai ke ho ja jabhi wo ho jaata hai (68)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ ۖ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

kya tum ne unhein na dekha jo allah ki aayato mein jhagadte hain kahan phere jaate hain (69)

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

wo jinhone jhutlai kitab aur jo humne apne rasoolo ke saath bheja wo anqareeb jaan jayenge (70)

إِذَا غُلَّتْ فِي آغْنَانِهِمْ ۖ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾

jab unki gardano mein tauq honge aur zanjeerein ghaseete jayenge (71)

فِي الْحَيِيمِ ۚ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾

khaulte paani mein phir aag mein dehkaye jayenge (72)

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝

phir unse farmaya jayega kahan gaye wo jo tum
shareek batate the (73)

مَنْ دُونَ اللَّهِ ۚ قَالُوا صَلُّوا عَلَيْنَا بَل لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ
اللَّهُ الْكٰفِرِينَ ۝

allah ke muqabil kahenge wo to humse gum gaye balki
hum pehle kuchh pujte hi na the allah yun hi gumrah
karta hai kafiro ko (74)

ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُوْنَ ۝

ye uska badla hai jo tum zameen mein batil par khush
hote the aur uska badla hai jo tum itraate the (75)

اُدْخُلُواْ اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

jaao jahannam ke darwazo mein us mein humesha
rehne to kya hi bura thikana maghrooro ka (76)

فَاَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاَلَيْنَا
يُرْجَعُوْنَ ۝

to tum sabr karo beshak allah ka waada sachha hai to
agar hum tumhein dikha dein kuchh wo cheez jiska
unhein waada diya jaata hai ya tumhein pehle hi wafat
dein behar haal unhein humari hi taraf phirna (77)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ
عَلَيْكَ ۚ وَمَا كَانَ لِرُسُوْلٍ اَنْ يَّاتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ۝

aur beshak humne tumse pehle kitne hi rasool bheje ke jin mein kisi ka ahwaal tumse bayaan farmaya aur kisi ka ahwaal na bayaan farmaya aur kisi rasool ko nahin pahunchta ke koi nishani le aaye be hukm khuda ke phir jab allah ka hukm aayega sachha faisla farma diya jayega aur batil waalo ka wahan khasara (78)

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٨﴾

allah hai jisne tumhare liye chaupaye banaye ke kisi par sawar ho kisi ka gosht khao (79)

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٧٩﴾

aur tumhare liye un mein kitne hi fayede hain aur isliye ke tum unki peeth par apne dil ki murado ko pahuncho aur un par aur kashtiyon par sawar hote hain (80)

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَآيَىٰ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨٠﴾

aur wo tumhein apni nishaniya dikhata hai to allah ki kaunsi nishani ka inkar karoge (81)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَعْنَىٰ عَنْهُمْ ۖ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨١﴾

to kya unhone zameen mein safar na kiya ke dekhte unse aglo ka kaisa anjaam hua wo unse bahut the aur unki quwwat aur zameen mein nishaniya unse zyada to unke kya kaam aaya jo unhone kamaya (82)

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا

كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾

to jab unke paas unke rasool raushan daleelein laaye
to wo usi par khush rahe jo unke paas dunya ka ilm tha
aur unhi par ulat pada jiski hansi banate the (83)

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَاهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾

phir jab unhone humara azaab dekha bole hum ek
allah par imaan laaye aur jo uske shareek karte the
unse munkir hue (84)

فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا طَسُنَّتْ لِلَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ؕ وَ

حَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُونَ ﴿٨٥﴾

to unke imaan ne unhein kaam na diya unhone
humara azaab dekh liya allah ka dastoor jo uske bando
mein guzar chuka aur wahan kafir ghaate mein rahe
(85)

Surah Haa Meem Sajda (Fussilat)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat

حَمْدٌ

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿٢﴾

ye utara hai bade reham waale meharban ka (2)

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُهُ قُرْءٰنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾

ek kitab hai jiski aayatein mufassal farmai gai arabi
quran aql waalo ke liye (3)

بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝

khushkhabri deta aur dar sunata to un mein aksar ne
moonh phera to wo sunte hi nahin (4)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ

حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا لِنَّا عَمَلُونَ ۝

aur bole humare dil ghilaf mein hain us baat se jiski
taraf tum humein bulate ho aur humare kaano mein
tent hai aur humare aur tumhare darmiyan rok hai to
tum apn kaam karo hum apna kaam karte hain (5)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَ

اسْتَغْفِرُوا ۖ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝

tum farmao aadmi hone mein to main tumhi jaisa
hoon mujhe wahih hoti hai ke tumhara mabood ek hi
mabood hai to uske huzoor seedhe raho aur usse
muaafi mango aur kharabi hai shirk waalo ko (6)

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

wo zakaat nahin dete aur aakhirat ke munkir hain (7)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

beshak jo imaan laaye aur achhe kaam kiye unke liye
be inteha sawaab hai (8)

قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ۖ

ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

tum farmao kya tum log iska inkar rakhte ho jisne do
din mein zameen banai aur uske hamsar thehrate ho

wo hai saare jahaan ka rab (9)

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاطَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ط

سَوَاءً لِّلسَّالِئِلِينَ ۝

aur is mein iske upar se langar daale aur is mein barkat rakhi aur is mein iske basne waalo ki roziya muqarrar ki ye sab mila kar chaar din hain theek jawab puchhne waalo ko (10)

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ط

فَأَلْتَمَأْتَيْنَا طَائِعِينَ ۝

phir aasman ki taraf qasd farmaya aur wo dhuwan tha to us se aur zameen se farmaya ke dono haazir ho khushi se chahe nakhushi se dono ne arz ki ke hum raghbat ke saath haazir hue (11)

فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ط وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ

الدُّنْيَا بِصَابِغٍ ط وَحِفْظًا ط ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

to unhone poore saath aasman kar diya do din mein aur har aasman mein usi ke kaam ke ahkam bheje aur humne neech ke aasman ko chiragho se aarasta kiya aur nighbani ke liye ye us izzat waale ilm waale ka thehraya hua hai (12)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۝

phir agar wo moonh pherein to tum farmao ke main tumhein darata hoon ek kadak se jaisi kadak aad aur samood par aai thi (13)

إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا
لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾

jab rasool unke aage pichhe phirte the ke allah me siwa kisi ko na poojo bole humara rab chahta to firishte utaarta to jo kuchh tum le kar bheje gaye hum use nahin maante (14)

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾

to wo jo aad the unhone zameen mein nahaq takabbur kiya aur bole humse zyada kiska zor aur kya unhone na jaana ke allah jisne unhein banaya unse zyada qawi hai aur humari aayato ka inkaar karte the (15)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنُنذِرَ قَوْمَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

to humne un par ek aandhi bheji sakht garj ki unki shamat ke dino mein ke hum unhein ruswai ka azaab chakhayein dunya ki zindagi mein aur beshak aakhirat ke azaab mein sabse badi ruswai hai aur unki madad na hogi (16)

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعُلَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَآخَذْتَهُمْ صِيعَةً مِنَ الْعَذَابِ
الهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

aur rahe samood unhein humne raah dikhai to unhone soojhne par andhe hone ko pasand kiya to unhein zillat ke azaab ki kadak ne aa liya saza unke kiye ki (17)

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

aur humne unhein bacha liya jo imaan laaye aur darte the (18)

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

aur jis din allah ke dushman aag ki taraf haanke jayenge to unke aglo ko rokenge (19)

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

yahan tak ke pichhle aa milein, yahan tak ke jab wahan pahunchenge unke kaan aur unki aankhein aur un ke chamde sab un par unke kiye ki gawahi denge (20)

وَقَالُوا لَإِجْلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۚ قَالَ لَا نَنْطِقُ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَ

هُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَاللَّيْلَةُ تَزْجَعُونَ ﴿٢١﴾

aur wo apni khaalo se kahenge tum ne hum par kyun gawahi di wo kahengi humein allah ne bulwaya jisne har cheez ko goyai bakhshi aur usne tumhein pehli baar banaya aur usi ki taraf tumhein phirna hai (21)

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ۚ وَ

لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

aur tum usse kahan chhup kar jaate ke tum par gawahi dein tumhare kaan aur tumhari aankhein aur tumhari khaalein lekin tum to ye samjhe baithe ke allah tumhare bahut se kaam nahin jaanta (22)

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

aur ye hai tumhara wo gumaan jo tumne apne rab ke saath kiya aur usne tumhein halaak kar diya to ab reh gaye haare huo mein (23)

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۗ وَإِنْ يَسْتَعْتَبُوا فَبَأْسُهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٣﴾

phir agar wo sabr karein to aag unka thikana hai aur agar wo manana chahein to koi unka manana na maane (24)

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ

الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا

خُسْرَيْنِ ﴿٢٤﴾

aur humne un par kuchh saathi tayyunaat kiye unhone unhein bhala kar dikhaya jo unke aage hai aur jo unke pichhe aur un par baat poori hui un giroho ke saath jo unse pehle guzar chuke jinn aur aadmiyo ke beshak wo ziyaankaar the (25)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٥﴾

aur kafir bole ye quran na suno aur us mein behuda ghul karo shayad yunhi tum ghalib aao (26)

فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾

to beshak zaroor hum kafiro ko sakht azaab chakhayenge aur beshak hum unke bure se bure kaam ka unhein badla denge (27)

ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ ۗ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ ۗ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

يَجْحَدُونَ ﴿٢٨﴾

ye hai allah ke dushmano ka badla aag us mein unhein humesha rehna hai saza uski humari aayato ka inkaar karte the (28)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ

أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾

aur kafir bole aye humare rab humein dikha wo dono jin aur aadmi jinhone humein kiya ke hum unhein apne paaon tale daalein ke wo har niche se niche rahein (29)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا

تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

beshak wo jinhone kaha humara rab allah hai phir us par qaaim rahe un par firishte utarte hain ke na daro aur na gham karo aur khush ho us jannat par jis ka tumhein waada diya jaata tha (30)

نَحْنُ أَوْلِيُّكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

hum tumhare dost hain dunya ki zindagi mein aur aakhirat mein aur tumhare liye hai is mein jo tumhara jee chahe aur tumhare liye is mein jo maango (31)

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

mehmani bakhshne waale meharban ki taraf se (32)

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

aur usse zyada kiski baat achhi ho jo allah ki taraf
bulaye aur neki kare aur kahe main musalman hoon

(33)

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٣﴾

aur neki aur badi barabar na ho jayengi aye sunne
waale burai ko bhalai se taal jabhi wo ke tujh mein aur
us mein dushmani thi aisa ho jayega jaisa gehra dost

(34)

وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ۗ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٤﴾

aur ye daulat nahin milti magar sabiro ko aur use
nahin paatw magar bade naseeb waala (35)

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَفْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

aur agar tujhe shaitan ka koi kooncha pahunche to
allah ki panah maang beshak wahi sunta jaanta hai (36)

وَمِنَ آيَاتِهِ الْبَيْتُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۗ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَ

اسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاةً تَعْبُدُونَ ﴿٣٦﴾

aur uski nishaniyo mein se hain raat din aur suraj aur
chand sajda na karo suraj ko aur na chand ko aur allah
ko sajda karo jisne unhein paida kiya agar tum uske
bande ho (37)

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا

يَسْأَمُونَ ﴿٣٧﴾

to agar ye takabbur karein to wo jo tumhare rab ke

paas hain raat din uski paaki bolte hain aur uktaate nahin (38-sajda)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٨﴾

aur uski nishaniyo se hai ke tu zameen ko dekhe be qadr padi phir humne jab us par paani utara taro taaza hui aur badh chali beshak jisne use jilaya zaroor murde jilaayega beshak wo sab kuchh kar sakta hai (39)

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ
يَأْتِي آمِنًا يَمُرُّ الْقَيْمَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾

beshak wo jo humari aayato mein tedhe chalte hain humse chhupe nahin to kya jo aag mein daala jayega wo bhala ya jo qiyamat mein amaan se aayega jo jee mein aaye karo beshak wo tumhare kaam dekh raha hai (40)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

beshak jo zikr se munkir hue jab wo unke paas aaya unki kharabi ka kuchh haal na puchh aur beshak wo izzat waali kitab hai (41)

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

batil ko uski taraf raah nahin na uske aage se na uske pichhe se utaara hua hai hikmat waale sab khoobiyo saraha hai (42)

مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ

الْيَوْمِ ۞

tumse nq farmaya jaaye magar wahi jo tumse agle rasoolo ko farmaya gaya ke beshak tumhara rab bakhshish waala aur dardnak azaab waala hai (43)

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَءَعْجَبِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞

aur agar hum use ajami zuban ka quran karte to zaroor kehte ke uski aayatein kyun na kholi gai kya kitab ajami aur nabi arabi tum farmao wo imaan waalo ke liye hidayat aur shifa hai aur wo jo imaan nahin laate unke kaano mein tent hai aur wo un par andha pan hai goya wo door ki jagah se pukare jaate hain (44)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۗ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُصِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَانَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞

aur beshak humne moosa ko kitab ata farmai to us mein ikhtelaf kiya gaya aur agar ek baat tumhare rab ko taraf se guzar na chuki hoti to jabhi unka faisla ho jata aur beshak wo zaroor uski taraf se ek dhoka daalne waale shak mein hain (45)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۞

jo neki kare wo apne bhale ko aur jo burai kare to apne bure ko aur tumhara rab bando par zulm nahin karta (46)

Pachchiswa Paarah

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثُبُرَاتٍ مِّنْ أَكْثَامِهَا وَمَا تَحِيلُ مِنْ
أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْبِهِ ۖ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ إِبْنُ شَرَكَائِهِمْ ۖ قَالُوا اذْكَرُ مَا مِنَّا
مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

qiyamat ke ilm ka is par hawala hai aur koi phal apne ghilaf se nahin nikalta aur na kisi maada ko pet rahe aur na jane magar uske ilm se aur jis din unhein nida farmayega kahan hain mere shareek kahenge hum tujh se keh chuke ke hum mein koi gawah nahin (47)

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾

aur gum kiya unse jise pehle pujte the aur samajh liye ke unhein kahin bhagne ki jagah nahin (48)

لَا يَسْتَعْمِلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ ۖ وَإِنَّ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْتَوْسِقُنُ ﴿٤٩﴾

aadmi bhalai mangne se nahin uktata aur koi burai pahunche to na ummeed aas toota (49)

وَلَيْنِ أَدْقُنُهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي ۖ وَمَا أَظُنُّ

السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَيْنِ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۖ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ۖ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠﴾

aur agar hum use kuchh apni rahmat ka maza dein us takleef ke baad jo use pahunchi thi to kahega ye to meri hai aur mere gumaan mein qiyamat qaaim na hogi aur agar main rab ki taraf lautaya bhi gaya to

zaroor mere liye uske paas bhi khoobi hi hai to zaroor hum bata denge kafiro ko jo unhone kiya aur zaroor unhein gaadha azaab chakhayenge (50)

وَإِذَا أَعْنُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِحَانِيهِ ۗ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ
عَرِيضٍ ﴿٥٠﴾

aur jab hum aadmi par ehsan karte hain to moonh pher leta hai aur apni taraf door hat jaata hai aur jab use takleef pahunchti hai to chaudi dua waala hai (51)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ
بَعِيدٍ ﴿٥١﴾

tum farmao bhala batao agar ye quran allah ke paas se hai phir tum uske munkir hue to isse badh kar gumrah kaun jo door ki zidd mein hai (52)

سَأْتِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ
يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٢﴾

abhi hum unhein dikhayenge apni aayatein dunya bhar mein aur khud unke aape mein yahan tak ke un par khul jaaye ke beshak wo haq hai kya tumhare rab ka har cheez par gawah hona kaafi nahin (53)

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيَّةٍ مِنَ لِقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ إِلَّا أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٣﴾

suno unhein zaroor apne rab se milne mein shak hai suno wo har cheez ko muheet hai (54)

Surah Shoora

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

حَمْدًا

عَسَقًا

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

yunhi wahih farmata hai tumhari taraf aur tum se aglo
ki taraf allah izzat wa hikmat wala (3)

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

usi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh
zameen mein hai aur wahi bulandi wa azmat wala hai
(4)

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَ

يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۗ إِلَّا إِنْ أَلَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

qareeb hota hai ke aasman apne upar se shaq ho
jaayein aur firishte apne rab ki tareef ke saath uski
paaki bolte aur zameen waalo ke liye muaafi maangte
hain sun lo beshak allah bakhshne wala meharbaan
hai (5)

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

بِوَكِيلٍ

aur jinhone allah ke siwa aur waali bana rakhe hain wo allah ki nigah mein hain aur tum unke zimmedar nahin

(6)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۖ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝

aur yunhi humne tumhari taraf arabi quran wahih bheja ke tum darao sab shehro ki asal makka waalo ko aur jitne uske gird hain aur tum darao ikatthe hone ke din se jis mein kuchh shak nahin ek giroh jannat mein hai aur ek giroh dozakh mein (7)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَدِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۝

aur allah chahta to un sab ko ek deen par kar deta lekin allah apni rahmat mein leta hai jise chahe aur zalimo ka na koi dost na madadgaar (8)

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۗ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ۝

kya allah ke siwa aur waali thehra liye hain to allah hi waali hai aur wo murde jilayega aur wo sab kuchh kar sakta hai (9)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَ
إِلَيْهِ أُنِيبُ ۝

tum jis baat mein ikhtelaf karo to uska faisla allah ke sipurd hai ye allah mera rab maine us par bharosa kiya

aur main us ki taraf ruju laata hoon (10)

فَأَطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَجَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ

أَزْوَاجًا ٤ يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ٥ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ٦

aasmano aur zameen ka banane waala tumhare liye tumhi mein se jode banaye aur nar wa maada chaupaye usse tumhari nasl phailata hai us jaisa koi nahin aur wahi sunta dekhta hai (11)

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ٧ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ٨ إِنَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ٩

uske liye hain aasmano aur zameen ki kunjiya rozi wasee karta hai jiske liye chahe aur tang farmata hai beshak wo sab kuchh jaanta hai (12)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ط كَبُرَ عَلَى

الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ط اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ

يُنِيبُ ١٠

tumhare liye deen ki wo raah daali jiska hukm usne nooh ko diya aur jo humne tumhari taraf wahi ki aur jiska hukm hum ne ibrahim aur moosa aur eisa ko diya ke deen theek rakho aur is mein phoot na daalo mushriko par bahut hi giraa'n hai wo jiski taraf tum unhein bulate ho aur allah apne qareeb ke liye chun leta hai jise chahe aur apni taraf raah deta hai use jo ruju laaye (13)

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْبًا بَيْنَهُمْ ۗ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَنَفَىٰ

شَاكٍ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿١٤﴾

aur unhone phoot na daali magar baad uske ke unhein ilm aa chuka tha aapas ke hasad se aur agar tumhare rab ki ek baat guzar na chuki hoti ek muqarrar miyaad tak to kab ka un mein faisla kar diya hota aur beshak wo jo unke baad kitab ke waris hue wo usse dhoka daalne waale shak mein hain (14)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۗ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۗ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۗ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

to isliye bulao aur saabit qadam raho jaisa tumhein hukm hua hai aur un ki khwahisho par na chalo aur kaho ke main imaan laaya us parjo koi kitab allah ne utari aur mujhe hukm hai ke main tum mein insaf karoon allah humara tumhara sab ka rab hai humare liye humara amal aur tumhare liye tumhara kya koi hujjat nahin hum mein aur tum mein allah hum sab ko jama karega aur usi ki taraf phirna hai (15)

وَالَّذِينَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ ۗ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

aur wo jo allah ke baare mein jhagadte hain baad iske ke musalman uski dawat qabool kar chuke unki daleel

mahaz be sibaat hai unke rab ke paas aur un par ghazab hai aur un ke liye sakht azaab hai (16)

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْبَيِّنَاتِ ۖ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٦﴾

allah hai jisne haq ke saath kitab utari aur insaf ki tarazu aur tum kya jaano shayad qiyamat qareeb hi ho (17)

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا ۗ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ ۗ أَأَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٧﴾

uski jaldi macha rahe hain wo jo us par imaan nahin rakhte aur jinhein us par imaan hai wo usse dar rahe hain aur jante hain ke beshak wo haq hai sunte ho beshak jo qiyamat mein shak karte hain zaroor door ki gumrahi mein hain (18)

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٨﴾

allah apne bando par lutf farmata hai jise chahe rozi deta hai aur wahi quwwat wa izzat waala hai (19)

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۗ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿١٩﴾

jo aakhirat ki kheti chahe hum uske liye uski kheti badhayein aur jo dunya ki kheti chahe hum use us mein se kuchh denge aur aakhirat mein uska kuchh hissa nahin (20)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۗ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

ya unke liye kuchh shareek hain jinhone unke liye wo deen nikaal diya hai ke allah ne uski ijazat na di aur agar ek faisla ka waada na hota to yahin un mein faisla kar diya jaata aur beshak zalimo ke liye dardnak azaab hai (21)

تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢١﴾

tum zalimo ko dekhoge ke apni kamaiyo se sehme hue honge aur wo un par pad kar rahengi aur jo imaan laaye aur achhe kaam kiye wo jannat ki phulwariyo mein hain unke liye unke rab ke paas hain jo chahein yahi bada fazl hai (22)

ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٢﴾

ye hai wo jiski khushkhabri deta hai allah apne bando ko jo imaan laaye aur achhe kaam kiye tum farmao main is par tumse kuchh ujrati nahin maangta magar qarabat waalo ki muhabbat aur jo nek kaam kare hum uske liye us mein aur khoobi badhayein beshak allah bakhshne waala qadr farmane waala hai (23)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَسُخِّرِ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾

ya ye kehte hain ke unhone allah par jhoot baandh liya aur allah chahe to tumhare dil par apni rahmat wa hifazat ki mehar farma de aur mitata hai batil ko aur haq ko saabit farmata hai apni baato se beshak wo dilo ki baatein jaanta hai (24)

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾

aur wahi hai jo apne bando ki tauba qabool farmata aur gunaho se dar guzar farmata hai aur jaanta hai jo kuchh tum karte ho (25)

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ ۗ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٥﴾

aur dua qabool farmata hai unki jo imaan laaye aur achhe kaam kiye aur unhein apne fazl se aur inaan deta hai aur kafiro ke liye sakht azaab hai (26)

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٦﴾

aur agar allah apne sab bando ka rizq wasee kar deta to zaroor zameen mein fasaad phailate lekin wo andaza se utarta hai jitna chahe beshak wo apne bando se khabardar hai unhein dekhta hai (27)

وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مَن بَعْدٍ مَّا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ ۗ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٧﴾

aur wahi hai ke meenh utarta hai un ke na ummeed hone par aur apni rahmat phailata hai aur wahi kaam banane waala hai sab khoobiyo saraha (28)

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ
إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

aur uski nishaniyo se hai aasmano aur zameen ki paidaish aur ho chalne waale un mein phailaye aur wo inke ikattha karne par jab chahe qadir (29)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

aur tumhein jo musibat pahunchi wo uske sabab hai jo tumhare haatho ne kamaya aur bahut kuchh to muaaf farma deta hai (30)

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾

aur tum zameen mein qaabu se nahin nikal sakte aur na allah ke muqabil tumhara koi dost na madadgar (31)

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

aur uski nishaniyo se hain darya mein chalne waaliya jaise pahadiya (32)

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ
شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

wo chahe to hawa thama de ke uski peeth par thehri reh jaayein beshak is mein zaroor nishaniya hain har bade sabir shakir ko (33)

أَوْ يُوقِتْهُمْ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

ya unhein tabaah karde logon ke gunaho ke sabab aur bahut kuchh muaaf farma de (34)

وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّجْنِبٍ ﴿٣٥﴾

aur jaan jaayein wo jo humari aayato mein jhagadte hain ke unhein kahin bhagne ki jagah nahin (35)

فَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ
أٰمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

tumhein jo kuchh mila hai wo jeeti dunya mein baratne ka hai aur wo jo allah ke paas hai behtar hai aur zyada baaqi rehne waala unke liye jo imaan laaye aur apne rab par bharosa karte hain (36)

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبْرًا اِلٰلٰهٍ وَالْفَوَاحِشَ ۖ وَاِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

aur wo jo bade bade gunaho aur be hayaiyo se bachte hain aur jab ghussa aaye muaaf kar dete hain (37)

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ۖ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

aur wo jinhone apne rab ka hukm maana aur namaz qaaim rakhi aur unka kaam unke aapas mein mashware se hai aur humare diye se kuchh humari raah mein kharch karte hain (38)

وَالَّذِينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

aur wo ke jab unhein baghawat pahunche badla lete hain (39)

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَىٰ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يَجِبُ
الظَّالِمِيْنَ ﴿٤٠﴾

aur burai ka badla uski barabar burai hai to jisne

muaaf kiya aur kaam sanwara to uska ajr allah par hai
beshak wo dost nahin rakhta zalimo ko (40)

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۝

aur beshak jisne apni mazloomi par badla liya un par
kuchh mawakhiza ki raah nahin (41)

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۝
أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

mawakhiza to unhi par hai jo logon par zulm karte hain
aur zameen mein nahaq sarkashi phailate hain unke
liye dardnak azaab hai (42)

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝

aur beshak jisne sabr kiya aur bakhsh diya to ye zaroor
himmat ke kaam hain (43)

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَدْيٍ مِّنْ بَعْدِهِ ۝ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ
يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ۝

aur jise allah gumrah kare us ka koi rafeeq nahin allah
ke muqabil aur tum zalimo ko dekhoge ke jab azaab
dekhenge kahenge kya wapas jaane ka koi rasta hai
(44)

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدُّمَالِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيِّ ۝ وَقَالَ
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخُسْرَىٰ عَلَىٰ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۝
إِلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ۝

aur tum unhein dekhoge ke aag par pesh kiye jaate
hain zillat se dabe lache chhupi nigaho dekhte hain aur

imaan waale kahenge beshak haar mein wo hain jo apni jaanein aur apne ghar waale haar baithe qiyamat ke din sunte ho beshak zalim humesha ke azaab mein hain (45)

وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ

سَبِيلٍ ﴿٤٥﴾

apne rab ka hukm maano us din ke aane se pehle jo allah ki taraf se talne waala nahin us din tumhein koi panah na hogi aur na tumhein inkar karte bane (47)

اسْتَجِيبُوا لِلرَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ

يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٧﴾

apne rab ka hukm maano us din ke aane se pehle jo allah ki taraf se talne waala nahin us din tumhein koi panah na hogi aur na tumhein inkar karte bane (47)

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا

الْإِنْسَانَ مِتًّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِنَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ

الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾

to agar wo moonh pherein to humne tumhein un par nigezban bana kar nahin bheja tum par to nahin magar pahuncha dena aur jab hum aadmi ko apni taraf se kisi rahmat ka maza dete hain is par khush ho jaata hai aur agar unhein koi burai pahunche badla uska jo unke haatho ne aage bheja to insan bada nashukra hai (48)

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاءً وَيَهَبُ
لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۝

allah hi ke liye aasmano aur zameen ki saltanat paida karta jo chahe jise chahe betiya'n ata farmaye aur jise chahe bete de (49)

أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاءً ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَاقِبَةً ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

ya dono mila de bete aur betiya aur jise chahe banjh kar de beshak wo ilmo qudrat waala hai (50)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ ۗ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا
فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ۝

aur kisi aadmi ko nahin pahunchta ke allah usse kalaam farmate magar wahih ke taur par ya yun ke wo bashar parda -e- azmat ke udhar ho yq koi firishta bheje ke wo uske hukm se wahih kare jo wo chahe beshak wo bulandi wa hikmat waala hai (51)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۗ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۗ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ ۝

aur yun hi humne tumhein wahih bheji ek janfiza cheez apne hukm se isse pehle na tum kitab jaante the na ahkame shara ki tafseel haan humne use noor kiya jisse hum raah dikhate hain apne bando se jise chahte hain aur beshak tum zaroor seedhi raah batate ho (52)

صِرَاطٍ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ۝

allah ki raah ke usi ka hai jo kuchh aasmano mein hai
aur jo kuchh zameen mein sunte ho sab kaam allah hi
ki taraf phirte hain (53)

Surah Zukhruf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

حَمْدٌ

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

raushan kitab ki qasam (2)

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

humne ise arabi quran utara ke tum samjho (3)

وَإِنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَىٰ حَكِيمٌ

aur beshak wo asal kitab mein humare paas zaroor
bulandi wa hikmat waala hai (4)

أَفَنْضَبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ

to kya hum tumse zikr ka pahlu pher dein is par ke tum
log hadd se badhne waale ho (5)

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ

aur humne kitne hi ghaib batane waale (nabi) aglo
mein bheje (6)

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

aur unke paas jo ghaib batane waala (nabi) aaya uski
hansi hi banaya kiye (7)

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَ مَضَىٰ مَثَلُ الْأُولَىٰ ۗ

to humne wo halaak kar diye jo unse bhi pakad mein
sakht the aur aglo ka haal guzar chuka hai (8)

وَلِيْنٍ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝

aur agar tum unse puchho ke aasman aur zameen
kisne banaye to zaroor kahenge unhein banaya us
izzat waale ilm waale ne (9)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

jisne tumhare liye zameen ko bichhauna kiya aur
tumhare liye us mein raaste kiye ke tum raah paao (10)

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمٰءِ مَآءً بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلَدًا مَّيْمِنًا ۚ كَذٰلِكَ

تُخْرَجُوْنَ ۝

aur wo jisne aasman se paani utaara ek andaze se to
humne usse ek murda shehar zinda farma diya yunhi
tum nikaale jaoge (11)

وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝

aur jisne sab jode banaye aur tumhare liye kashtiyon
aur chaupayon se sawari banai (12)

لِتَسْتَوِيَٰ عَلٰى ظُهُورِهِمْ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ

الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَا مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝

ke tum unki peetho par theek baitho phir apne rab ki
nemat yaad karo jab us par theek baith lo aur yun

kaho paaki hai use jis ne is sawari ko humare bas mein kar diya aur ye humare boote ki na thi (13)

وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿١٣﴾

aur beshak humein apne rab ki taraf palatna hai (14)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾

aur uske liye uske bando mein se tukda thehraya beshak aadmi khula nashukra hai (15)

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفُكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٥﴾

kya usne apne liye apni makhlooq mein se betiya lee aur tumhein beto ke saath khaas kiya (16)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٦﴾

aur jab un mein kisi ko khushkhabri di jaaye us cheez ki jiska wasf rahman ke liye bata chuka hai to din bhar uska moonh kaala rahe aur gham khaya kare (17)

أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْجَلِيلَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٧﴾

aur kya wo jo gehne mein parwan chadhe aur bahas mein saaf baat na kare (18)

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبُدُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا ۖ أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ ۖ سَتُكْتَبُ

شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٨﴾

aur unhone firishto ko ke rahman ke bande hain auratein thehraya kya unke banate waqt ye haazir the ab likh li jayegi unki gawahi aur unse jawab talab hoga (19)

وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا

يَخْرُصُونَ ۝٢٠

aur bole agar rahman chahta hum unhein na pujte
unhein iski haqeeqat kuchh maloom nahin yunhi
atkalein daudate hain (20)

أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ۝٢١

ya isse qabal humne unhein koi kitab di hai jise wo
thaame hue hain (21)

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ۝٢٢

balki bole humne apne baap dada ko ek deen par
paaya aur hum unki lakeer par chal rahe hain (22)

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا

آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۝٢٣

aur aise hi humne tumse pehle jab kisi shehar mein koi
dar sunane waala bheja wahan ke aasudo ne yahi kaha
ke humne apne baap dada ko ek deen par paaya aur
hum unki lakeer ke pichhe hain (23)

قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِآهُدًى مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ۝٢٤ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ

كُفْرُونَ ۝٢٥

nabi ne farmaya aur kya jab bhi ke main tumhare paas
wo laaun jo seedhi raah ho usse jis par tumhare baap
dada the bole jo kuchh tum le kar bheje hum use
nahin maante (24)

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝٢٦

to humne unse badla liya to dekho jhutlane waalo ka

kaisa anjaam hua (25)

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٥﴾

aur jab ibrahim ne apne baap aur apni qaum se farmaya main bezaar hoon tumhare maboodo se (26)

إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴿٢٦﴾

siwa uske jisne mujhe paida kiya ke zaroor wo bahut jald mujhe raah dega (27)

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

aur use apni nasl mein baaqi kalaam rakha ke kahin wo baaz aayein (28)

بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٨﴾

balki maine unhein aur unke baap dada ko dunya ke fayede diye yahan tak ke unke paas haq aur saaf batane waala rasoop tashreef laaya (29)

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٩﴾

aur jab unke paas haq aaya bole ye jaadu hai aur hum iske munkir hain (30)

وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣٠﴾

aur bole kyun na utara gaya ye quran in do shehro ke kisi bade aadmi par (31)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ

خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

kya tumhare rab ki rahmat wo bant'te hain humne un mein unki zeest ka samaan dunya ki zindagi mein baanta aur un mein ek dusre par darjo bulandi di ke un mein ek dusre ki hanshi banaye aur tumhare rab ki rahmat unki jama jattha se behtar (32)

وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا
مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٢﴾

aur agar ye na hota ke sab log ek deen par ho jaayein to hum zaroor rahman ke munkiro ke liye chandi ki chhatein aur seedhiya banate jin par chadhte (33)

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ ﴿٣٣﴾

aur unke gharo ke liye chandi ke darwaze aur chandi ke takht jin par takiya lagate (34)

وَرُحُفًا ۗ وَإِنْ كُنَّا لَنَافِعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةِ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾

aur tarah tarah ki aaraish aur ye jo kuchh hai jeeti dunya hi ka asbaab hai aur aakhirat tumhare rab ke paas parhezgaro ke liye hai (35)

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٥﴾

aur jise ratond aaye rahman ke zikr se us par ek shaitan tayyunaat karein ke wo uska saathi rahe (36)

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٦﴾

aur beshak wo shayateen unko raah se rokthe hain aur samajhte ye hain ke wo raah par hain (37)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ لَيْلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴿٣٨﴾

yahan tak ke jab kafir humare paas aayega apne shaitan se kahega haaye kisi tarah mujh mein tujh mein purab pachhim ka fasla hota tu kya hi bura saathi hai (38)

وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ مَا إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

aur hargiz tumhara usse bhala na hoga aaj jabki tumne zulm kiya ke tum sab azaab mein shareek ho (39)

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾

to kya tum behro ko sunaoge ya andho ko raah dikhaoge aur unhein jo khuli gumrahi mein hain (40)

فَمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿٤١﴾

to agar hum tumhein le jaayein to unse hum zaroor badla lenge (41)

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

ya tumhein dikha dein jiska unhein humne waada diya hai to hum un par badi qudrat waale hain (42)

فَاسْتَمْسِكْ بِالذِّمَىٰ أَوْ حَىٰ إِلَيْكَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾

to mazboot thaame raho use jo tumhari taraf wahih ki gai beshak tum seedhi raah par ho (43)

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾

aur beshak wo sharf hai tumhare liye aur tumhari qaum ke liye aur anqareeb tumse puchha jayega (44)

وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا

يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾

aur unse puchho jo humne tumse pehle rasool bheje
kya humne rahman ke siwa kuchh aur khuda thehraye
jinko puja ho (45)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

aur beshak humne moosa ko apni nishaniyo ke saath
firaun aur uske sardaro ki taraf bheja to usne farmaya
beshak main uska rasool hoon jo saare jahaan ka
maalik hai (46)

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

phir jab wo unke paas humari nishaniya laaya to jabhi
wo un par hansne lage (47)

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

aur hum unhein jo nishani dikhate hain wo pehle se
badi hoti aur humne unhein musibat mein giraftar kiya
ke wo baaz aayein (48)

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّا لَنَاهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

aur bole ke aye jadugar humare liye apne rab se dua
kar is ahad ke sabab jo us ka tere paas hai beshak hum
hidayat par aayenge (49)

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾

phir jab hum unse wo musibat taal di jabhi wo ahad
tod gaye (50)

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي
مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾

aur firaaun apni qaum mein pukara ke aye meri qaum
kya mere liye misr ki saltanat nahin aur ye nehrein ke
mere niche behti hain to kya tum dekhte nahin (51)

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴿٥٢﴾ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٣﴾

ya main behtar hoon isse ke zaleel hai aur baat saaf
karta maloom nahin hota (52)

فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٤﴾

to us par kyun na daale gaye sone ke kangan ya uske
saath firishte aate ke uske paas rehte (53)

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٥﴾

phir usne apni qaum ko kam aql kar liya to wo uske
kehne par chale beshak wo be hukm log the (54)

فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْبَعِينَ ﴿٥٦﴾

phir jab unhone wo kiya jis par humara ghazab un par
aaya hum ne unse badla liya to humne un sab ko dubo
diya (55)

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٧﴾

unhein humne kar diya agli dastaan aur kahawat
pichhlo ke liye (56)

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٨﴾

aur jab ibne maryam ki misaal bayaan ki jaaye jabhi
tumhari qaum usse hansne lagte hain (57)

وَقَالُوا أَلَهْتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۗ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۗ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾

aur kehte hain kya humare mabood behtar hain ya wo unhone tumse ye na kahi magar nahaq jhagde ko balki wo hain hi jhagdalu log (58)

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٥٩﴾

wo to nahin magar ek banda jis par humne ehsan farmaya aur use humne bani israyeel ke liye ajeeb numoona banaya (59)

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾

aur agar hum chahte to zameen mein tumhare badle firishte basate (60)

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۗ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

aur beshak eisa qiyamat ki khabar hai to hargiz qiyamat mein shak na karna aur mere pairu hona ye seedhi raah hai (61)

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾

aur hargiz shaitan tumhein na rok de wo tumhara khula dushman hai (62)

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي

تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۗ ﴿٦٣﴾

aur jab eisa raushan nishaniya laaya usne farmaya main tumhare paas hikmat le kar aaya aur isliye main tumse bayaan kar doon baaz wo baatein jin mein tum ikhtelaf rakhte ho to allah se daro aur mera hukm maano (63)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

beshak allah mera rab aur tumhara rab to use puoojo
ye seedhi raah hai (64)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ﴿٦٥﴾

phir wo giroh aapas mein mukhtalif ho gaye to zalimo
ki kharabi hai ek dardnak din ke azaab se (65)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

kaahe ke intezar mein hain magar qiyamat ke ke un
par achanak aa jaaye aur unhein khabar na ho (66)

الْأَخْلَاءَ يَوْمَ مِيدٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

gehre dost us din ek dusre ke dushman honge magar
parhezgar (67)

يُعْبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٦٨﴾

unse farmaya jayega aye mere bando aaj na tum par
khauf na tum par gham (68)

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

wo jo humari aayato par imaan laaye aur musalman
the (69)

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

dakhil ho jannat mein tum aur tumhari bibiya tumhari
khatirein hoti (70)

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ

الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾

un par daura hoga sone ke pyalo aur jaamo ka aur us

mein jo jee chahe aur jisse aankh ko lazzat pahunche
aur tum us mein humesha rahoge (71)

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

aur ye hai wo jannat jiske tum waris kiye gaye apne
aamaal se (72)

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

tumhare liye is mein bahut mewe hain ke in mein se
khao (73)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿٧٣﴾

beshak mujrim jahannam ke azaab mein humesha
rehne waale hain (74)

لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٤﴾

wo kabhi un par se halka na padega aur wo us mein be
aas rahenge (75)

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

aur humne un par kuchh zulm na kiya haan wo khud hi
zaalim the (76)

وَنَادُوا ابْنَدُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُتُونَ ﴿٧٦﴾

aur wo pukarenge aye malik tera rab humein tamam
kar chuke wo farmayega tumhein to theharna hai (77)

لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ﴿٧٧﴾

beshak hum tumhare paas haq laaye magar tum mein
aksar log nagawar hai (78)

أَمْ أَبْرُمُوا أَمْ رَأَيْنَا مَبْرُومُونَ ﴿٧٨﴾

kya unhone apne khayal mein koi kaam pakka kar liya hai to hum apna kaam pakka karne waale hain (79)

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۗ طَبْلَىٰ ۖ وَرُسُلَنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُوبُونَ ﴿٧٩﴾

kya is ghamand mein hain ke hum unki aahista baat aur unki mashwarat nahin sunte haan kyun nahin aur humare firishte unke paas likh rahe hain (80)

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ ۖ لَطَبَّ ۖ فَاِنَّا أَوَّلُ الْعَبِيدِ ۖ ﴿٨٠﴾

tum farmao bafarze muhaal rahman ke koi bachha hota to sabse pehle main pujta (81)

سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨١﴾

paaki hai aasmano aur zameen ke rab ko arsh ke rab ko un baato se jo ye banate hain (82)

فَذَرِهِمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٨٢﴾

to tum unhein chhodo ke behuda baatein karein aur khelein yahan tak ke apne us din ko paayein jiska unse waada hai (83)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٣﴾

aur wahi aasman waalo ka khuda aur zameen waalo ka khuda aur wahi hikmat wa ilm waala hai (84)

وَتَبَرَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ ﴿٨٤﴾

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

aur badi barkat waala hai wo ke usi ke liye hai saltanat aasmano aur zameen ki aur jo kuchh unke darmiyan hai aur usi ke paas hai qiyamat ka ilm aur tumhein usi ki taraf phirna (85)

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ

يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

aur jin ko ye allah ke siwa pujte hain shafa'at ka ikhteyar nahin rakhte haan shafa'at ka ikhteyar unhein hai jo haq ki gawahi dein aur ilm rakhein (86)

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾

aur agar tum unse puchho ke unhein kisne paida kiya to zaroor kahenge allah ne to kahan aundhe jaate hain (87)

وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هُوَ إِلَّا قَوْمٌ لَا يُلْمُونَ ﴿٨٨﴾

mujhe rasool ke us kehne ki qasam ke aye mere rab ye log imaan nahin laate (88)

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

to unse dar guzar karo aur farmao ke bas salam hai ke aage jaan jayenge (89)

Surah Dukhaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat wala.

حَمْدٌ ﴿١﴾

وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾

qasam us raushan kitab ki (2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝

beshak humne use barkat wali raat me utara beshak
hum darr sunane wale hain (3)

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝

isme baant diya jata hai har hikmat wala kaam (4)

أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝

hamare paas ke hukm se beshak hum bhejne wale
hain (5)

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

tumhare rabb ki taraf se rehmat beshak wahi sunta
janta hai (6)

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ۝

wo jo rabb hai aasmano aur zamreen ka aur jo kuchh
unke darmiyan hai agar tumhen yaqeen ho (7)

لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

uske siwa kisi ki bandagi nahin wo jilaaye aur maare
tumhara rabb aur tumhare agle baap dada ka rabb (8)

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَّلْعَبُونَ ۝

balki wo shak me pade khel rahe hain (9)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۝

to tum us din ke munkir rahi jab aasman ek zaahir
dhuwaan layega (10)

يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ke logon ko dhaanp lega ye hai dardnak azaab (11)

رَبَّنَا كُشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

us din kahenge ay hamare rabb hum par se azaab khol de hum imaan late hain (12)

أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

kahan se ho unhne naseehat manna halanki unke paas saaf bayan farmane wala rasool tashreef la chuka (13)

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾

fir usse rugardaan hue aur bole sikhaya hua diwana hai (14)

إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

hum kuchh dino ko azaab khole dete hain tum fir wahi karoge (15)

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

jis din hum sabse badi pakad pakdenge beshak hun badla lena wale hain (16)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٧﴾

aur beshak humne unse pehle firaun ki qaum ko jaancha aur unke paas ek mo'azzaz rasool taareef laya (17)

أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾

ke allah ke bando ko mujhe supurd kar do beshak me tumhare liye amaanat wala rasool hun (18)

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۚ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾

aur allah ke muqabil sarkashi na karo mai tumhare

paas ek raushan sanad lata hun (19)

وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۝

aur mai panaah leta hu apne rabb aur tumhare rabb se isse ke tum muje sangsaar karo (20)

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَأَعْتَزِلُونِ ۝

aur agar tum mera yaqeen na lao to mujh se kinare ho jao (21)

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ۝

to usne apne rabb se dua ki ke ye mujrim log hain (22)

فَأَسْرِبْ بَعْبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ۝

humne hukm farmaya ke mere bando ko raato raat le nikal zaroor tumhara peechha kiya jayega (23)

وَإِنَّكَ الْبَحْرُ رَهْوًا ۝ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ۝

aur dariya ko yunhi jagah jagah se khula chhod de beshak wo lashkar duboya jayega (24)

كَمْ تَرَ كُوفًا مِنْ جَبَّتٍ وَ عِيُونَ ۝

kitne chhod gaye baagh aur chashme (25)

وَزُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيمٍ ۝

aur khet aur unmda makaanaat (26)

وَ نَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَكَاهِينَ ۝

aur ne'mate jisme faarigulbaal the (27)

كَذَلِكَ ۝ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝

humne yunhi kiya aur unka waris dusri qaum ko kar diya (28)

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

to un par aasman aur zameen ne roye aur unhen
muhlat na di gayi (29)

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿٣٠﴾

aur beshak humne bani israeel ko zillat ke azaab se
najaat bakhshi (30)

مَنْ فِرْعَوْنَ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

firaun se, beshak wo mutakabbir hadd se badhne
walon me se tha (31)

وَلَقَدْ اخْتَرْتَنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

aur beshak humne unhen danista chun liya us zamane
walon se (32)

وَأَتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

aur humne unhen nishaniyan ataa farmayi jisme
sareeh inaaam tha (33)

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾

beshak ye kehte hain (34)

إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾

wo to nahi magar hamara ek dafa ka marna aur hum
uthaye na jayenge (35)

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

to humare baap dada ko le aao agar tum sacche ho
(36)

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۗ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا

مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

kya wo behtar hai ya tubba' ki qaum aur jo unse pehle
the humne unhen halaak kar diya beshak wo mujrim
log the (37)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبِينَ ﴿٣٨﴾

aur humne na banaye aasman aur zameen aur jo
kuchh unke darmiyan hai khel ke taur par (38)

مَا خَلَقْنَاهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

humne unhe na bnaya magar haqq ke sath lekin
unme aksar jante nahi (39)

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْعِينَ ﴿٤٠﴾

beshak faisla ka din un sab ki meead hai (40)

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

jis din koi dost kisi dost ke kuchh kaam na aayega aur
na unki madad hogi (41)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

magar jis par allah raham kare beshak wahi izzat wala
meharban hai (42)

إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُومِ ﴿٤٣﴾

beshak thuhad ka ped (43)

طَعَامُ الْإِثْمِ ۗ ﴿٤٤﴾

gunahgaron ki khurak hai (44)

كَالْمُهْلِ ۗ يُغْلَى فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾

gale hue taambe ki tarah peto me josh marta hai (45)

كَغْلَى الْحَيِّمِ ﴿٤٥﴾

jaisa khaulta paani josh maare (46)

خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٦﴾

use pakdo theek bhadakti aag ki taraf bazor ghaseette
le jao (47)

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَيِّمِ ﴿٤٧﴾

fir uske sar ke upar khaulte pani ka azaab daalo (48)

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٨﴾

chakh haan haan tu hi bada izzat wala karam wala hai
(49)

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٤٩﴾

beshak ye hai wo jisme tum shubha karte the (50)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٠﴾

beshak darr wale amaan ki jagah me hain (51)

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥١﴾

baagho aur chashmo me (52)

يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٢﴾

pehnenge kareb qanadeez aamne saamne (53)

كَذَلِكَ وَرَوَّجْتُهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٣﴾

yunhi hai aur hunne unhen byaah diya nihayat siyaah
aur raushan badi aankho waliyon se (54)

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٤﴾

usme har qism ka mewa maangenge aman wa amaan
se (55)

لَا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۗ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾

usme pehli maut ke siwa fir maut na chakhenge aur
allah ne unhen aag ke azaab se bacha liya (56)

فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٦﴾

tumhare rabb ke fazl se yahi badi kamyabi hai (57)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

to humne is qur'an ko tumhari zabaan me aasaan kiya
ke wo samjhe (58)

فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٨﴾

to tum intezar karo wo bhi kisi intezar me hain (59)

Surah Jaasiya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

حَمْدٌ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

kitab ka utaarna hai allah izzat wa hikmat wale ki taraf
se (2)

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

beshak aasmano aur zameen me nishaniya hain imaan
walon ke liye (3)

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝

aur tumhari paidaish me aur jo jo janwar wo failata hai unme nishaniya hain yaqeen walon ke liye (4)

وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَضْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

aur raat aur din ki tabdeeliyon me aur usme ke allah ne aasman se rozi ka sabab meh utara to usse zameen ko uske mare peechhe zinda kiya aur hawaa ki gardish me nishaniyan hain aqlmando ke liye (5)

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ۝

ye allah ki aayaten hain ke hum tum par haqq ke sath padhte hain fir allah aur uski aayaton ko chhod kar kaun si baat par imaan layenge (6)

وَيُلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝

kharabi hai har bade bohtaanhay gunahgar ke liye (7)

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنْثَلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ

الْيَمِّ ۝

allah ki aayaton ko sunta hai ke us par padhi jati hai fir hat par jamta hai guroor karta giya unhen suna hi nahi to use khushkhabri sunao dardnak azaab ki (8)

وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوعًا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

aur jab hamari aayaton me se kisi par ittela' paye uski hasi banata hai unke liye khwari ka azaab (9)

مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ

اللَّهُ أَوْلِيَاءُ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝١٠

unke peechhe jahannam hai aur unhen kuchh kaam na dega unka kamaya hua aur na wo jo allah ke siwa himayati thehra rakhe the aur unke liye bada azaab hai
(10)

هَذَا هُدًى ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ۝١١

ye raah dikhana hai aur jinhone apne rabb ki aayaton ko na mana unke liye dardnaak azaab me se sakht tar azaab hai (11)

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ ۖ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝١٢

allah hai jisne tumhare bas me dariya kar diya ke usme uske hukm se kashtiyen chale aur isliye ke uska fazl talash karo aur isliye ke haqq maano (12)

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ۝١٣

aur tumhare liye kaam me lagaye jo kuchh aasmano me hain aur jo kuchh zameen me apne hukm se, beshak isme nishaniyan ahi sochne walon ke liye (13)

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝١٤

imaan walon se farmao darguzre unse jo allah ke dinon ki ummeed nahi rakhte taaki allah ek qaum ko uski kamai ka badla de (14)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

jo bhala kaam kare to apne liye aur bura kare to apne bure ko fir apne rabb ki taraf fere jaoge (15)

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

aur beshak humne bani israeel ko kitab aur hukumat aur nubuwat ataa farmayi aur humne unhen suthri roziyaan di aur unhen unke zamane walon par fazeelat bakhsi (16)

وَأَتَيْنَاهُمُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۗ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

aur humne unhen us kaam ki raushan daleelen di to unhone ikhtilaaf na kiya magar baad iske ke ilm unke paas aa chuka aapas ke hasad se beshak tumhara rabb qiyamat ke din unme faisla kar dega jis baat me ikhtilaf karte hain(17)

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ رِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

fir humne us kaam ke umda raasta par tumhen kiya to usi raah chalo aur nadaano ki khwahisho ka sath na do (18)

إِنَّهُمْ لَن يَغْنُؤُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

beshak wo allah ke muqabil tumhen kuchh kaam na denge aur beshak zalim ek dusre ke dost hain aur dar

walon ka dost allah (19)

هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١٩﴾

ye logon ki aankhen kholna hai aur imaan walon ke liye
hidayat wa rahmat (20)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢٠﴾

kya jinhone buraiyon ka irtekaab kiya ye samjhte hain
ke hum unhone un jaisa kar denge jo imaan laye aur
acche kaam kiye ke inki unki zindagi aur maut barabar
ho jaye kya hi bura hukm lagate hain (21)

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢١﴾

aur allah ne aasmano aur zameen ko haqq ke sath
banaya aur isliye ke har jaan apne kiye ka badla paaye
aur un par zulm na hoga (22)

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَ

جَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْرَةَ ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۗ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

bhala dekho to wo jisne apni khwahish ko apna khuda
thehra liya aur allah ne use ba-wasfe ilm ke gumraah
kiya aur uske kaam aur dil par muhar laga di aur uski
aankho par parda daala to allah ke baad use kaun raah
dikhaye, to kya tum dhyaan nahi karte (23)

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۗ وَمَا لَهُمْ

بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٣﴾

aur bole wo to nahi magar yahi hamari duniya ki zindagi marte hain aur jeete hain aur hume halaak nahi karta magar zamana aur unhone iska ilm nahi wo to nire guman daudaate hain (24)

وَإِذَا تَتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بَيِّنَاتٍ إِنَّ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾

aur jab un par hamari raushan aayaten padhi jayen to bas unki hujjat yahi hoti hai ki kehte hain ke hamare baap daada ko le aao tum agar sacche ho (25)

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ

أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾

tum farmao allah tumhen jilata hai fir tum ko marega fir tum sab ko ikattha karega qiyamat ke din jisme koi shak nahi lekin bahut aadmi nahi jante (26)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدِ الْيَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٦﴾

aur allah hi ke liye hai aasmano aur zameen ki saltanat aur jis din qiyamat qaeem hogi batil walo ki us din haar hai (27)

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ۗ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾

aur tum har giroh ko dekhoge zaanu ke bal gire hue har giroh apne naama e aa'mal ki taraf bulaya jayega aaj tumhen tumhare kiye ka badla diya jayega (28)

هَذَا كِتَابُنَا يُطِيقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ۗ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

hamara ye nawishta tum par haqq bolta hai hum likhte
rahe the jo tumne kiya (29)

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿٢٩﴾

to wo jo imaan laye aur acche kaam kiye unka rabb
unhen apni rahmat me lega ye khuli kamyabi hai (30)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ الْيَتِيمَ الَّذِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا
مُجْرِمِينَ ﴿٣٠﴾

aur jo kafir hue unse farmaya jayega kya na tha ki meri
aayat padhi jati thi to tum takabbur karte the aur
tum mujrim log the (31)

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ
إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣١﴾

aur jab kaha jata beshak allah ka wada saccha hai aur
qiyamat me shak nahi tum kehte hum nahi jante
qiyamat kya cheez hai hume to yunhi kuchh guman sa
hota hai aur hume yaqeen nahi (32)

وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتِ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٢﴾

aur un par khul gayi unke kaamo ki buraiyan aur
unhen gher liya us azaab ne jiski hasi banate the (33)

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسِفُكُمْ كَمَا نَسَيْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ
مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٣٣﴾

aur farmaya jayega aaj hum tumhen chhod denge jaise
tum apne is din ke milne ko bhoole hue the aur

tumhara thikana aag hai aur tumhara koi madadgar nahi (34)

ذِكْرُكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّبْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٤﴾

ye isliye ke tum ne allah ki aayaton ka thattha banaya aur duniya ki zindagi ne tumhen fareb diya to aaj na wo aag se nikale jayen aur na unse koi manana chahe (35)

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٥﴾

to allah hi ke liye sab khoobiyen hai aasmano ka rabb aur zameen ka rabb aur sare jahan ka rabb (36)

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٦﴾

aur usi ke liye badaai hai aasmano aur zameen me aur wahi izzat wa hikmat wala (37)

Chhabiswa Paarah

Surah Ahqaaf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

حَمْدًا

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

ye kitab utaarna hai allah izzat wa hikmat waale ki taraf
se (2)

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ۝

humne na banaye aasman aur zameen aur jo kuchh
unke darmiyan hai magar haq ke saath aur ek
muqarrar miyaad par kafir is cheez se ke daraye gaye
munh phere hain (3)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ

شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۗ ائْتِنُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرَةٍ مِّن عِلْمٍ إِن كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ۝

tum farmao bhala batao to wo jo allah ke siwa pujte ho
mujhe dikhao unhone zameen ka kaunsa zarra banaya
ya aasman mein unka koi hissa hai mere paas laao isse
pehle koi kitab ya kuchh bacha kuchha ilm agar tum

sachhe ho (4)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ
عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ۝

aur usse badh kar gumrah kaun jo allah me siwa aiso ko puje jo qiyamat tak uski na sunein aur unhein unki puja ki khabar tak nahin (5)

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفْرِينَ ۝

aur jab logon ka hashr hoga wo unke dushman honge aur unse munkir ho jayenge (6)

وَإِذَا تُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ
مُبِينٌ ۝

aur jab un par padhi jaayein humari raushan aayatein to kafir apne paas aaye hue haq ko kehte hain ye khula jadu hai (7)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

kya kehte hain unhone ise jee se banaya tum farmao agar maine ise jee se bana liya hoga to tum allah ke saamne mera kuchh ikhteyar nahin rakhte wo khoob jaanta hai jin baato mein tum mashghool ho aur wo kaafi hai mere aur tumhare darmiyan gawah aur wahi bakhshne waala meharbaan hai (8)

قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا
يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

tum farmao main koi anokha rasool nahin aur main nahin jaanta mere saath kya kiya jayega aur tumhare saath kya main to isi ka taabe hoon jo mujhe wahih hoti hai aur main nahin magar saaf dar sunane waala (9)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنْ وَاسْتَكْبَرْتُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

tum farmao bhala dekho to agar quran allah me ke paas ho aur tumne iska inkar kiya aur bani israyeel ka ek gawah is par gawahi de chuka to wo imaan laaya aur tum ne takabbur kiya beshak allah raah nahin deta zalimo ko (10)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۗ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا
بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا أِفْكَ قَدِيمٌ ۝

aur kafiro ne musalmano ko kaha agar is mein kuchh bhalai hoti to ye humse aage us tak na pahunch jaate aur jab unhein iski hidayat na hui to ab kahenge ye purana bohtan hai (11)

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۗ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانِ عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ
الَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۝

aur isse pehle moosa ki kitab hai peshwa aur meharbani aur ye kitab hai tasdeeq farmati arabi zuban mein ke zalimo ko dar sunaye aur neko ko basharat (12)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

beshak wo jinhone kaha humara rab allah hai phir saabit qadam rahe na un par khauf na unko gham (13)

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

wo jannat waale hain humesha us mein rahenge unke aamaal ka inaaam (14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ
وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ۖ
أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنَّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٤﴾

aur humne aadmi ko hukm kiya ke apne maa baap se bhalai kare uski ne use pet mein rakha takleef se aur uska doodh chhudana tees mahina mein hai yahan tak ke jab apne zor ko pahuncha aur chalees bars ma hua arz ki aye mere rab mere dil mein daal ke main teri nemat ka shukr karoon jo tune mujh par aur mere maa baap par ki aur mere liye meri awlaad mein salaah rakh main teri taraf ruju laaya aur main musalman hoon (15)

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ
الْجَنَّةِ ۖ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٥﴾

ye hain wo jin ki nekiya hum qabool farmayenge aur unki tasweero se dar guzar farmayenge jannat waalo mein sachha waada jo unhein diya jaata hai (16)

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ ابِّ لِّكُمَا اتَّعَدْتُمْنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي ۗ

وَهُمَا يَسْتَنْغِشْنَ اللَّهَ وَيُبَلِّغَنَّكَ آمِنًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قَيُّقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ

الْأُولَيْنِ ⑩

aur wo jisne apne maa baap se kaha uf tumse dil pak gaya kya mujhe ye waada dete ho ke phir zinda kiya jaunga halanki mujhse pehle sangatein guzar chuki aur wo dono allah se faryad karte hain teri kharabi ho imaan la beshak allah ka waada sachha hai to kehta hai ye to nahin magar aglo ki kahaniya (17)

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَ

الْإِنْسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خُسِرِينَ ⑪

ye wo hain jin par baat saabit ho chuki un giroho mein jo unse pehle guzre jinn aur aadmi beshak wo zian kaar the (18)

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ⑫

aur har ek ke liye apne apne amal ke darje hain aur taaki allah unke kaam unhein poore bhar de aur un par zulm na hoga (19)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ ۗ أَذْهَبْتُمْ طِبَابْتَكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَ

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۗ فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ ۖ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ بِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ⑬

aur jis din kafir aag par pesh kiye jayenge unse farmaya jayega tum apne hissa ki paak cheezein apni dunya hi ki zindagi mein fana kar chuke aur unhein barat chuke to aaj tumhein zillat ka azaab badla diya

jayega saza uski ke tum zameen mein nahaq takabbur karte the aur saza iski ke hukm udooli karte the (20)

وَ اذْكُرْ اَخَا عَادٍ ؕ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّوْدُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ

مِنْ خَلْفِهِ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ؕ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿٢٠﴾

aur yaad karo aad ke hum qaum ko jab usne unko sarzameene ahqaaf mein daraya aur beshak usse pehle dar sunane waale guzar chuke aur uske baad aaye ke allah ke siwa kisi ko na pujo beshak mujhe tum par ek bade din ke azaab ka andesha hai (21)

قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِتَاغُوتِنَا عَنِ الْهَيْتِنَا ؕ قَاتِنَا بِمَا تَعِدُّنَا اِنْ كُنْتِ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٢١﴾

bole kya tum isliye aaye ke humein humare maboodo se pher do to hum par laao jiska humein waada dete ho agar tum sachhe ho (22)

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اَبْلِغْكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَ لَكِنِّىْ اَرَاكُمْ قَوْمًا

تَجْهَلُوْنَ ﴿٢٢﴾

usne farmaya iski khabar to allag hi ke paas hai main to tumhein apne rab ke payaam pahunchata hoon haan haan meri daanist mein tum nire jahil log ho (23)

فَلَبَّآ رَاوُهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ ؕ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّنْطَرِنَا ؕ بَلْ هُوَ مَا

اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِىْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٣﴾

phir jab unhone azaab mo dekha baadal ki tarah aasman ke kinare mein phaila hua unki wadiyo ki taraf aata bole ye baadal hai ke hum par barsega balki ye to wo hai jiski tum jaldi machate the ek aandhi hai jis mein dardnak azaab (24)

تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۗ كَذَلِكَ نَجْزِي
الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

har cheez ko tabaah kar daalti hai apne rab ke hukm se to subah reh gaye ke nazar na aate the magar unke soone makaan hum aisi hi saza dete hain mujrimo ko (25)

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِي مِائِينَ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً ۗ فَمَا
أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾

aur beshak humne unhein wo maqdoor diye the jo tum ko na diye aur unke liye kaan aur aankh aur dil banaye to unke kaan aur aankhein aur dil kuchh kaam na aaye jabki wo allah ki aayato ka inkaar karte the aur unhein gher liya us azaab ne jiski hanshi banate the (26)

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾

aur beshak humne halaak kar di tumhare aas paas ki bastiya aur tarah tarah ki nishaniya laaye ke wo baaz aayein (27)

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً ۗ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۗ وَ
ذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

to kyun na madad ki unki jinko unhone allah kr siwa qurb haasil karne ko khuda thehra rakha tha wo unse gum gaye aur ye unka bohtan wa iftera hai (28)

وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ۗ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا

أَنْصِتُوا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾

aur jabki humne tumhari taraf kitne jinn phere kaan laga kar quran sunte phir jab wahan haazir hue aapas mein bole khamosh raho phir jab padhna ho chuka apni qaum ki taraf dar sunate palte (29)

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي

إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

bole aye humari qaum humne ek kitab suni ke moosa ke baad utaari gai agli kitabi ki tasdeeq farmati haq aur seedhi raah dikhati (30)

يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزَّكُمْ مِّنْ

عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٣١﴾

aye humari qaum allah ke munadi ki baat maano aur us par imaan laao ke wo tumhare kuchh gunah bakhsh de aur tumhein dardnak azaab se bacha le (31)

وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۗ

أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

aur jo allah ke munaadi ki baat na maane wo zameen mein qaabu se nikal kar jaane waala nahin aur allah ke saamne uska koi madadgar nahin wo khuli gumrahi mein hain (32)

أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَعْزِبْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلٰى

أَنْ يُبْعِي الْمَوْتِي ۗ بَلٰى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٣٣﴾

kya unhone na jaana ke wo allah jis ne aasman aur zameen banaye aur unke banane mein na thaka qadir hai ke murde jilaye kyun nahin beshak wo sab kuchh kar sakta hai (33)

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۗ
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾

aur jis din kafir aag par pesh kiye jayenge unse farmaya jayega kya ye haq nahin kahenge kyun nahin humare rab ki qasam farmaya jayega to azaab chakho badla apne kufir ka (34)

فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۗ كَانَهُمْ يَوْمَ
يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۗ فَبَلِّغْ ۗ فَهَلْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ
الْفَاسِقُونَ ﴿٣٤﴾

to tum sabr karo jaisa himmat waale rasoolo ne sabr kiya aur unke liye jaldi na karo goya wo jis din dekhenge jo unhein waada diya jaata hai dunya mein na thehre the magar din ki ek ghadi bhar ye pahunchana hai to kaun halaak kiye jayenge magar be hukm log (35)

Surah Muhammad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

jinhone kufr kiya aur allah ki raah se roka allah ne unke amal barbad kiye (1)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝

aur jo imaan laaye aur achhe kaam kiye aur us par imaan laaye jo muhammad par utara gaya aur wahi unke rab ke paas se haq hai allah ne unki buraiya utaar di aur un ki halatein sanwaar dein (2)

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ۝

ye isliye ke kafir batil ke pairu hue aur imaan waalo ne haq ki pairwi ki ho unke rab ki taraf se hai allah logon se unke ahwaal yunhi bayaan farmata hai (3)

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَانَ ۗ فَمَا مَثًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً ۗ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

to jab kafiro se tumhara samna ho to gardanein maarna hai yahan tak ke jab unhein khoob qatl kar lo to mazboot baandho phir uske baad chahe ehsaan kar ke chhod do chahe fidya le lo yahan tak ke ladai apna bojh rakh de baat ye hai aur allah chahta to aap hi un se badla leta magar isliye ke tum ek dusre se jaanche

aur jo allah ki raah mein maare gaye allah hargiz unke amal zaaya na farmayega (4)

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِالْهَمِّ ۝

jald unhein raah dega aur unka kaam bana dega (5)

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

aur unhein jannat mein le jayega unhi ki pehchan kara di hai (6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۝

aye imaan waalo agar tum deene khuda ki madad karoge allah tumhari madad karega aur tumhare qadam jama dega (7)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

aur jinhone kufr kiya to un par tabahi pade aur allah unke amaal barbad karde (8)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝

ye isliye ke unhein nagawar hua jo allah ne utara to allah ne un ka kiya dhara akarati kiya (9)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ

اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالَهَا ۝

to kya unhone zameen mein safar na kiya ke dekhte unse aglo ka kaisa anjaam hua allah ne un par tabahi daali aur un kafiro ke liye bhi waisi kitni hi hain (10)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ۝

ye isliye ke musalmano ka maula allah hai aur kafiro ka

koi maula nahin (11)

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١١﴾

beshak allah dakhil farmayega unhein jo imaan laaye aur achhe kaam kiye baagho mein jinke neechे nehrein rawaan aur kafir baratte hain aur khaate hain jaise chaupaye khayein aur aag mein unka thikana hai

(12)

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ ۚ أَهْلَكَنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٢﴾

aur kitne hi shehar ke us shehar se quwwat mein zyada the jisne tumhein tumhare shehar se baahar kiya humne unhein halaak farmaya to unka koi madadgar nahin (13)

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَبِينَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيَّنَّ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٣﴾

to kya jo apne rab ki taraf se raushan daleel par ho us jaisa hoga jiske bure amal use bhale dijhaye gaye aur wo apni khwahisho ke pichhe chale (14)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۚ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِ بَيْنَ ۚ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۚ وَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٤﴾

ahwaal us jannat ka jis ka waada parhezgaro se hai us mein aisi paani ki nehrein hain jo kabhi na bigde aur

aise doodh ki nehrein hain jis ka maza na badla aur aisi sharab ki nehrein hain jo saaf kiya gaya aur unke liye us mein har qism ke phal hain aur apne rab ki maghfirat kya aise chain waale unke barabar ho jaayenge jinhein humesha aag mein rehna aur unhein khaulta paani pilaya jaaye ke aanto ke tukde tukde kar de (15)

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۗ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا
أَهُوَ آهَهُمْ ﴿١٥﴾

aur un mein se baaz tumhare irshad sunte hain yahan tak ke jab tumhare paas se nikal kar jaayein ilm waalo se kehte hain abhi unhone kya farmaya ye hain wo jin ke dilo par allah ne muhar kar di aur apni khwahisho ke taabe hue (16)

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًىٰ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٦﴾

aur jinhone raah paai allah ne unki hidayat aur zyada farmai aur unki parhezgari unhein ata farmai (17)

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا
جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ﴿١٧﴾

to kaahe ke intezar mein hain magar qiyamat ke ke un par achanak aa jaye ke uski alamatein to aa hi chuki hain phir jab wo aa jaayegi to kahan wo aur kahan un ka samajhna (18)

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ

يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾

to jaan lo ke allah ke siwa kisi ki bandagi nahin aur aye mahboob apne khaaso aur aam musalman mardo aur aurato ke gunaho ki muaafi maango aur allah jaanta hai din ko tumhara phirna aur raat ko tumhara aaram lena (19)

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَّلَتْ سُورَةٌ فَأِذَا نَزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذِكْرٌ فِيهَا الْقِتَالِ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ طَقَاوُلِي لَهُمْ ﴿٢٠﴾

aur musalman kehte hain koi soorat kyun na utari gai phir jab koi pukhta soorat utaari gai aur us mein jihad ka hukm farmaya gaya to tum dekhoge unhein jin ke dilo mein beemari hai ke tumhari taraf uska dekhna dekhte hain jis par murdani chhai ho to unke haq mein behtar ye tha (20)

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَأِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صدَقُوا اللهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴿٢١﴾

ke farmanbardari karte aur achhi baat kehte phir jab natiq ho chuka to agar allah se sachhe rehte to unka bhala tha (21)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

to kya tumhare ye lachchhan nazar aate hain ke agar tumhein hukumat mile to zameen mein fasaad phailao aur apne rishte kaat do (22)

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

ye hain wo log jin par allah ne lanat li aur unhein haq

se behra kar diya aur unki aankhein phod di (23)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٣﴾

to kya wo quran ko sochte nahin ya baaze dilo par unke qul lage hain (24)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ۗ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۗ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٤﴾

beshak wo jo apne pichhe palat gaye baad iske ke hidayat un par khul chuki thi shaitan ne unhein fareb diya aur unhein dunya mein muddato rehne ki ummeed dilai (25)

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٥﴾

ye isliye ke unhone kaha un logon se jinhein allah ka utaara hua nagawaar hai ek kaam mein tumhari manenge aur allah unki chhapi hui jaanta hai (26)

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

to kaisa hoga jab firishte unki rooh qabz karenge unke moonh aur unki peethein maarte hue (27)

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَاحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٧﴾

ye isliye ke wo aisi baat ke taabe hue jis mein allah ki narazi hai aur uski khushi unhein gawara na hui to usne unke aamaal akarat kar diye (28)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٨﴾

kya jin ke dilo mein beemari hai is ghamand mein hain

ke allah unke chhupe bair zaahir na farmayega (29)

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ ۖ وَكَتَعَرِّفْنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۖ وَ

اللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٢٩﴾

aur agar hum chahein to tumhein un ko dikha dein ke tum unki soorat se pehchan lo aur zaroor tum unhein baat ke usloob mein pehchan loge aur allah tumhare amal jaanta hai (30)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ۖ وَنَبْلُوَنَّكُمْ ۖ

aur zaroor hum tumhein janchenge yahan tak ke dekh lein tumhare jihad karne waalo aur sabiro ko aur tumhari khabrein aazma lein (31)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ

لَهُمُ الْهُدَىٰ ۖ لَنَ يُضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۖ وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ ﴿٣٢﴾

beshak wo jinhone kufri kiya aur allah ki raah se roka aur rasool ki mukhalifat ki baad iske ke hidayat un par zaahir ho chuki thi wo hargiz allah ko kuchh nuqsan na pahunchayenge aur bahut jald allah unka kiya dhara akarat kar dega (32)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾

aye imaan waalo allah ka hukm maano aur rasool ka hukm maano aur apne amal batil na karo (33)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ

لَهُمْ ﴿٣٤﴾

beshak jinhone kufri kiya aur allah ki raah se roka phir

kafir hi mar gaye to allah hargiz unhein na bakhshega
(34)

فَلَا تَهْنُؤْا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ ط وَ أَنْتُمْ الْأَعْلُونَ ط وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

to tum susti na karo aur aap suleh ki taraf na bulao aur
tum hi ghalib aaoge aur allah tumhare saath hai aur
wo hargiz tumhare aamaal mein tumhein nuqsan na
dega (35)

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ ط وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا
يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴿٣٦﴾

dunya ki zindagi to yahi khel kood hai aur agar tum
imaan laao aur parhezgari karo to wo tum ko tumhare
sawaab ata farmayega aur kuchh tumse tumhare maal
na mangega (36)

إِنْ يَسْأَلُكُمْ هَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُوا وَ يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ﴿٣٧﴾

agar unhein tumse talab kare aur zyada talab kare tum
bukhl karoge aur wo bukhl tumhare dilo ke mail zaahir
kar dega (37)

هَآنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؕ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ ؕ وَمَنْ
يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ ؕ وَاللَّهُ الْعَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ؕ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ؕ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴿٣٨﴾

haan haan ye jo tum ho bulaye jaate ho ke allah ki raah
mein kharch karo to tum mein koi bukhl karta hai aur
jo bukhl kare wo apni hi jaan par bukhl karta hai aur jo

bukhl kare wo apni hi jaan par bukhl karta hai aur allah be niyaz hai aur tum sab muhtaj aur agar tum moonh phero to wo tumhare siwa aur log badal lega phir wo tum jaise na honge (38)

Surah Fateh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝

beshak humne tumhare liye raushan fateh farma di (1)

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝

taaki allah tumhare sabab se gunah bakhshhe tumhare aglo ke aur tumhare pichhlo ke aur apni nematein tum par tamam kar de aur tumhein seedhi raah dikha de (2)

وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ۝

aur allah tumhari zabardast madad farmaye (3)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۝

لِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

wahi hai jis ne imaan waalo ke dilo mein itmenan utara taaki unhein yaqeen par yaqeen badhe aur allah hi ki milk hain tamam lashkar aasmano aur zameen ke aur

allah ilmo hikmat waala hai (4)

لِيُدْخَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ
يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝

taaki imaan waale mardo aur imaan waali aurato ko
baagho mein le jaaye jinke niche nehrein rawaan
humesha un mein rahein aur unki buraiya unse utaar
de aur ye allah ke yahan badi kamyabi hai (5)

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ
السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

aur azaab de munafiq mardo aur munafiq aurato aur
mushrik mardo aur mushrik aurato ko jo allah par
bura gumaan rakhte hain aur unhi par hai buri gardish
aur allah ne un par ghazab farmaya aur unhein lanat ki
aur unke liye jahannam tayyar farmaya aur wo kya hi
bura anjaam hai (6)

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

aur allah hi ki milk hain aasmano aur zameen ke sab
lashkar aur allah izzat wa hikmat waala hai (7)

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

beshak humne tumhein bheja haziro nazir aur khushi
aur dar sunata (8)

لَتَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْعَزِرْ رُوحَهُ وَتُوقِّرْ رُوحَهُ ۗ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

taaki aye logon tum allah aur uske rasool par imaan

laao aur rasool ki tazeemo tauqeer karo aur subho shaam allah ki paaki bolo (9)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۗ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۗ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

wo jo tumhari bai'at karte hain wo to allah hi se bai'at karte hain unke haatho par allah ka haath hai to jisne ahad toda usne apne bade ahad ko toda aur jis ne poora kiya wo ahad jo usne allah se kiya tha to bahut jald allah use bada sawaab dega (10)

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۗ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلْ فَمَنْ يَبْدُلُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۗ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

ab tumse kahenge jo ganwaar pichhe reh gaye the ke humein humare maal aur humare ghar waalo ne jaane se mashghool rakha ab huzoor humari maghfirat chahein apni zubano se wo baat kehte hain jo unke dilo mein nahin tum farmao to allah ke saamne kise tumhara kuchh ikhteyar hai agar wo tumhara bura chahe ya tumhari bhalai ka irada farmaye balki allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (11)

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنَ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ۖ وَزَيَّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۗ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝

balki tum to ye samjhe hue the ke rasool aur musalman hargiz gharo ko wapas na aayenge aur usi ko apne dilo mein bhala samjhe hue the aur tumne

bura gumaan kiya aur tum halaak hone waale log the
(12)

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٢﴾

aur jo imaan na laaye allah aur uske rasool par to
beshak humne kafiro ke liye bhadakti aag tayyar kar
rakhi hai (13)

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعْظِمُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣﴾

aur allah hi ke liye hai aasmano aur zameen ki saltanat
jise chahe bakhshne aur jise chahe azaab kare aur allah
bakhshne waala meharbaan hai (14)

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوا مِنْهَا ذَرُوتَا تَتَّبِعُكُمْ ؕ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ۗ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ؕ
فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونََنَا ۗ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤﴾

ab kahenge pichhe baith rehne waale jab tum
ghanimatein lene chalo to humein bhi apne pichhe
aane do wo chahte haib allah ka kalaam badal dein
tum farmao hargiz tum humare saath na aao allah ne
pehle se yunhi farma diya hai to ab kahenge balki tum
humse jalte ho balki wo baat na samajhte the magar
thodi (15)

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّ عَوْنِ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ
يُسَلِّمُونَ ؕ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۗ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ
قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٥﴾

un pichhe reh gaye ganwaro se farmao anqareeb tum ek sakht ladai waali qaum ki taraf bulaye jaoge ke unse lado ya wo musalman ho jaayein phir agar tum farman manoge allah tumhein achha sawaab dega ur agar phir jao jaise pehle phir gaye to tumhein dardnak azaab dega (16)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَدِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

andhe par tangi nahin aur na langde par muzaiqa aur na beemar par mwakhiza aur jo allah aur uske rasool ka hukm maane allah use baagho mein le jayega jinke niche nehrein rawaan aur jo phir jayega use dardnak azaab farmayega (17)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

beshak allah raazi hua imaan waalo se jab wo us ped ke niche tumhari bai'at karte the to allah ne jaana jo unke dilo mein hai to un par itmenan utara aur unhein jald aane waali fateh ka inaan diya (18)

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

aur bahut si ghanimatein jin ko li aur allah izzat wa hikmat waala hai (19)

وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝

aur allah ne tumse waada kiya hai bahut si ghanimato ka ke tum loge to tumhein ye jald ata farma di aur logon ke haath tum se rok diye aur isliye ke imaan waalo ke liye nishani ho aur tumhi seedhi raah dikha de (20)

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٠﴾

aur ek aur jo tumhare bal ki na thi wo allah ke qabza mein hai aur allah har cheez par qadir hai (21)

وَلَوْ قَتَلْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَوَاءَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢١﴾

aur agar kafir tumse ladein to zaroor tumhare muqabla se peeth pher denge phir na koi himayati payenge na madadgar (22)

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٢﴾

allah ka dastoor hai ke pehle se chala aata aur hargiz tum allah ka dastoor badalta na paoge (23)

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ

أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٣﴾

aur wahi hai jisne unke haath tum se rok diye aur tumhare haath un se rok diye waadiye makka mein baad iske ke tumhein un par qabu de diya tha aur allah tumhare kaam dekhta hai (24)

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ

مَجَلَّهُ ۗ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ

فَتَصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ لَوْ

تَزَيَّلُوا الْعَذَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

wo wo hain jinhone kufri kiya aur tumhein masjide haraam se roka aur qurbani ke janwar ruk pade apni jagah pahunchne se aur agar ye na hota kuchh musalman mard aur kuchh musalman auratein jin ki tumhein khabar nahin kahin tum unhein raund daalo to tumhein unki taraf se anjani mein koi makrooh pahunchne to hum tumhein un ke qitaal ki ijazat dete unka ye bachao isliye hai ke allah apni rahmat mein dakhil kare jise chahe agar wo juda ho jaate to hum zaroor un mein ke kafiro ko dardnak azaab dete (25)

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَبِيَّةَ الْحَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

jab ke kafiro ne apne dilo mein ad rakhi wahi zamana - e- jahiliyat ki ad to allah ne apna itmenan apne rasool aur imaan waalo par utara aur parhezgari ka kalima un par lazim farmaya aur wo uske zyada sazawaar aur ahal the aur allah sab kuchh jaanta hai (26)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّعْيَا بِالْحَقِّ ۗ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ۚ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ۚ لَا تَخَافُونَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

beshak allah ne sach kar diya apne rasool ka sachha khwab beshak tum zaroor masjide haraam mein dakhil hoge agar allah chahe amno amaan se apne saro ke

baal mundaate ya tarashwate be khauf to usne jaana
jo tumhein maloom nahin to isse pehle ek nazdeek
aane waali fateh rakhi (27)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

wahi hai jisne apne rasool ko hidayat aur sachhe deen
ke saath bheja ke use sab deeno par ghalib kare aur
allah kaafi hai gawah (28)

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ ۗ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۗ ۝ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ۗ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شَطَطًا فَازَّرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ
وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

muhammad allah ke rasool hain aur unke saath waale
kafiro par sakht hain aur aapas mein narm dil to
unhein dekhega ruku karte sajde mein girte allah ka
fazl wa raza chahte unki alamat unke chehro mein hai
sajdo ke nishan se ye unki sifat taurait mein hai aur
unki sifat injeel mein jaise ek kheti unse apna pattha
nikala phir use taaqat di phir dabeez hui phir apni saaq
par seedhi khadi hui kisano ko bhali lagti hai taaki unse
kafiro ke dil jalein allah ne waada kiya unse jo un mein
imaan aur achhe kaamo waale hain bakhshish aur
bade sawaab ka (29)

Surah Hujuraat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا أَيْدِيَكُمْ عَلَى أَيْدِي النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

aye imaan waalo allah aur uske rasool se aage na badho aur allah se daro beshak allah sunta jaanta hai
(1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

aye imaan waalo apni aawazein unchi na karo us ghaib batane waale (nabi) ki aawaz se aur unke huzoor baat chilla kar na kaho jaise aapas mein ek dusre ke saamne chillate ho ke kahin tumhare amal akarat na ho jaayein aur tumhein khabar na ho (2)

إِنَّ الَّذِينَ يُعْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ
قُلُوبَهُمْ لِتَتَّقُوا ۝ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

beshak wo jo apni aawazein past karte hain rasoolullah ke paas wo hain jin ka dil allah ne parhezgari ke lmao parakh liya hai unke liye bakhshish aur bada sawaab hai (3)

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

beshak wo jo tumhein hujro ke baahar se pukaarte hain un mein aksar be aql hain (4)

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

aur agar wo sabr karte yahan tak ke tum aap un ke paas tashreef laate to ye unke liye behtar tha aur allah bakhshne waala meharbaan hai (5)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

aye imaan waalo agar koi fasiq tumhare paas koi khabar laaye to tehqeeq kar lo ke kahin kisi qaum ko be jaane iza na de baitho phir apne kiye par pachhtate reh jaao (6)

وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۗ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّشِدُونَ ﴿٧﴾

aur jaan lo ke tum mein allah ke rasool hain bahut muamlo mein agar ye tumhari khushi karein to tum zaroor mashaqqat mein pado lekin allah ne tumhein imaan pyara kar diya hai aur use tumhare dilo mein nagawar kar di aise hi log raah par hain (7)

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

allah ka fazl aur ehsaan aur allah ilmo hikmat waala hai (8)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَىٰ

الْأُخْرَى فَقَاتُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

aur agar musalmano ke do giroh aapas mein ladein to un mein sulah karao phir agar ek dusre par zyadati kare to us zyadati waale se ladi yahan tak ke wo allah ke hukm ki taraf palat aaye phir agar palat aaye to insaf ke saatg un mein islah kar do aur adal karo beshak adal waale allah ko pyaare hain (9)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

musalman musalman bhai hain to apne do bhaiyo mein sulah karo aur allah se daro ke tum par rahmat ho (10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْبِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا
بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۝

aye imaan waalo na mard mardo se hansein ajab nahin ke wo un hansne waalo se behtar hon aur na auratein aurato se door nahin ke wo un hansne waaliyo se behtar hon aur aapas mein taana na karo ek dusre ke bure naam na rakho kya hi bura naam hai musalman ho kar fasiq kehlana aur jo tauba na karein to wahi zalim hain (11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

وَلَا يَغْتَنبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا ۖ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۖ^ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾

aye imaan waalo bahut gumaano se bacho beshak koi gumaan gunah ho jaata hai aur aib na dhoondo aur ek dusre ki ghaeebat na karo kya tum mein koi pasand rakhega ke apne mare bhai ka gosht khaye to ye tumhein gawara na hoga aur allah se daro beshak allah bahut tauba qabool karne waala meharbaan hai

(12)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ^ط
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٥﴾

aye logon! humne tumhein ek mard aur ek aurat se paida kiya aur tumhein shaakhein aur qabile kiya ke aapas mein pehchan rakho beshak allah ke yahan tum mein zyada izzat waala wo jo tum mein zyada parhezgar hai beshak allah janne waala khabardar hai

(13)

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۗ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥﴾

ganwaar bole hum imaan laaye tum farmao tum imaan to na laaye yun kaho ke hum mutee hue aur abhi imaan tumhare dilo mein kahan dakhil hua aur agar tum allah aur uske rasool ki farmanbardari karoge to tumhare kisi amal ka tumhein nuqsan na dega beshak

allah bakhshne waala meharbaan hai (14)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزُوا فِي دِينِهِمْ وَابْتِغَاءَ مَوْلَاةٍ أَوْ مَوْلَاةٍ أَوْ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٥٠﴾

imaan waale to wahi hain jo allah aur uske rasool par imaan laaye phir shak na kiya aur apni jaan aur maal se allah ki raah mein jihad kiya wahi sachhe hain (15)

قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

tum farmao kya tum allah ko apna deen batatale ho aur allah jaanta hai ho kuchh aasmano meij aur jo kuchh zameen mein hai aur allah sab kuchh jaanta hai (16)

يَسْتُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۗ قُلْ لَا تَتَّبِعُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۗ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٥٢﴾

aye mahboob wo tum par ehsan jatate hain ke musalman ho gaye tum farmao apne islam ka ehsan mujh par na rakho balki allah tum par ehsan rakhta hai usne tumhein islam ki hidayat ki agar tum sachhe ho (17)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

beshak allah jaanta hai aasmano aur zameen ke sab ghaib aur allah tumhare kaam dekh raha hai (18)

Surah Qaaf

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat wala

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝

qaaf, izzat wale qur'an ki qasam (1)

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكُفْرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝

balki unhen iska achambha hua ke unke paas unhi me ka ek darr sunane wala tashreef laya to kafir bole ye to ajeeb baat hai (2)

إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۝

kya jab hun mar jayen aur mitti jo jayenge fir jiyenge ye palatna door h (3)

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ۖ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝

hum jante hain jo kuchh zameen unme se ghatati hai aur hamare paas ek yaad rakhne wali kitab hai (4)

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ۝

balki unhone haqq ko jhuthlaya jab wo unke paas aaya to ek muztarib be-sibaat baat me hai (5)

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝

to kya unhone apne upar aasman ko na dekha humne ise kaisa banaya aur sanwaara aur usme kahin rakhna

nahi (6)

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوْاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

aur zameen ko humne failaya aur usme langar daale
aur har ba-raunaq joda ugaya (7)

تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

soojh aur samajh har ruju' wale bande ke liye (8)

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝

aur humne aasman se barkat wala paani utara to usse
baagh ugaye aur anaaj ke kata jata hai (9)

وَالنَّخْلَ بَسَقَتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝

aur khajoor ke lambe darakht jinka pakka gaabha (10)

رَزَقًا لِّلْعِبَادِ ۝ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا ۝ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝

bando ki rozi ke liye aur humne us se murda shehar
jilayaa yunhi qabro se tumhara nikalna hai (11)

كَذَّبتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝

unse pehle jhuthlaya nooh ki qaum aur ras walon aur
samood (12)

وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝

aur aad aur firaun aur loot ke hum qaumo (13)

وَأَصْحَابُ الْآيَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۝ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝

aur ban walon aur tubba' ki qaum ne unme har ek ne
rasoolo ko jhuthlaya to mere azaab ka wada sabit ho
gaya (14)

أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

to kya hum pehli baar bana kar thal gaye balki wo naye banne se shub'ha me hain (15)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْمَا تَوْسُوْسُ بِهِ نَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ

حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿١٦﴾

aur beshak humne aadmi ko paida kiya aur hum jante hain jo waswasa uska nafs daalta hai aur hum dil ki rag se bhi usse zyada nazdeek hain (16)

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾

jab usse lete hain do lene wale ek dahine baitha aur ek baaye (17)

مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾

koi baat wo zabaan se nahi niklata ke uske paas ek muhafiz taiyar na baitha ho (18)

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾

aur aayi maut ki sakhti haqq ke sath ye hai jisse tu bhagta tha (19)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۗ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾

aur soor phoonka gaya ye hai waada e azaab ka din (20)

وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

aur har jaan yun hazir hui ke uske sath ek haankne wala aur ek gawah (21)

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾

beshak tu isse ghaflat me tha to humne tujh par se
parda uthaya to aaj teri nigaah tez hai (22)

وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿٢٢﴾

aur uska hum nasheen farishta bola ye hai jo mere
paas hazir hai (23)

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴿٢٣﴾

hukm hoga tum dono jahannam me daal do har bade
nashukre hate dharm ko (24)

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٤﴾

jo bhalai se bahut rokne wala hadd se badhne wala
shak karne wala (25)

الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٥﴾

jisne allah ke sath koi aur ma'abood thehraya tum
dono use sakht azaab me daalo (26)

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٢٦﴾

uske sathi shaitan ne kaha humare rabb maine use
sarkash na kiya haan ye aap hi door ki gumrahi me tha
(27)

قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ﴿٢٧﴾

farmayega mere paas na jhagdo mai tumhen pehle hi
azaab ka darr suna chuka tha (28)

مَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿٢٨﴾

mere yahan baat badalti nahi aur na mai bando par
zulm karun (29)

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴿٣٠﴾

jis din hum jahannam se farmayenge kya tu bhar gayi
wo arz karegi kuchh aur zyada hai (30)

وَأَزْلَفَتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾

aur paas laayi jayegi jannat parhezgaro ke ki unse door
na hogi (31)

هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾

ye hai wo jiska tum wada diye jate jo har ruju' laane
wale nigahdaasht wale ke liye (32)

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾

jo rahman se be-dekhe darta hai aur ruju' karta hua dil
laye (33)

ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾

unse farmaya jayega janmat me jao salamati ke sath ye
hameshgi ka din hai (34)

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

unke liye hai isme jo chahe aur hamare paas usse bhi
zyada hai (35)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ ۗ هَلْ مِنْ

مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾

aur unse pehle humne kitni sangate halaak farma di ke
girift me unse sakht thi to sheharo me kawishen ki hai
kahin bhaag e ki jagah (36)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾

beshak isme nasihat hai uske liye jo dil rakhta ho ya kaan lagaye aur mutawajjeh ho (37)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿٣٧﴾

aur beshak humne aasmano aur zameen ko aur jo kuchh unke darmiyan hai chheh(6) din me banaya aur takaan hamare paas na aayi (38)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ﴿٣٨﴾
to unki baaton par sabr karo aur apne rabb ki taseef karte hue uski paaki bolo sooraj chamakne se pehle aur doobne se pehle (39)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ﴿٣٩﴾
aur kuchh raat gaye uski tasbeeh karo aur namazo ke baad (40)

وَاسْتَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادُ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤٠﴾
aur kaan laga kar suno jis din pukaarne waala pukarega (41)

يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤١﴾
jis din chinghaad sunenge haq ke saath ye din hai qabro se baahar aane ka (42)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ۗ وَاللَّيْنَا الْمَبْصِيرُ ﴿٤٢﴾
beshak hum jilayein aur hum maarein aur humari taraf phirna hai (43)

يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۗ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿٤٣﴾

jis din zameen unse phategi to jaldi karte hue niklenge
ye hashr hai humko aasan (44)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ
وَعَيْدًا ۝

hum khoob jaan rahe hain jo wo keh rahe hain aur
kuchh tum un par jabr karne waale nahin to quran se
naseehat karo use jo meri dhamki se dare (45)

Surah Zariyaat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالذُّرِّيَّتِ ذُرْوًا ۝

qasam unki jo bikher kar udaane waaliya (1)

فَالْحَبْلِ وَقُرًا ۝

phir bojh uthane waaliya (2)

فَالْجُرَيْتِ يُسْرًا ۝

phir narm chalne waaliya (3)

فَالْمُقْسِتِ أَمْرًا ۝

phir hukm se baantne waaliya (4)

إِنَّمَا تَوْعَدُونَ لَصَادِقًا ۝

beshak jis baat ka tumhein waada diya jaata hai zaroor
sach hai (5)

وَإِنَّ الدَّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝

aur beshak insaf zaroor hona (6)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝

aaraish waale aasman ki qasam (7)

إِنكُم لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝

tum mukhtalif baat mein ho (8)

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۝

is quran se wahi aundha kiya jaata hai jis ki qismat hi
mein aundhaya jaana hai (9)

فَتِنَا الْخَرِصُونَ ۝

maare jaayein dil se tarashne waale (10)

الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۝

jo nashe mein bhule hue hain (11)

يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمِ الدِّينِ ۝

puchhte hain insaf ka din kab hoga (12)

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ۝

us din hoga jis din wo aag par tapaye jayenge (13)

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ۝

aur farmaya jayega chakho apna tapna ye hai wo jiski
tumhein jaldi thi (14)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝

beshak parhezgar baagho aur chashmo mein hain (15)

أَخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝

apne rab ki atayein lete hue beshak wo isse pehle
nekokaar the (16)

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٦﴾

wo raat mein kam soya karte (17)

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٧﴾

aur pichhli raat istighfar karte (18)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٨﴾

aur unke maalo mein haq tha mangta aur be naseeb
ka (19)

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

aur zameen mein nishaniya hain yaqeen waalo ko (20)

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٠﴾

aur khud tum mein to kya tumhein soojhta nahin (21)

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢١﴾

aur aasman mein tumhara rizq hai aur jo tumhein
waada diya jaata hai (22)

فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴿٢٢﴾

to aasman aur zameen ke rab ki qasam beshak ye
quran haq hai waisi hi zubaan mein jo tum bolte ho
(23)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٣﴾

aye mahboob kya tumhare paas ibrahim ke muazzaz
mahmano ki khabar aai (24)

إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۗ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿٢٥﴾

jab wo uske paas aa kar bole salaam kaha salaam
nashanaa log hain (25)

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَبِيحٍ ﴿٢٦﴾

phir apne ghar gaya to ek farba bachhda le aaya (26)

فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٧﴾

phir use unke paas rakha kaha kya tum khaate nahin
(27)

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمٍ عَلَيْهِمِ ﴿٢٨﴾

to apne jee mein unse darne laga wo bole dariye nahin
aur use ek ilm waale ladke ki basharat di (28)

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَاطَةٍ فَصَكَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾

is par uski bibi chillati aai phir apna maatha thonka aur
boli kyq budhya baanjh (29)

قَالُوا كَذَلِكَ ۗ قَالَ رَبُّكَ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

unhone kaha tumhare rab ne yun hi farma diya hai aur
wahi hakeem daana hai (30)

Sattaiswa Paarah

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾

ibrahim ne farmaya to aye firishto tum kis kaam se
aaye (31)

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

bole hum ek mujrim qaum ki taraf bheje gaye hain (32)

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ ﴿٣٣﴾

ke un par gaare ke banaye hue patthar chhodein (33)

مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾

jo tumhare rab ke paas hadd se badhne waalo ke liye
nishan kiye rakhe hain (34)

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾

to humne us shehar mein ho imaan waale the nikaal
liye (35)

فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾

to humne wahan ek hi ghar musalman paaya (36)

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾

aur humne us mein nishani baaqi rakhi unke liye jo
dardnak azaab se darte hain (37)

وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾

aur moosa mein jab humne use raushan sanad le kar
firaun ke paas bheja (38)

فَتَوَلَّى بِرُكُنِهِ وَقَالَ لَجِدُ آوْ مَجْنُونٌ ﴿٣٩﴾

to apne lashkar samet phir gaya aur bola jadugar hai
ya deewana (39)

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٠﴾

to humne use aur uske lashkar ko pakad kar darya
mein daal diya is haal mein ke wo apne aap ko
malamat kar raha tha (40)

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ ﴿٤١﴾

aur aad mein jab humne un par khushk aandhi bheji
(41)

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

jis cheez par guzarti use gali hui cheez ki tarah chhodti
(42)

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

aur samood mein jab unse farmaya gaya ek waqt tak
barat lo (43)

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذْتَهُمُ الصَّعِقَةَ وَالْحُكْمَ يَنْظُرُونَ ﴿٤٤﴾

to unhone apne rab ke hukm se sarkashi ki to unki
aankho ke saamne unhein kadak ne aa liya (44)

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

to wo na khade ho sake aur na wo badla le sakte the
(45)

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٤٦﴾

aur unse pehle qaume nooh ko halaak farmaya wo

fasiq log the (46)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٦﴾

aur aasman ko humne haatho se banaya aur beshak hum wus'at dene waale hain (47)

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْبَهْدُونَ ﴿٤٧﴾

aur zameen ko humne farsh kiya to hum kya hi achhe bichhane waale (48)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٨﴾

aur humne har cheez ke do jod banaye ke tum dhyaan karo (49)

فَقِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾

to allah ki taraf bhago beshak main uski taraf se tumhare liye sareeh dar sunane waala hoon (50)

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

aur allah ke saath aur mabood na thehro, beshak main uski taraf se tumhare liye sareeh dar sunane waala hoon (51)

كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿٥١﴾

yunhi jab unse aglo ke paas koi rasool tashreef laaya to yahi bole ke jadugar hai ya deewana (52)

أَتَوَصَّوهُمْ بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٢﴾

kya aapas mein ek dusre ko ye baat keh kare hain balki wo sarkash log hain (53)

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ ﴿٥٣﴾

to aye mahboob tum unse moonh pher lo to tum par kuchh ilzaam nahin (54)

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُتَنَفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٤﴾

aur samjhao ke samjhana musalmano ko faida deta hai (55)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

aur main ne jinn aur aadmi itne hi liye banaye ke meri bandagi karein (56)

مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ ﴿٥٧﴾

main unse kuchh rizq nahin maangta aur na ye chahta hoon ke wo mujhe khana dein (57)

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿٥٨﴾

beshak allah hi bada rizq dene waala quwwat waala qudrat waala hai (58)

فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٥٩﴾

to beshak un zalimo ke liye azaab ki ek baari hai jaise unke saath waalo ke liye ek baari thi to mujhse jaldi na karein (59)

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٦٠﴾

to kafiro ki kharabi hai unke us din se jiska waada diye jaate hain (60)

Surah Toor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالطُّورِ ۝

toor ki qasam (1)

وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۝

aur us nawishta ki (2)

فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ۝

jo khule daftar mein likha hai (3)

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝

aur baite mamoor (4)

وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝

aur buland chhat (5)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝

aur sulgaye hue samundar ki (6)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝

beshak tere rab ka azaab zaroor hona hai (7)

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ۝

use koi taalne waala nahin (8)

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۝

jis din aasman hilna sa hilna hilenge (9)

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۝

aur pahad chalna sa chalna challenge (10)

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

to us din jhutlane waalo ki kharabi hai (11)

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۝

wo jo mashghala mein khel rahe hain (12)

يَوْمَ يُدْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ۝

jis din jahannam ki taraf dhakka de kar dhakele
jayenge (13)

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝

ye hai wo aag jise tum jhutlate the (14)

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝

to kya ye jaadu hai ya tumhein soojhta nahin (15)

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَاءَ عَلَيْكُمْ ۝ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ۝

is mein jao ab chahe sabr karo ya na karo sab tum
par ek sa hai tumhein usi ka badla jo tum karte the (16)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۝

beshak parhezgar baagho mein aur chain mein hain
(17)

فَكَيْفَ يَبْأَاتُهُمْ رَبُّهُمْ ۝ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

apne rab ki dain par shaad shaad aur unhein unke rab
ne aag ke azaab se bacha liya (18)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَدِيَّتَنَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

khao aur piyo khushgawari se sila apne aamaal ka (19)

مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَرَوَّحْنَهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾

takhto par takiya lagaye jo qataar laga kar bichhe hain
aur humne unhein byaah diya badi aankho wali
hooro se (20)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ

مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

aur jo imaan laaye aur unki awlaad ne imaan ke saath
unki pairwi ki humne unki awlaad unse mila di aur
unke amal mein unhein kuchh kami na di sab aadmi
apne kiye mein giraftar hain (21)

وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِغَاكِهِةٍ وَالْحَمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

to humne unki madad farmai mewe aur gosht se jo
chahein (22)

يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأَسَا لَ لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿٢٣﴾

ek dusre se lete hain wo jaam jis mein na behudgi aur
na gunahgari (23)

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَانَهُمْ لَوْلُو مَكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

aur unke khudmatgar ladke unke gird phirenge goya
wo moti hain chhupa rakhe gaye (24)

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

aur un mein ek ne dusre ki taraf moonh kiya puchhte
hue (25)

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

bole beshak isse pehle hum apne gharo mein sahme hue the (26)

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السُّمُورِ ﴿٢٧﴾

to allah ne hum par ehsan kiya aur humein loo ke azaab se bacha liya (27)

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

beshak humne apni pehli zindagi mein uski ibadat ki thi beshak wahi ehsan farmane waala meharbaan hai (28)

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿٢٩﴾

to aye mahboob tum naseehat farmao ke tum apne rab ke fazl se na kaahin ho na majnoon (29)

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُّ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ﴿٣٠﴾

ye kehte hain ye shaair hain humein un par hawadise zamana ka intezaar hai (30)

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمْتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾

tum farmao intezaar kiye jao main bhi tumhare intezaar mein hoon (31)

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾

kya unki aqlein unko yahi batati hain ya wo sarkash log hain (32)

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾

ye kehte hain unhone ye quran bana liya balki wo

imaan nahin rakhte (33)

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۝

to is jaisi ek baat to le aayein agar sachhe hain (34)

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝

kya wo kisi asal se na banaye gaye ya wahi banane waale hain (35)

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۗ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ ۝

ya aasman aur zameen unhone paida kiye balki unhein yaqeen nahin (36)

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُضَيِّطُونَ ۝

ya unke paas tumhare rab ke khazane hain ya wo kadode hain (37)

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَوِعُونَ فِيهِ ۗ فَلْيَأْتِ مُسْتَعْتِبَهُمْ بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ ۝

ya unke paas koi zeena hai jis mein chadh kar sun lete hain to unka sunne waala koi raushan sanad laaye (38)

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ ۝

kya usko betiya aur tum ko bete (39)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۝

ya tum unse kuchh ujrati maangte ho to wo chatti ke bojh mein dabe hain (40)

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۝

ya unke paas ghaib hain jisse wo hukm lagate hain (41)

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۗ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ ۝

ya kisi daanw ke irada mein hain to kafiro par hi daanw

padna hai (42)

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۖ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾

ya allah ke siwa unka koi aur khuda hai allah ko paaki
unke shirk se (43)

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٣﴾

aur agar aasman se koi tukda girte dekhein to kahenge
teh ba teh badal hain (44)

فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٤﴾

to tum unhein chhod do yahan tak ke wo apne us din
se milein jis mein behosh honge (45)

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٥﴾

jis din unka daanw kuchh kaam na dega aur na unki
madad ho (46)

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾

aur beshak zalimo ke liye isse pehle ek azaab hai
magar un mein aksar ko khabar nahin (47)

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٧﴾

aur aye mahboob tum apne rab ke hukm par thehre
raho ke beshak tum humari nighedasht mein ho aur
apne rab ki tareef karte hue uski paaki bolo jab tum
khade ho (48)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ﴿٤٨﴾

aur kuchh raat mein uski paaki bolo aur taaro ke peeth
dete (49)

Surah Najm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝

us pyare chamakte taare muhammad ki qasam jab ye
meraj se utre (1)

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝

tumhare saahib na behke na be raah chale (2)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

aur wo koi baat apni khwahish se nahin karte (3)

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

wo to nahin magar wahih jo unhein ki jaati hai (4)

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝

unhein sikhaya sakht quwwato waale taqatwar ne (5)

ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ ۝

phir us jalwa ne qasd farmaya (6)

وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ۝

aur wo aasmane baree ke sabse buland kinare par tha
(7)

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۝

phir wo jalwa nazdeek hua phir khoob utar aaya (8)

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۗ

to us jalwe aur is mahboob mein do haath ka fasila
raha balki isse bhi kam (9)

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۗ

ab wahih farmai apne bande ko jo wahih farmai (10)

مَا كَذَّبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۗ

dil ne jhoot na kaha jo dekha (11)

أَفْتُمِرُونَ عَلَىٰ مَا يُرَىٰ ۗ

to kya tum unse unke dekhe hue par jhagadte ho (12)

وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۗ

aur unhone to wo jalwa do baar dekha (13)

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ ۗ

sidratul muntaha ke paas (14)

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ۗ

uske paas jannatul maawa hai (15)

إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۗ

jab sidra par chha raha tha jo chha raha tha (16)

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۗ

aankh na kisi taraf phiri na hadd se badhi (17)

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۗ

beshak apne rab ki bahut badi nishaniya dekhi (18)

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُرَّىٰ ۗ

to kya tumne dekha laath aur uzza (19)

وَمَنْوَةٌ الثَّلَاثَةَ الْآخِرَى ۝

aur us teesri manaat ko (20)

الْكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْاُنْثَى ۝

kya tum ko beta aur usko beti (21)

تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ۝

jab to ye sakht bhondi taqseem hai (22)

اِنَّ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَبَّيْتُمُوها اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ
يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاَمَاتَهُوٰى الْاَنْفُسُ ۚ وَاَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّن رَّبِّهِمْ الْهُدٰى ۝

wo to nahin magar kuchh naam ke tumne aur tumhare
baap dada ne rakh liye hain allah ne unki koi sanad
nahin utaari wo to nire gumaan aur nafs ki khwahisho
ke pichhe hain halanki beshak unke paas unke rab ki
taraf se hidayat aai (23)

اَمْرٍ لِلْاِنْسَانِ مَّا تَمَنّٰى ۝

kya aadmi ko mil jayega jo kuchh wo khayaal baandhe
(24)

فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَاَلْاٰوَلٰى ۝

to aakhirat aur dunya sab ka malik allah hi hai (25)

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِّنْ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللهُ

لِيَسْئَلَنَ يَسْئًا وَيَرِضٰى ۝

aur kitne hi firishte hain aasmano mein ke unki sifarish
kuchh kaam nahin aati magar jabki allah ijazat de de jis
ke liye chahe aur pasand farmaye (26)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً الْأُنثَى ۝

beshak wo jo aakhirat par imaan nahin rakhte hain
malaika ka naam aurato sa rakhte hain (27)

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۗ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

شَيْئًا ۝

aur unhein iski kuchh khabar nahin wo to nire gumaan
ke pichhe hain aur beshak gumaan yaqeen ki jagah
kuchh kaam nahin deta (28)

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى ۖ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

to tun usse moonh pher lo jo humari yaad se phira aur
usse na chahi magar dunya ki zindagi (29)

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِمَنْ اهْتَدَى ۝

yahan tak ke unke ilm ki pahunch hai beshak tumhara
rab khoob jaanta hai jo uski raah se behka aur wo
khoob jaanta hai jis ne raah paai (30)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ

الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ۝

aur allah hi ka hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo
kuchh zameen mein taaki burai karne waalo ko unke
kiye ka badla de aur neki karne waalo ko nihayat achha
sila ata farmaye (31)

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۗ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ السَّغْفِرَةِ ۝ ط

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۖ ﴿٣٢﴾

wo jo bade gunaho aur be hayaiyo se bachte hain magar itna ke gunaah ke paas gaye aur ruk gaye beshak tumhare rab ki maghfirat wasee hai wo tumhein khoob jaanta hai tumhein mitti se paida kiya aur jab tum apni maao ke pet mein hamal the to aap apni jaano ko suthra na batao wo khoob jaanta hai jo parhezgar hain (32)

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ ﴿٣٣﴾

to kya tumne dekha jo phir gaya (33)

وَءَعْطَى قَلِيلًا ۖ وَأَكْدَى ۖ ﴿٣٤﴾

aur kuchh thoda sa diya aur rok rakha (34)

عِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوْ يَرَى ۖ ﴿٣٥﴾

kya uske paae ghalib ka ilm hai to wo dekh raha hai (35)

أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ۖ ﴿٣٦﴾

kya use iski khabar na aai jo saheefo mein hai moosa ke (36)

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۖ ﴿٣٧﴾

aur ibrahim ke jo ahkaam poore baja laaya (37)

أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۖ ﴿٣٨﴾

ke koi bojh uthane waali jaan dusri ka bojh nahin uthati (38)

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝

aur ye ke aadmi na payega magar apni koshish (39)

وَأَنْ سَعِيَّةَ سَوْفَ يُرَى ۝

aur ye ke uski koshish anqareeb dekhi jayegi (40)

ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ۝

phir iska bharpoor badla diya jayega (41)

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۝

aur ye ke beshak tumhare rab hi ki taraf onteha hai
(42)

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝

aur ye ke wo hi hai jisne hansaya aur rulaya (43)

وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتٌ وَأَحْيَا ۝

aur ye ke wahi hai jisne maara aur jilaya (44)

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝

aur ye ke usi ne do jode banaye nar aur maada (45)

مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُنْفَىٰ ۝

nutfa se jab daala jaye (46)

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ۝

aur ye ke usi ke zimma hai pichhla uthana (47)

وَأَنَّهُ هُوَ أَعْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ۝

aur ye ke usi ne ghana di aur qana'at di (48)

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعْرَىٰ ۝

aur ye ke wahi sitara shira ka rab hai (49)

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۖ

aur ye ke usi ne pehli aad ko halaak farmaya (50)

وَسَمُودَٰ فَمَا أَبْقَىٰ ۖ

aur samood ko to koi baaqi na chhoda (51)

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَىٰ ۖ

aur unse pehle nooh ki qaum ko beshak wo unse bhi zalim aur sarkash the (52)

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ۖ

aur usne ulatne waali basti ko niche giraya (53)

فَغَشَّاهَا مِمَّا غَشَّىٰ ۖ

to us par chhaya jo kuchh chhaya (54)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۖ

to aye sunne waale apne rab ki kaunsi nemato mein shak karega (55)

هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ۖ

ye ek dar sunane waale hain agle darane waalo ki tarah (56)

أَزِفَتِ الْأُزْفَةُ ۖ

paas aai paas aane waali (57)

لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۖ

allah ke siwa uska koi kholne waala nahin (58)

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۖ

to kya is baat se tum tajjub karte ho (59)

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝

aur hanste ho aur rote nahin (60)

وَأَنْتُمْ سِيدُونَ ۝

aur tum khel mein pade ho (61)

فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدْ ۝

to allah ke liye sajda aur uski bandagi karo (62-sajda)

Surah Qamar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝

paas aai qiyamat aur shaq ho gaya chand (1)

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ۝

aur agar dekhein koi nishani to moonh pherte aur
kehte hain ye to jaadu hai chala aata (2)

وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أُمَّرٍ مُسْتَقَرٌّ ۝

aur unhone jhutlaya aur apni khwahisho ke pichhe hue
aur har kaam qaraar pa chuka hai (3)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۝

aur beshak unke paas wo khabrein aai jin mein kaafi
rok thi (4)

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النَّذْرُ ۝

inteha ko pahunchi hui hikmat phir kya kaam dein dar
sunane waale (5)

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكْرٍ ۝

to tum unse moonh pher lo jis din bulane waala ek
sakht be pehchani baat ki taraf bulayega (6)

خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ۝

bulane waale ki taraf lapakte hue kafir kahenge ye din
sakht hai (8)

مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكُفْرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝

bulane waale ki taraf lapakte hue kafir kahenge ye din
sakht hai (8)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ۝

inse pehle nooh ki qaum ne jhutlaya humare bande ko
jhoota bataya aur bole wo majnoon hai aur use jhidka
(9)

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرَ ۝

to usne apne rab se dua ki ke main maghloob hoon to
mera badla le (10)

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ ۝

to humne aasman ke darwaze khol diye zor ke behte
paani se (11)

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

aur zameen chashme kar ke baha di to dono paani mil
gaye is miqdaar par jo muqaddar thi (12)

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّ دُسْرٍ ۖ

aur humne nooh ko sawaar kiya takhto aur keelo waali par (13)

تَجْرِمِي بِأَعْيُنِنَا ۖ جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرًا ۝

ke humari nigah ke rubaru behti uske sila mein jiske saath kufr kiya gaya tha (14)

وَلَقَدْ تَرَكُنَّهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مَّدَّكِرٍ ۝

aur humne use nishani chhoda to hai koi dhyaan karne waala (15)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝

to kaisa hua mera azaab aur meri dhamkiya (16)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ۝

aur beshak humne quran yaad karne ke liye aasan farma diya to hai koi yaad karne waala (17)

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝

aad ne jhutlaya to kaisa hua mera azaab aur mere dar dilane ke farman (18)

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَبِيرٍ ۝

beshak humne un par ek sakht aandhi bheji aise din mein jiski nuhoosat un par humesha ke liye rahi (19)

تُنزِعُ النَّاسَ ۖ كَانَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ۝

logon ko yun de maarti thi ke goya wo ukhdi hui khajooro ke dand hain (20)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ ۝

to kaisa hua mera azaab aur dar ke farman (21)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٢١﴾

aur beshak humne aasan kiya quran yaad karne ke liye
to hai koi yaad karne waala (22)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٢﴾

samood ne rasoolo ko jhutlaya (23)

فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا تَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٢﴾

to bole kya hum apne mein ke ek aadmi ki taabedari
karein jab to hum zaroor gumrah aur deewane hain
(24)

ءَأَلْفَى الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٤﴾

kya hum sab mein se is par zikr utaara gaya balki ye
sakht jhoota itrona hai (25)

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُّ ﴿٢٤﴾

bahut jald kul jaan jayenge kaun tha bada jhoota itrona
(26)

إِنَّا مُرْسَلُوا نَأْتِيهِمُ الْغَاقِلَ فَيَتَنَنَّى لَهُمْ فَآزِقُبُهُمْ وَأُضْطَرُّوْنَ ﴿٢٥﴾

hum naaqa bhejne waale hain unki jaanch ko to aye
saaleh tu raah dekh aur sabr kar (27)

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۗ كُلُّ شَرِبٍ مُمْتَضِرٌ ﴿٢٥﴾

aur unhein khabar de de ke paani un mein hisso se hai
har hissa par wo haazir ho jiski baari hai (28)

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٥﴾

to unhone apne saathi ko pukara to usne le kar uski

koochein kaat di (29)

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٣٠﴾

phir kaisa hua mera azaab aur dar ke farman (30)

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

beshak humne un par ek chinghaad bheji jabhi wo ho gaye jaise ghera banane waale ki bachi hui ghaas sookhi raundi hui (31)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٢﴾

aur beshak humne aasan kiya quran yaad karne ke liye to hai koi yaad karne waala (32)

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

looth ki qaum ne rasoolo ko jhutlaya (33)

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ط نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

beshak humne un par pathrao bheja siwaye looth ke ghar waalo ke humne unhein pichhle pehar bacha liya (34)

نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنَا ط كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

apne paas ki nemat farma kar hum yun hi sila dete hain use jo shukr kare (35)

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

aur beshak usne unhein humari giraft se daraya to unhone dar ke farmano mein shak kiya (36)

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذْرِي ﴿٣٧﴾

unhone use uske mehmano se phuslana chaha to

humne unki aankhein met di farmaya chakho mera
azaab aur dar ke farman (37)

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمُ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقَرٌّ ﴿٣٧﴾

aur beshak subah tad ke un par theharna waala azaab
aaya (38)

فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ﴿٣٨﴾

to chakho mera azaab aur dar ke farman (39)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴿٣٩﴾

aur beshak humne aasan kiya quran yaad karne ke liye
to koi hai yaad karne waala (40)

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤٠﴾

aur beshak firaun waalo ke paas rasool aaye (41)

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٤١﴾

unhone humari sab nishaniya jhutlai to humne un par
giraft ki jo ek izzat waale aur azeem qudrat waale ki
shaan thi (42)

أَكْفَارَكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلِيَّكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٢﴾

kya tumhare kafir unse behtar hain ya kitabo mein
tumhari chhutti likhi hui hai (43)

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ﴿٤٣﴾

ya kehte hain hum sab mil kar badla le lenge (44)

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٤﴾

ae bhagai jaati hai ye jama'at aur pithein pher denge
(45)

بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةِ أَذَىٰ وَآمْرٌ ﴿٧٦﴾

balki unka waada qiyamat par hai aur qiyamat nihayat
kadi aur sakht kadwi (46)

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ ﴿٧٧﴾

beshak mujrim gumrah aur deewane hain (47)

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٧٨﴾

jis din aag mein apne moonho par ghaseete jayenge
aur farmaya jayega chakho dozakh ki aabnch (48)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٧٩﴾

beshak humne har cheez ek andaza se paida farmai
(49)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٨٠﴾

aur humara kaam to ek baat ki baat hai jaise palak
maarna (50)

وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا شَيْبَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرٍ ﴿٨١﴾

aur beshak humne tumhari waza ke halaak kar diye to
hai koi dhyaan karne waala (51)

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٨٢﴾

aur unhone jo kuchh kiya sab kitabo mein hai (52)

وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌّ ﴿٨٣﴾

aur har chhoti badi cheez likhi hui hai (53)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٨٤﴾

beshak parhezgar baagho aur nehar mein hain (54)

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٨٥﴾

sach ki majlis mein azeem qudrat waale badshah ke
huzoor (55)

Surah Rahman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

الرَّحْمَنُ ۝

rahman ne (1)

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝

apne mahboob ko quran sikhaya (2)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝

insaniyat ki jaan muhammad ko paida kiya (3)

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

maa kaana wa mak yakoon ka bayaan unhein sikhaya
(4)

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝

suraj aur chand hisab se hain (5)

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝

aur sabze aur ped sajda karte hain (6)

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝

aur aasman ko allah ne buland kiya aur tarazu rakhi (7)

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝

ke tarazu mein be etidali na karo (8)

وَاقْيُمُوا الْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ①

aur insaf ke saath taul qaaim karo aur wazan na
ghatao (9)

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ②

aur zameen rakhi makhlooq ke liye (10)

فِيهَا فَاكِهَةٌ ۖ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ③

us mein mewe aur ghilaf waali khajoorein (11)

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ④

aur bhus ke saath anaaj aur khushbu ke phal (12)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑤

to aye jinno ins! tum dono apne rab ki kaunsi nemat
jhutlaoge (13)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ⑥

usne aadmi ko banaya bajti mitti se jaise thekri (14)

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ⑦

aur jinn ko paidq farmaya aag ke loke se (15)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑧

dono purab ka rab aur dono pachhim ka rab (17)

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ⑨

dono purab ka rab aur dono pachhim ka rab (17)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ⑩

to tum dono apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (18)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝

usne do samundar bahaye ke dekhne mein maloom
ho mile hue (19)

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۝

aur hai un mein rok ke ek dusre par badh nahin sakta
(20)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِيْنَ ۝

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (21)

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝

un mein se moti aur moonga nikalta hai (22)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِيْنَ ۝

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (23)

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝

aur usi ki hain wo chalne waaliya ke darya mein uthi
hui hain jaise pahaad (24)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِيْنَ ۝

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (25)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

zameen par jitne hain sab ko fana hai (26)

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

aur baaqi hai tumhare rab ki zaat azmat aur buzurgi
wala (27)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِيْنَ ۝

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (28)

يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٨﴾

usi ke mangta hain jitne aasmano aur zameen mein
hain use har din ek kaam hai (29)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٠﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (30)

سَنَفَعُ لَكُمْ أَيُّهُ الثَّقَلَيْنِ ﴿٣١﴾

jald sab kaam nibta kar hum tumhare hisab ka qasd
farmate hain aye dono bhaari giroh (31)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٢﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (32)

يُبْعَثَرُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَأَنْفُذُوا ۗ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿٣٣﴾

aye jinn wa insan ke giroh agar tumse ho sake ke
aasmano aur zameen ke kinaro se nikal jaao to nikal
jaao, jahan nikal kar jaoge usi ki saltanat hai (33)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (34)

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۖ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾

tum par chhodi jayegi be dhuwein ki aag ki lapet aur be
lipat ka kaala dhuwaan to phir badla na le sakoge (35)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (36)

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

phir jab aasman phat jayega to gulaab ke phool sa ho
jayega jaise surkh niri (37)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٣٨﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (38)

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾

to us din gunahgar ke gunah ki puchh na hogi kisi
aadmi aur jinn se (39)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (40)

يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيَاهِهِمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

mujrim apne chehre se pehchane jayenge to maatha
aur paaon pakad kar jahannam mein daale jayenge
(41)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٢﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (42)

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

ye hai wo jahannam jise mujrim jhutlate hain (43)

يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ ﴿٤٤﴾

phere karenge us mein aur inteha ke jalte khaulte
paani mein (44)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (45)

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ﴿٤٦﴾

aur jo apne rab ke huzoor khade hone se dare uske

liye do jannatein hain (46)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٦﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (47)

ذَوَاتًا أَفْنَانٍ ﴿٤٧﴾

bahut si daalo waaliya (48)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٤٨﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (49)

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٤٩﴾

us mein do chashme behte hain (50)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٠﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (51)

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥١﴾

un mein har mewa do do qism ka (52)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٢﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (53)

مُتَّكِنِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَّأْنَ بِهَا مِنْ أَسْتَبْرَقٍ وَوَجْنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿٥٣﴾

aise bichhono par takya lagaye jiska astar fanawiz ka
aur dono ke mewe itne jhuke hue ke niche se chun lo
(54)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٤﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (55)

فِيهِنَّ قَصْرَاتُ الظَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٥﴾

un bichhono par wo auratein hain ke shauhar ke siwa

kisi ko aankh utha kar nahin dekhti unse pehle unhein
na chhua kisi aadmi aur na jinn ne (56)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٦﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (57)

كَانَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٧﴾

goya wo laal aur moonga hain (58)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٥٨﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (59)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

neki ka badla kya hai magar neki (60)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (61)

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَيْنِ ﴿٦٢﴾

aur inke siwa do jannatein aur hain (62)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٣﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (63)

مُدَّهَا مَمْتِنًا ﴿٦٤﴾

nihayat sabzi se siyahi ki jhalak de rahi hain (64)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (65)

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَيْنِ ﴿٦٦﴾

un mein do chashme hain chhalakte hue (66)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٧﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (67)

فِيهِمَا فَآكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٧﴾

un mein mewe aur khajoorein aur anaar hain (68)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٨﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (69)

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٦٩﴾

un mein auratein hain aadat ki nek soorat ki achhi (70)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٠﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (71)

حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧١﴾

hoorein hain khemo mein parda nasheen (72)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٢﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (73)

لَمْ يَطْمِئْتُنَّ إِذْ سَقَبْتَهُمْ وَلَا جِآنٌ ﴿٧٣﴾

unse pehle unhein haath na lagaya kisi aadmi aur jinn
ne (74)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٤﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (75)

مُتَّكِبِينَ عَلَى رُفُوفٍ خَضْرَاءٍ وَعَبَقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٥﴾

takiya lagaye hue sabz bichhono aur muftish
khubsoorat chandniyo par (76)

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٧٦﴾

to apne rab ki kaunsi nemat jhutlaoge (77)

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝

badi barkat waala hai tumhare rab ka naam jo azmat
aur buzurgi waala (78)

Surah Waqiya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

jab ho legi wo hone waali (1)

لَيْسَ لَوْفَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

us waqt uske hone mein kisi ko inkar ki gunjaish na
hogi (2)

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝

kisi ko past karne waali kisi ko bulandi dene waali (3)

إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ۝

jab zameen kanpegi thar thara kar (4)

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝

aur pahaad reza reza ho jayenge choora ho kar (5)

فَكَانَتْ هَبَاءً مُتْبِنًا ۝

to ho jayenge jaise rozan ki dhoop mein gubaar ke
bareek zarre phaile hue (6)

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝

aur tum teen qism ke ho jaoge (7)

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۗ

to dahni taraf waale kaise dahni taraf waale (8)

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۗ

aur baai taraf waale kaise baai taraf waale (9)

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۖ

aur jo sabqat le gaye wo to sabqat hi le gaye (10)

أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۖ

wahi muqarrab bargah hain (11)

فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۖ

chain ke baagho mein (12)

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ

aglo mein se ek giroh (13)

وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۖ

aur pichhlo mein se thode (14)

عَلَىٰ سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۖ

judaao takhto par honge (15)

مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۖ

un par takiya lagaye hue aamne saamne (16)

يُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۖ

unke gird liye phirenge humesha rehne waale ladke

(17)

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ ۖ وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ۖ

kooze aur aaftabe aur jaam aankho ke saamne behti
sharab ke (18)

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ ﴿١٨﴾

usse na unhein darde sar ho na hosh mein farq aaye
(19)

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٠﴾

aur mewe jo pasand karein (20)

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾

aur parindo ka gosht jo chahein (21)

وَحُورٍ عِينٍ ﴿٢٢﴾

aur badi aankh waaliya hoorein (22)

كَامْتَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿٢٣﴾

jaise chhupe rakhe hue moti (23)

جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾

silah unke aamaal ka (24)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا ﴿٢٥﴾

us mein na sunenge na koi bekaar baat na gunahgari
(25)

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾

haan ye kehna hoga salaam salaam (26)

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾

aur dahini taraf waale kaise dahini taraf waale (27)

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾

be kaante ki beriyo mein (28)

وَوَطَّحَ مَنُضُودٍ ۝

aur keelo ke guchchho mein (29)

وَوَظَّلَ مَمْدُودٍ ۝

aur humesha ke saaye mein (30)

وَوَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۝

aur humesha jaari paani mein (31)

وَوَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۝

aur bahut se mewa mein (32)

لَّا مَقْضُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۝

jo na khatm ho aur na roke jaayein (33)

وَوَفُوشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۝

aur buland bichhono mein (34)

إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ أَنْشَاءً ۝

beshak humne un aurato ko achhi uthaan uthaya (35)

فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۝

to unhein banaya kunwariya apne shauhar par
pyaariya (36)

عُرُبًا أَتْرَابًا ۝

unhein pyaar dilatiya ek umr waaliya (37)

لِلْأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝

dahini taraf waalo ke liye (38)

ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ۝

aglo mein se ek giroh (39)

وَتِلْكَ مِنَ الْآخِرِينَ ۝

aur pichhlo mein se ek giroh (40)

وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۖ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۝

aur baain taraf waale kaise baain taraf waale (41)

فِي سَوْمٍ وَحَبِيمٍ ۝

jalti hawa aur khaulte paani mein (42)

وَزِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۝

aur jalte dhuwein ki chhaon mein (43)

لَّا بَارِدٌ وَلَا كَرِيمٍ ۝

jo na thandi na izzat ki (44)

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۝

beshak wo isse pehle nemato mein the (45)

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۝

aur us bade gunaha ki hatt rakhte the (46)

وَكَانُوا يَقُولُونَ ۖ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّنا لَمَبْعُوثُونَ ۝

aur kehte the kya jab hum mar jaayein aur haddiya aur mitti ho jaayein to kya zaroor hum uthaye jayenge (47)

أَوْ آبَاءُؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝

aur kya humare agle baap dada bhi (48)

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝

tum farmao beshak sab agle aur pichhle (49)

لَمَجْمُوعُونَ ۖ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

zaroor ikatthe kiye jayenge ek jaane hue din ki miyaad
par (50)

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥٠﴾

phir beshak tum aye gumraho jhutlane waalo (51)

لَا كُؤُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن رَّقُومٍ ﴿٥١﴾

zaroor thohad ke ped mein se khaoge (52)

فَمَا لُؤُونَ مِنْهَا الْبُؤُونَ ﴿٥٢﴾

phir usse pet bharoge (53)

فَشُرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٣﴾

phir us par khaulta paani piyoge (54)

فَشُرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿٥٤﴾

phir aisa piyoge jaise sakht pyaase oont piyein (55)

هَذَا نُزْلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٥﴾

ye unki mehmani hai insaf ke din (56)

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٦﴾

humne tumhein paida kiya to tum kyun nahin sach
maante (57)

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٧﴾

to bhala dekho to wo mani jo giraate ho (58)

أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٨﴾

kya tum uska aadmi banate ho ya hum banane waale
hain (59)

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٥٩﴾

to humne tum mein marna thehraya aur hum isse

haare nahin (60)

عَلَىٰ أَنْ تُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

ke tum jaise aur badal dein aur tumhari sooratein wo
kar dein jiski tumhein khabar nahin (61)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

aur beshak tum jaan chuke ho pehli uthaan phir kyun
nahin sochte (62)

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٢﴾

to bhala batao to jo bote ho (63)

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٣﴾

kya tum uski kheti banate ho ya hum banane waale
hain (64)

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٤﴾

hum chahein to use raundan kar dein phir tum baatein
banate reh jaao (65)

إِنَّا كَاغْبُرُ مُونَ ﴿٦٥﴾

ke hum par chatti padi (66)

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٦﴾

balki hum be naseeb rahe (67)

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٧﴾

to bhala batao to wo paani jo peete ho (68)

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٨﴾

kya tumne use baadal se utara ya hum hain utaarne
waale (69)

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

hum chahein to use khaari kar dein phir kyun nahin shukr karte (70)

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾

to bhala batao to wo aag jo tum raushan karte ho (71)

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾

kya tumne uska ped paida kiya ya hum hain paida karne waale (72)

نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَنَمَاعًا لِلْمُقْبِينَ ﴿٧٣﴾

humne use jahannam ki yadgaar banaya aur jungle mein musafiro ka faida (73)

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾

to aye mahboob tum paaki bolo apne azmat waale rabb ke naam ki (74)

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾

to mujhe qasam hai un jagaho ki jahan taare doobte hain (75)

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

aur tum samjho to ye badi qasam hai (76)

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾

beshak ye izzat waala quran hai (77)

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾

mahfooze nawishta hain (78)

لَا يَسْئَلُ إِلَّا الْبِطْهَرُونَ ۝

ise na chhooyein magar ba wuzu (79)

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

utara hua hai saare jahaan ke rab ka (80)

أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝

to kya is baat mein tum susti karte ho (81)

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ۝

aur apna hissa ye rakhte ho ke jhutlate ho (82)

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝

phir kyun na ho ke jab jaan gale tak pahunche (83)

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۝

aur tum us waqt dekh rahe ho (84)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝

aur hum uske zyada paas hain tumse magar tumhein
nigah nahin (85)

فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝

to kyun na hua agar tumhein badla milna nahin (86)

تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

ke use lauta laate agar tum sachhe ho (87)

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

phir wo marne waala agar muqarrabo se hai (88)

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۖ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۝

to raahat hai aur phool aur chain ke baagh (89)

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝

aur agar dahini taraf waalo se ho (90)

فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝

to aye mahboob tum par salam hai dahini taraf waalo
se (91)

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ۝

aur agar jhutlane waale gumraho mein se ho (92)

فَنَزَّلُ مِنَ حَبِيمٍ ۝

to uski mehmani khaulta paani (93)

وَتَصْلِيَةٌ جَهِيمٍ ۝

aur bhadakti aag mein dhansana (94)

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝

ye beshak aala darja ki yaqeeni baat hai (95)

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

to aye mahboob tum apne azmat waale rabb ke naam
ki paaki bolo (96)

Surah Hadeed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

allah ki paaki bolta hai jo kuchh aasmano aur zameen

me hai aur wahi izzat wa hikmat wala hai (1)

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

usi ke liye hai aasmano aur zameen ki saltanat jilata hai aur marta aur wo sab kuchh kar sakta hai (2)

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢﴾

wahi awwal wahi aakhir wahi zaahir wahi batin aur wahi sab kuchh janta hai (3)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يُعَلِّمُ

مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ وَ

هُوَ مَعَكُمْ أَيَّن مَّا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾

wahi hai jisne aasman aur zameen chheh (6) din me paida kiye fir arsh par istiwaa farmaya jaisa uski shaan ke laaiq hai janta hai jo zameen ke andar jata hai aur jo usse baahar nikalta hai aur jo aasman se utarta hai aur jo usme chadhta hai aur wo tumhare sath hai tum kahin ho, aur allah tumhare kaam dekh raha hai (4)

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾

usi ki hai aasmano aur zameen ki saltanat aur allah hi ki taraf sab kaamo ki ruju' (5)

يُورِثُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِثُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾

raat ko din ke hisse me lata hai aur din ko raat ke hisse me lata hai aur wo dilon ki janta hai (6)

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا

مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٦﴾

allah aur uske rasool par imaan laao aur uski raah me kuchh wo kharch karo jisme tumhein auron ka jaanasheen kiya to jo tum me imaan laye aur uski raah me kharch kiya unke liye bada sawab hai (7)

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ

مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

aur tumhen kya hai ke allah par imaan na laao haalanki ye rasool tumhen bula rahe hain ke apne rabb par imaan laao aur beshak wo tum se pehle hi ahad le chuka hai agar tumhen yaqeen ho (8)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَإِنَّ

اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

wahi hai ke apne banda par raushan aayatun utarta hai taki tumhen andheriyon se ujaale ki taraf le jaye aur beshak allah tum par zaroor meharban raham wala (9)

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِي

مَنْكُم مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ ۗ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ

أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا ۗ وَكُلًّا وَوَعَدَ اللَّهُ الْحُسَيْنَى ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

aur tumhen kya hai ke allah ki raah me kharch na karo halaanki aasmano aur zameen me sab ka waris allah hi hai tum me barabar nahi wo jinhone fatahe makka se qabl kharch aur jihaad kiya wo martaba me unse bade hain jinhone baad fatahe makka ke kharch aur jihad ka wada farma chuka aur allah ko tumhare kaamo ki

khobar hai (10)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

kaun hai jo allah ko qarz de accha qarz to wo uske liye doone kare aur usko izzat ka sawab hai (11)

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ
بُشْرًا كُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ۝

jis din tum imaan wale mardo aur imaan wali aurton ko dekhoge ke unka noor unke aage aur unke dahine daudta hai unse farmayega ja raha hai ke aaj tumhari sabse zyada khushi ki baat wo jannate hain jinke neechे nehre bahe tum unme hamesha raho yahi badi kamyabi hai (12)

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَارًا نَفْتِسُ مِنْ نُورِكُمْ ۚ
قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝

jis din munafiq mard aur munafiq auraten musalmano se kahenge ke hume ek nigaah dekho ke hum tumhare noor se kuchh hissa len kaha jayega apne peechhe lauto wahan noor dhoondho wo lautenge jabhi unke darmiyan ek diwar khadi kar di jayegi jisme ek darwaza hai uske andar ki taraf rahmat aur uske bahar ki taraf azaab (13)

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَ

ارْتَبْتُمْ وَعَرَّيْتُمْ الْأَمَانِيَّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَرَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾

munafiq musalmano ko pukarenghe kya hum tumhare sath naa the wo kahenge kyu nahi magar tum ne to apni jaane fitne me daali aur musalmano ki burai takte aur shak rakhte aur jhoothi tama'a ne tumhen fareb diya yahan tak ke allah ka hukm aa gaya aur tumhen allah ke hukm par us bade fareb ne magroor rakha (14)

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ مَأْوَىٰكُمْ النَّارُ ۗ هِيَ

مَوْلَاكُمْ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

to aaj na tum se koi fidiya liya jaye aur na khule kafiron se tumhara thikana aag hai wo tumhari rafique hai aur kya hi bura anjaam (15)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۗ وَلَا

يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ وَ

كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾

kya imaan walon ko abhi wo waqt na aaya ke unke dil jhuk jaye allah ki yaad aur us haqq ke liye jo utra aur un jaise na hon jinko pehle kitab di gayi fir un par muddat daraaz hui to unke dil sakht ho gaye aur unme bahut fasiq hain (16)

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

jaan lo ke allah zameen ko zinda karta hai uske mare peechhe beshak humne tumhare liye nishaniyan bayan farma di ke tumhen samjh ho (17)

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

beshak sadaqa dene wale mard aur sadaqa dene wali
auraten aur wo jinhone allah ko accha qarz diya unke
doone hai aur unke liye izzat ka sawab hai (18)

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٨﴾ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

aur wo jo allah aur uske sab rasoolo par imaan laye
wahi hai kamil sacche aur auro par gawah apne rabb
ke yahan unke liye unka sawab aur unka noor hai aur
jinhone kufr kiya aur hamari aayaten jhuthlayi wo
dozakhi hain (19)

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ
وَالْأَوْلَادِ ﴿١٩﴾ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ
حُطَامًا ﴿٢٠﴾ فِي الْأُخْرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٠﴾ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ﴿٢٠﴾ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَاعٌ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

jaan lo ke duniya ki zindagi to nahi magar khel kood
aur aarish aur tumhara aapas me badaai maarna aur
maal aur aulad me ek dusre par zyadati chahna us
meh ki tarah jiska ugaaya sabza kisano ko bhaya fir
sookha ke tu use zard dekhe fir raundan ho gaya aur
aakherat me sakht azaab hai aur allah ki taraf se
bakhshish aur uski raza aur duniya ka jeena to nahi

magar dhokhe ka maal (20)

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ أُعِدَّتْ
لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ ﴿٢٠﴾

badh kar chalo apne rabb ki bakhshish aur us jannat ki taraf jiski chaudai jaise aasman aur zameen ka failaw taiyaar hui hai unke liye jo allah aur uske sab rasoolo par imaan laye ye allah ka fazl hai jise chahe de aur allah bade fazl wala hai (21)

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ
نَّبْرَاهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢١﴾

nahi pahuchti koi musibat zameen me aur na tumhari jaano me magar wo ek kitab me hai qabl iske ke hum use paida karen beshak ye allah ko aasan hai (22)

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
فَخُورٍ ﴿٢٢﴾

isliye ke gham na khao us par jo hath se jaye aur khush na ho us par jo tum ko diya aur allah ko nahi bhata koi itrauna badaai maarne wala (23)

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ ﴿٢٣﴾

wo jo aap bukhl kare aur auro se bukhl ko kahe aur jo muh fere to beshak allah hi be-niyaz hai sab khoobiyon saraha (24)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

beshak humne apne rasoolo ko daleelo ke sath bheja
aur unke sath kitab aur adal ki tarazu utari ke log
insaaf par qaeem ho aur humne loha utara usme sakht
aanch aur logon ke fayde aur isliye ke allah dekhe usko
jo be-dekhe uski aur uske rasoolo ki madad karta hai
beshak allah quwwat wala ghalib hai (25)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ
مُهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٦﴾

aur beshak humne ibraheem aur nooh ko bheja aur
unki aulad me nubuwat aur kitab rakhi to unme koi
raah par aaya aur unme bahutere fasiq hain (26)

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنْجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۗ وَ
رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٢٧﴾

fir humne unke peechhe usi raah par apne aur rasool
bheje aur unke peechhe isa bin maryam ko bheja aur
use injeel ataa farmayi aur uske pairuo ke dil me narmi
aur rahmat rakhi aur wo raahib banna to ye baat
unhone deen me apni taraf se nikali humne un par
muqarrar na ki thi haan ye bidat unhone allah ki raza

chahne ki paida ki fir use na nibaha jaisa uske nibahne ka haqq tha to unke imaan walon ko humne unka sawab ataa kiya aur unme se bahutere fasiq hain (27)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ
يَجْعَلَ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٧﴾

ay imaan walon allah se daro aur unke rasool par imaan laao wo apni rahmat ke do hisse tumhen ataa farmayega aur tumhare liye noor kar dega jisme chalo aur tumhein bakhsh dega aur allah bakhshne wala meharban hai (28)

لَمَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

ye isliye ke kitab wale kafir jaan jaye ke allah ke fazl par unka kuchh qaboo nahi aur ye ki fazl allah ke hath hai deta hai jise chahe aur allah bade fazl wala hai (29)

Atthaiswa Paarah

Surah Mujadila

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوَرَكُمَا ۖ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

beshak allah ne suni uski baat jo tumse apne shauhar
ke muamle mein bahas karti hai aur allah se shikayat
karti hai aur allah tum dono ki guftagu sun raha hai
beshak allah sunta dekhta hai (1)

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ۖ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي
وَلَدْنَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

wo jo tum mein apni bibiyo ko apni maa ki jagah keh
baithte hain wo unki maayein nahin unki maayein to
wahi hain jin se wo paida hain aur wo beshak buri aur
niri jhoot baat kehte hain aur beshak allah zaroor
muaaf karne wala aur bakhshne wala hai (2)

وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَتَّبِعَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

aur wo jo apni bibiyo ko apni maa ki jagah kahein phir

wahi karna chahein jis par itni badi baat leh chuke to un par lazim hai ek burda aazad karna qabal iske ke ek dusre ko haath lagayein ye hai jo naseehat tumhein ki jaati hai aur allah tumhare kaamo se khabardar hai (3)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ آسَاءُ فَمَنْ لَّمْ
يَسْتَطِعْ فَأَطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

phir jise burda na mile to lagataar do mahine ke roze qabal iske ke ek dusre ko haath lagayein phir jis se roze bhi na ho sakein to saath miskeeno ka pet bharna ye isliye ke tum allah aur uske rasool par imaan rakho aur ye allah ki hadein hain aur kafiro ke liye dardnaak azaab hai (4)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا
آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

beshak wo jo mukhalifat karte hain allah aur uske rasool ki zaleel kiye gaye jaise unse aglo ko zillat di gai aur beshak humne raushan aayatein utaari aur kafiro ke liye khwari ka azaab hai (5)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

jis din allah un sab ko uthayega phir unhein unke kotak jata dega allah ne unhein gin rakha hai aur wo bhool gaye aur har cheez allah ke saamne hai (6)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذُنُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

aye sunne waale kya tune na dekha ke allah jaanta hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein jahan kahin teen shakhso ki sargoshi ho to chautha wo maujood hai aur paanch ki to chhata wo aur na isse kam aur na isse zyada ki magar ye ke wo unke saath hai jahan kahin ho phir unhein qiyamat ke din bata dega jo kuchh unhone kiya beshak allah sab kuchh jaanta hai (7)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝

kya tum ne unhein na dekha jinhein buri mashwarat se mana farmaya gaya tha phir wahi karte hain jiski mumanat hui thi aur aapas mein gunah aur hadd se badhne aur rasool ki nafarmani ke mashware karte hain aur jab tumhare huzoor haazir hote hain to un lafzo sw tumhein mujra karte hain jo lafz allah ne tumhare aizaz mein na kahe aur apne dilo mein kehte hain humein allah azaab kyun nahin karta humare is

kehne par unhein jahannam bas hai is mein
dhansenge to kya hi bura anjaam (8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ
الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٨﴾

aye imaan waalo tum jab aapas mein mashwarat karo
to gunah aur hadd se badhne aur rasool ki nafarmai ki
mashwarat na karo aur neki aur parhezgari ki
mashwarat karo allah se daro jiski taraf uthaye jaoge
(9)

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارٍّ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا
بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٩﴾

wo mashwarat to shaitan hi ki taraf se hai isliye ke
imaan waalo ko ranj de aur wo un ka kuchh nahin
bigaad sakta be hukme khuda aur musulmano ko allah
hi par bharosa chahiye (10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ
لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۗ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

aye imaan waalo jab tum se kaha jaaye majliso mein
jagah do allah tumhein jagah dega aur jab laja jaaye
uth khade ho to uth khade ho allah tumhare imaan
waalo ke aur unke jinko ilm diya gaya darje buland
farmayega aur allah ko tumhare kaamo ki khabar hai
(11)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ط
ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۖ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

aye imaan waalo jab tum rasool se koi baat aahista raz karna chaho to apni arz se pehle kuchh sadqa de lo ye tumhare liye behtar aur suthra hai phir agar tumhein maqdoor na ho to allah bakhshne waala meharban hai

(12)

ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ط فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ فَأَقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ۝

kya tum isse dare ke tum apni arz se pehle sadqe do phir ja tumne ye na kiya aur allah ne apni mehar se tum par ruju farmai to namaz qaaim rakho aur zakaat do aur allah aur uske rasool ke farmanbardar raho aur allah tumhare kaamo ko jaanta hai (13)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۚ وَ
يَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

kya tumne unhein na dekha jo aiso ke dost hue jin par allah ka ghazab hai wo na tum mein se na un mein se wo daanista jhooti qasam khate hain (14)

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

allah ne unke liye sakht azaab tayyar kar rakha hai beshak wo bahut hi bure kaam karte hain (15)

إِتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝

unhone apni qasmo ko dhaal bana liya hai to allah ki raah se roka to unke liye khwaari ka azaab hai (16)

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٦﴾

unke maal aur unki awlaad allah ke saamne unhein kuchh kaam na denge wo dozakhi hain unhein us mein humesha rehna (17)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَبِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾

jis din allah yn sab ko uthayega to uske huzoor bhi aise hi qasmein khayenge jaisi tumhare saamne kha rahe hain aur wo ya samajhte hain ke unhone kuchh kiya sunte ho beshak wahi jhote hain (18)

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١٨﴾

un par shaitan ghalib aa gaya to unhein allah ki yaad bhula di wo shaitan ke giroh hain sunta hai beshak shaitan hi ka giroh haar mein hai (19)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿١٩﴾

beshak wo jo allah aur uske rasool ki mukhalifat karte hain wo sabse zyada zaleelo mein hain (20)

كَتَبَ اللَّهُ لَا غَلِبَنَّا أَنَا وَرُسُلِي ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٠﴾

allah likh chuka ke zaroor main ghalib aaunga aur mere rasool beshak allah quwwat waala izzat waala hai

(21)

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ
كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ
اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢١﴾

tum na paaoge un logon ko jo yaqeen rakhte hain allah aur pichhle din par ke dosti karein unse jinhone allah aur uske rasool se mukhalifat ki agarche wo unke baap ya bete ya bhai ya kumbe waale ho ye hain jin ke dilo mein allah ne imaan naqsh farma diya aur apni taraf ki rooh se unki madad ki aur unhein baagho mein le jayega jin ke niche nehrein bahein un mein humesha rahein allah unse raazi wo allah se raazi ye allah ki jama'at hai sunta hai allah hi ki jama'at kamyaab hai

(22)

Surah Hashr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾

allah ki paaki bolta hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein aur wahi izzat wa hikmat waala hai (1)

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ
 مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنْنَا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ
 مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ
 بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝

wahi jisne un kafir kitabiyo ko unke gharo se nikaala unke pehle hashr ke liye tumhein gumaan na tha ke wo niklenge aur wo samajhte the ke unke qile unhein allah se bacha lenge to allah ka hukm unke paas aaya jahan se unka guman bhi na tha aur usne unke dilo mein raub daala ke apne ghar weeran karte hain apne haatho aur musalmano ke haatho to ibrat lo aye nigah waalo (2)

وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۗ وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
 النَّارِ ۝

aur agar na hota ke allah ne un par ghar se ujadna likh diya tha ti dunya hi mein un par azaab farmata aur unke liye aakhirat mein aag ka azaab hai (3)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

ye isliye ke wo allah se aur uske rasool se phate rahe aur ho allah aur uske rasool se phata rahe to beshak allah ka azaab sakht hai (4)

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَاطِبَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَيَخْزِي
 الْفَاسِقِينَ ۝

jo darakht tumne kaate ya un ki jado par qaaim chhod

diye ye sab allah ki ijazat se tha aur isliye ke fasiqo ko ruswa kare (5)

وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ
اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥﴾

aur jo ghaneemat dilai allah ne apne rasool ko unse to tumne un par na apne ghode daudaye the na oont haan allah apne rasoolo ke qaabu mein de deta hai jise chahe aur allah sab kuchh kar sakta hai (6)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۗ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦﴾

jo ghaneemat dilai allah ne apne rasool ko shehar waalo se wo allah aur rasool ki hai aur rishtadaro aur yateemo aur miskeeno aur musafiro ke liye tumhare aghniya ka maal na ho jaaye aur jo kuchh tumhein rasool ata farmayein wo lo aur jis se mana farmayein baaz raho aur allah se daro beshak allah ka azaab sakht hai (7)

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ
اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٧﴾

un faqeer hijrat karne waalo ke liye jo apne gharo aur maalo se nikaale gaye allah ka fazl aur maalo se nikaale gaye allah kq fazl aur uski raza chahte aur allah

wa rasool ki madad karte wahi sachche hain (8)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

aur jinhone pehle se us shehar aur imaan mein ghar
bana liya dost rakhte hain unhein jo unki taraf hijrat
kar ke gaye aur apne dilo mein koi haajat nahin paate
us cheez ki jo diye gaye aur apni jaano par unko
tarjeeh dete hain agarche unhein shadeed muhtaji ho
aur jo apne nafs ke lalach se bachaya gaya to wahi
kamyaab hain (9)

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

aur wo jo unke baad aaye arz karte hain aye humare
rab humein bakhsh de aur humare bhaiyo ko jo humse
pehle imaan laaye aur humare dil mein imaan waalo ki
taraf se keena na rakh aye rab humare beshak tu hi
nihayat meharban raham waala hai (10)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ
أَخْرَجْتُم لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ۗ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ
لَنَنْصُرَنَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

kya tumne munafiqo ko na dekha ke apne bhaiyo kafir
kitabiyo se kehte hain ke agar tum nikaale gaye to
zaroor hum tumhare saath nikal jayenge aur hargiz

tumhare baare mein kabhi kisi ki na manenge aur tumse ladai hui to hum zaroor tumhari madad karenge aur allah gawah hai ke wo jhoote hain (11)

لَيْنٌ أَخْرَجُوا لِأَيُّخْرَجُونَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَآ يَنْصُرُونَهُمْ ۚ وَلَئِنْ
نَصَرُوهُمْ لَيُوَلِّنَنَّ الْأَدْبَارَ ۚ ثُمَّ لَآ يَنْصُرُونَ ﴿١١﴾

agar wo nikaale gaye to ye unke saath na niklenge aur unse ladai hui to ye unki madad na karenge aur agar unki madad ki bhi to zaroor peeth pher kar bhagenge phir madad na payenge (12)

لَآ تَنْتُمُ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّآ يَفْقَهُونَ ﴿١٢﴾

beshak unke dilo mein allah se zyada tumhara dar hai ye isliye ke wo nasamajh log hain (13)

لَآ يُقَاتِلُونَكُمْ جَبِيْعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مَّحْصَنَةٍ أَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ
شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَبِيْعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّآ يَعْقِلُونَ ﴿١٣﴾

ye sab mil kar bhi tumse na ladenge magar qila band shehro mein ya dhuso ke pichhe aapas mein unki aanch sakht hai tum unhein ek jattha samjhoge aur unke dil alag alag hain ye isliye ke wo be aql log hain (14)

كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٤﴾

unki si kahawat jo abhi qareeb zamana mein unse pehle the unhone apne kaam ka wabaal chakha aur unke liye dardnak azaab hai (15)

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي

أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

shaitan ki kahawat jab usne aadmi se kaha kufr kar phir jab usne kufr kar liya bola main tujhse alag hoon main allah se darta hoon jo saare jahaan ka rab (16)

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾

to un dono ka anjaam ye hua ke wo dono aag mein hain humesha us mein rahein aur zalimo ki yahi saza hai (17)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتُنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ

اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

aye imaan waalo allah se daro aur har jaan dekhe ke kal ke liye kya aage bheja aur allah se daro beshak allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (18)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾

aur un jaise na ho jo allah ko bhool baithe to allah ne unhein bala mein daala ke apni jaanein yaad na rahi wahi fasiq hain (19)

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾

dozakh waale aur jannat waale barabar nahin jannat waale hi muraae ko pahunche (20)

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ

الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

agar hum ye quran kisi pahaad par utaarte to zaroor tu use dekhta jhuka hua paash paash hota allah ke khauf

se aur ye misalein logon ke liye hum bayaan farmate hain ke wo sochein (21)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢١﴾

wahi allah hai jiske siwq koi mabood nahin har nihaan wa ayaan ka janne waala wahi hai bada meharban rahmat waala (22)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٢﴾

wahi hai allah jiske siwa koi mabood nahin badshah nihayat paak salamati dene waala amaan bakhshne waala hifazat farmane waala izzat waala azmat waala takabbur waala allah ko paaki hai unke shirk se (23)

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٣﴾

wahi hai allab banane waala paida karne waala har ek ko soorat dene waala usi ke hain sab achhe naam uski paaki bolta hai jo kuchh aasmano aur zameen mein hai aur wahi izzat wa hikmat waala hai (24)

Surah Mumtahina

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَ

قَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
رَبِّكُمْ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمُؤَدَّةِ ۚ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝

aye imaan mere aur apne dushmano ko dost na banao
tum unhein khabrein pahunchate ho dosti se halanki
wo munkir hain us haq ke jo tumhare paas aaya ghar
se juda karte hain rasool ko aur tumhein is par ke tum
apne rab allah par imaan laaye agar tum nikle ho meri
raah mein jihad karne aur meri raza chahne ko to unse
dosti na karo tum unhein khufya payaam muhabbat ka
bhejte ho aur main khoob jaanta hoon jo tum chhupao
aur jo zaahir karo aur tum mein jo aisa kare wo beshak
seedhi raah se behka (1)

إِنْ يَتَّقُواكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ
بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝

agar tumhein paayein to tumhare dushman honge aur
tumhari taraf apne haath aur apni zubanein burai ke
saath daraaz karenge ur unki tamanna hai ke kisi tarah
tum kafir ho jao (2)

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفَصِّلُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

hargiz kaam na aayenge tumhein tumhare rishtedar
aur na tumhari awlaad qiyamat ke din tumhein unse

alag kar dega aur allah tumhare kaam dekh raha hai (3)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا
بُرءَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّثْنَا كَقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ
لَا تُسْجِدْ لِلْكَوْكَبِ إِنَّ أَعْيُنَنَا عَلَى اللَّهِ فَتَسْجُدْ لَهُ وَتَسْجُدْ لِلشَّيْءِ الَّذِي يَرْتَضِي عَيْنُ اللَّهِ
وَإِنَّمَا تَسْجُدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ

beshak tumhare liye achhi pairwi thi ibrahim aur uske saath waalo mein jab unhone apni qaum se kaha beshak hum bezaar hain tumse aur unse jinhein allah ke siwa pujte ho hum tumhare munkir hue aur hum mein aur tum mein dushmani aur adawat zaahir ho gai humesha ke liye jab tak tum ek allah par imaan na laao magar ibrahim ka apne baap se kehna ke main zaroor teri maghfirat chaunga aur main allah ke saamne tere kisi nafa ka malik nahin aye humare rab humne tujhi par bharosa kiya aur teri hi taraf ruju laaye aur teri hi taraf phirna hai (4)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

aye humare rab humein kafiro ki aazmaish mein na daal aur humein bakhsh de aye humare rab beshak tu hi izzat wa hikmat waala hai (5)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَوَصَّ
يَتَّوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

beshak tumhare liye un mein achhi pairwi thi use jo allah aur pichhle din ka ummeedwaar hua aur jo moonh phere to beshak allah hi beniyaz hai sab khoobiyo saraha (6)

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ۗ وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

qareeb hai ke allah tum mein aur un mein jo un mein se tumhare dushman hain dosti kar de aur allah qadir hai aur allah bakhshne waala meharbaan hai (7)

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

allah tumhein unse mana nahin karta jo tum se deen mein na lade aur tumhein tumhare gharo se na nikala ke unke saath ehsan karo aur unse insaf ka bartao barto to beshak insaf waale allah ko mahboob hain (8)

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

allah tumhein unhi se mana karta hai jo tumse deen mein lade ya tumhein tumhare gharo se nikala ya tumhare nikaalne par madad ki ke unse dosti karo aur jo unse dosti kare to wahi sitamgaar hain (9)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَبَيِّنُهُنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَاتُّوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ

تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ وَسَأَلُوا مَا
 أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

aye imaan waalo jab tumhare paas musalman auratein
 kufristan se apne ghar chhod kar aayein to unka
 intehan kar lo allah unke imaan ka haal behtar jaanta
 hai phir agar wo tumhein imaan waaliya maloom ho to
 unhein kafiro ko wapas na do na ye unhein halaal na
 wo inhein halaal aur inke kafir shauharo ko de do jo
 unka kharch hua aur tum par kuchh gunah nahin ke
 unse nikah kar lo jab unke mehar unhein do aur
 kafirniyo ke nikah par jame na rahi aur maang lo jo
 tumhara kharch hua aur kafir maang lein jo unhone
 kharch kiya ye allah ka hukm hai wo tum mein faisla
 farmata hai aur allah ulm wa hikmat waala hai (10)

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ الَّذِينَ ذَهَبَتْ
 أَرْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

aur agar musalmano ke haath se unki kuchh auratein
 kafiro ki taraf nikal jaayein phir tum kafiro ko saza do
 to jin ki auratein jaati rahi thi ghanimat mein se unhein
 itna de do jo unka kharch hua tha aur allah se daro jis
 par tumhein imaan hai (11)

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا
 يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يَفْتَرِينَ بَيْنَهُ بَيْنَ
 أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

aye nabi jab tumhare huzoor musalman auratein haazir ho us par bai'at karne ko ke allah ka shareek kuchh na thehrayengi aur na chori karenge aur na badkari aur na apni awlaad ko qatl karenge aur na wo buhtan layengi jise apne haatho aur paao ke darmiyan yaani moza -e- wiladat mein uthayein aur kisi nek baat mein tumhari nafarmani na karenge to unse bai'at lo aur allah se unki maghfirat chaho beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿١٠﴾

aye imaan waalo un logon se dosti na karo jin par allah ka ghazab hai wo aakhira se aas tod baithe hain jaise kafir aas tod baithe qabr waalo se (13)

Surah Saff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٠﴾

allah ki paaki bolta hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein hai aur wahi izzat wa hikmat waala hai (1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿١٠﴾

aye imaan waalo kyun kehte ho wo jo nahin karte (2)

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝

kitni sakht napasand hai allah ko wo baat ke kaho jo na karo (3)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَتْهُمْ بُيُوتُهُمْ مَرْصُوصًا ۝

beshak allah dost rakhta hai unhein jo uski raah mein ladte hain para bandh kar goya wo imarat hain raanga pilai (4)

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ لِمَ تُوذُونَ نَبِيَّ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۝

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۝ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

aur yaad karo jab moosa ne apni qaum se kaha aye meri qaum mujhe kyun satate ho halanki tum jante ho ke main tumhari taraf allah ka rasool hoon phir jab wo tedhe hue allah ne un ke dil tedhe kar diye aur fasiq logon ko allah raah nahin deta (5)

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا

بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۝ فَلَمَّا

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝

aur yaad karo jab eisa bin maryam ne kaha aye bani israyeel main tumhari taraf allah ka rasool hoon apne se pehli kitab taurait ki tasdeeq karta hua aur un rasool ki basharat sunata hua jo mere baad tashreef layenge unka naam ahmad hai phir jab ahmad unke paas raushan nishaniya ke kar tashreef laaye bole ye khula jadu hai (6)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٧﴾

aur usse badh kar zalim kaun jo allah par jhoot
baandhe halanki use islam ki taraf bulaya jaata ho aur
zalim logon ko allah raah nahin deta (7)

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٨﴾
chahte hain ke allah ka noor apne moonho se bujha
dein aur allah ko apna noor poora karna pade bura
maanein kafir (8)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

wahi hai jisne apne rasool ko hidayat aur sachhe deen
ke saath bheja ke use sab deeno par ghalib kare pade
bura maanein mushrik (9)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾
aye imaan waalo kya main bata doon wo saudagari jo
tumhein dardnak azaab se bacha le (10)

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

imaan rakho allah aur uske rasool par aur allah ki raah
mein apne maalo jaan se kihad karo ye tumhare liye
behtar hai agar tum jaano (11)

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةً
فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

wo tumhare gunah bakhsh dega aur tumhein baagho mein le jayega jinke niche nehrein rawaan aur pakeeza mahll mein jo basne ke baagho mein hain yahi badi kamyabi hai (12)

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

aur ek nemat tumhein aur dega jo tumhein pyaaru hai allah ki madad aur jald aane waali fateh aur aye mahboob musalmano ko khushi suna do (13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمْنَتْ ظَّالِفَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ ظَّالِفَةً ۖ فَأَيُّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَهْرِينَ ۝

aye imaan waalo deene khuda ke madadgaar ho jaise eisa bin maryam ne hawariyo se kaha tha kaun hai jo allah ki taraf ho kar meri madad karein hawari bole hum deene khuda ke madadgaar hain to bani israyeel se ek giroh imaan laaya aur ek giroh ne kufr kiya to humne imaan waalo ko unke dushmano par madad di to ghalib ho gaye (14)

Surah Jumuah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝

allah ki paaki bolta hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein hai badshah kamaal paaki waala izzat waala hikmat waala (1)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنَفَى ضَالِّينَ ۝

wahi hai jisne anpadho mein unhi mein se ek rasool bheja ke un par uski aayatein padhte hain aur unhein paak karte hain aur unhein kitab aur hikmat ka ilm ata farmate hain aur beshak wo isse pehle zaroor khuli gumrahi mein the (2)

وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

aur un mein se auro ko paak karte aur ilm ata farmate hain jo un aglo se na mile aur wahi izzat wa hikmat waala hai (3)

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

ye allah ka fazl hai jise chahe de aur allah bade fazl waala hai (4)

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْجَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ طِبُّسٌ

مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

unki misaal jin par taurait rakhi gai thi phir unhone uski hukm bardari na ki gadhe ki misaal hai jo peeth par kitabein uthaye kya hi buri misaal hai un logon ki jinhone allah ki aayatein jhutlaai aur allah zalimo ko raah nahin deta (5)

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا
الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

tum farmao aye yahoodiyo! agar tumhein ye gumaan hai ke tum allah dost ho aur log nahin to marne ki aarzu karo agar tum sachhe ho (6)

وَلَا يَتَمَنَّوْنَہٗ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝

aur wo kabhi iski aarzu na karenge un kotako ke sabab jo unke haath aage bhej chuke hain aur allah zalimo ko jaanta hai (7)

قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

tum farmao wo maut jisse tum bhagte ho wo to zaroor tumhein milni hai phir uski taraf phere jaaoge jo chhupa aur zaahir sab kuchh jaanta hai phir wo tumhein bata dega jo kuchh tum ne kiya tha (8)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَ
ذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

aye imaan waalo jab namaz ki azaan ho jumuah ke din to allah ke zikr ki taraf daudo aur khareedo farokht chhod do ye tumhare liye behtar hai agar tum jaano (9)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا ۗ الْعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

phir jab namaz ho chuke to zameen mein phail jaao aur allah ka fazl talash karo aur allah ko bahut yaad

karo is ummeed par ke falah pao (10)

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ط قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن
اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزُقِينَ ۝

aur jab unhone koi tijarat ya khel dekha uski taraf chal diye aur tumhein khutba mein khada chhod gaye tum farmao wo jo allah ke paae hai khel se aur tijarat se behtar hai aur allah ka rizq sabse achha (11)

Surah Munafiqoon

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ط
وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝

jab munafiq tumhare huzoor haazir hote hain kehte hain ke hum gawahi dete hain ke huzoor beshak yaqeenan allah ke rasool hain aur allah jaanta hai ke tum uske rasool ho aur allah gawahi deta hai ke munafiq zaroor jhoote hain (1)

اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

unhone apni qasmo ko dhaal thehra liya to allah ki raah se roka beshak wo bahut hi bure kaam karte hain (2)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝

ye isliye ke wo zuban se imaan laaye phir dil se kafir hue to unke dilo par muhar kar di gai to ab wo kuchh nahin samajhte (3)

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۗ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ ۗ كَانْتَهُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ ۗ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۗ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۗ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۗ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝

aur jab tu unhein dekhe unke jism tujhe bhale maloom ho aur agar baat karein to tu unki baat ghaur se sune goya wo kadiya hain deewar se tikaai hui har buland aawaz apne hi upar le jaate hain wo dushman hain to unse bachte raho allah unhein maare kahan aundhe jaate hain (4)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّأَوْرَعُوا سَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝

aur jab unse kaha jaaye ke aao rasoolullah tumhare liye muaafi chahein to apne sar ghumate hain aur tum unhein dekhoge ghuroor karte hue moonh pher lete hain (5)

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

un par ek sa hai tum unki muaafi chaho ya na chaho allah unhein hargiz na bakhshega beshak allah fasiqo ko raah nahin deta (6)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۗ وَاللَّهُ

حَزَّآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝

wahi hain jo kehte hain un par kharch na karo jo rasoolullah ke paas hain yahan tak ke pareshan ho jaayein aur allah hi ke liye hain aasmano aur zameen ke khazane magar munfiqo ko samajh nahin (7)

يَقُولُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ اِلَّا عَزْمٌ مِنْهَا الْاَدْلٰلُ ۙ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ

لِرَسُوْلِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

kehte hain hum madina phir kar gaye to zaroor jo badi izzat wala hai wo us mein se nikaal dega use jo nihayat zillat waala hai aur izzat to allah aur uske rasool aur musalmano hi ke liye hai magar munafiqo ko khabar nahin (8)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۙ وَ مَنْ يَّفْعَلْ

ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

aye imaan waalo tumhare maal na tumhari awlaad koi cheez tumhein allah ke zikr se ghafil na kare aur jo aisa kare to wahi log nuqsan mein hain (9)

وَ اَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآئِيْ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا

اَخَّرْتَنِيْٓ اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيْبٍ ۙ فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُنْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

aur humare diye mein se kuchh humari raah mein kharch karo qabal iske ke tum mein kisi ko maut aaye phir kehne lage aye mere rab tune mujhe thodi muddat tak kyun muhlat na di ke main sadqa deta aur neko mein hota (10)

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

aur hargiz allah kisi jaan ko mohlat na dega jab uska waada aa jaaye aur allah ko tumhare kaamo ki khabar hai (11)

Surah Taghabun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۗ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

allah ki paaki bolta hai jo kuchh aasmano mein hai aur jo kuchh zameen mein usi ka mulk hai aur usi ki tareef aur wo har cheez par qadir hai (1)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

wahi hai jisne tumhein paida kiya to tum mein koi kafir aur tum mein koi musalman aur allah tumhare kaam dekh raha hai (2)

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۗ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝

usne aasman aur zameen haq ke saath banaye aur tumhari tasweer ki to tumhari achhi soorat aur usi ki taraf phirna hai (3)

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

بَدَاتِ الصُّدُورِ ۝

jaanta hai ko kuchh aasmano aur zameen mein hai aur
jaanta hai jo tum chhupate aur zaahir karte ho aur
allah dilo ki jaanta hai (4)

الْمُ يَأْتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَدَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

الْيَوْمِ ۝

kya tumhein unki khabar na aai jinhone tumse pehle
kufr kiya aur apne kaam ka wabaal chalha aur unke liye
dardnak azaab hai (5)

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا

وَاسْتَغْنَى اللَّهُ ۝ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

ye isliye ke unke paas unke rasool raushan daleelein
laate to bole kya aadmi humein raah batayenge to kafir
hue phir gaye aur allah ne be niyazi ko kaam farmaya
aur allah be niyaz hai sab khoobiyo saraha (6)

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا ۝ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤَنَّ بِمَا

عَمِلْتُمْ ۝ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

kafiro na baka ke wo hargiz na uthaye jayenge tum
farmao kyun nahin mere rab ki qasam tum zaroor
uthaye jaoge phir tumhare kotak tumhein jata diye
jayenge aur ye allah ko aasan hai (7)

فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ۝ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

to imaan laao allah aur uske rasool aur us noor par jo
humne utaara aur allah tumhare kaamo se khabardar

hai (8)

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨﴾

jis din tumhein ikattha karega sab jama hone ke din wo
din hai haar walo ki haar khulne ka aur jo allah par
imaan laaye aur achha kaam kare allah uski buraiya
utaar dega aur use baagho mein le jayega jinke niche
nehrein bahein ke wo humesha un mein rahein yahi
badi kamyabi hai (9)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَسَاءَ
الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

aur jinhone kufr kiya aur humari aayatein jhutlaai wo
aag waale hain humesha us mein rahein aur kya hi
bura anjaam (10)

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠﴾

koi musibat nahin pahunchti magar allah ke hukm se
aur jo allah par imaan laaye allah us ke dil ko hidayat
farma dega aur allah sab kuchh jaanta hai (11)

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ
النَّبِيِّ ﴿١١﴾

aur allah ka hukm maani aur rasool ka hukm maano
phir agar tum moonh phero to jaan lo ke humare

rasool par sirf sareeh pahuncha dena hai (12)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

allah hai jiske siwa kisi ki bandagi nahin aur allah hi par
imaan waale bharosa karein (13)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ فَأَحْذَرُوا هُمُ ۗ وَإِنْ

تَعَفَّوْا وَتَضَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

aye imaan waalo tumhari kuchh bibiya aur bachhe
tumhare dushman hain to unse ehtiyat rakho aur agar
muaaf karo aur dar guzar karo aur bakhsh do to
beshak allah bakhshne waala meharbaan hai (14)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَآ أَجْرٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

tumhare maal aur tumhare bachhe jaanch hi hain aur
allah ke paas bada sawaab hai (15)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ

يُوقِ شَحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾

to allah se daro jahan tak ho sake aur farman suno aur
hukm maano aur allah ki raah mein kharch karo apne
bhale ko aur jo apni jaan ke lalach se bachaya gaya to
wahi falaah paane waale hain (16)

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

agar tum allah ko achha qarz doge wo tumhare liye
uske doone kar dega aur tumhein bakhsh dega aur
allah qadr farmane waala hilm waala hai (17)

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

har nihaan aur ayaan ka janne waala izzat waala
hikmat waala (18)

Surah Talaq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ ۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَأْحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

aye nabi jab tum log aurton ko talaq do to unki iddat
ke waqt par unhen talaq do aur iddat ka shumar rakho
aur apne rabb allah se daro iddat me unhen unke
gharo se na nikalo aur na wo aap niklen magar ye ke
koi sareeh behayai ki baat laye aur ye allah ki haden
hain aur jo allah ki hadon se aage badha beshak usne
apni jaan par zulm kiya tumhen nahi maloom shayad
allah iske baad koi naya hukm bheje (1)

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقْبِمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝

to jab wo apni meeaad tak pahuchne ko ho to unhen

bhalai ke sath rok lo ya bhalai ke sath juda kar do aur apne me do siqah ko gawaah kar lo aur allah ke liye gawahi qaeem karo isse nasihat farmayi jati hai use jo allah aur pichhle din par imaan rakhta ho aur jo allah se dare allah uske liye najaat ki raah nikaal dega (2)

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

aur use wahan se rozi dega jahan uska gumaan na ho aur jo allah par bharosa kare to wo use kafi hai beshak allah apna kaam poora karne wala hai beahak allah ne har cheez ka ek andaza rakha hai (3)

وَالسُّبْحِ بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الْحَيْضِ مَنْ نَسِيَكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ۗ وَالسُّبْحِ لَمْ يَحِضْنَ ۗ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

aur tumhari auraton me jinhen haiz ki umeed na rahi agar tumhen kuchh shak ho to unki iddat teen maheene hai aur unki jinhen abhi haiz na aaya aur hamal waliyon ki meeaad ye hai ki wo apna hamal jan len aur jo allah se dare allah uske kaam me aasani farma dega (4)

ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْنَا ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۝

ye allah ka hukm hai ke usne tumhari taraf utara aur jo allah se dare allah uski buraiyan utar dega aur use bada sawab dega (5)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّبِعُوا أَمْرَهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْئُورٌ لَكُمْ
 أُخْرَى ۝

auraton ko wahan rakho jahan khud rehte ho apni taqat bhar aur unhen zarar na do ke un par tangi karo aur agar hamal waliyan ho to unhen naan wa nafqa do yahan tak ke unke bacche paida ho fir agar wo tumhare liye baccha ko doodh pilaye to unhen uski ujrati do aur aaps me maqool taur par mashwara karo fir agar baaham muzayqa karo to qareeb hai ke use aur doodh pilane wali mil jayegi (6)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ طَلَا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

maqdoor wala apne maqdoor ke qabil nafqa de aur jis parr uska rizq tang kiya gaya wo usme se nafqa de jo use allah ne diya allah kisi jaan par bojh nahi rakhta magar usi qabil jitna use diya hai qareeb hai ke allah dushwari ke baad aasaani farma dega (7)

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا ۗ وَ
 عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا تَكْرَارًا ۝

aur kitne hi shehar the jinhone apne rabb ke hukm aur uske rasoolon se sarkashi ki to humne unse sakht hisab liya aur unhen buri maar di (8)

فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝٩

to unhone apne kiye ka wabaal chakha aur unke kaam ka anjaam ghata hua (9)

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝١٠

allah ne unke liye sakht azaab taiyaar kar rakha hai to allah se daro ay aql walon wo jo imaan laye ho beshak allah ne tumhare liye izzat utari hai (10)

رَسُولًا لِّيَنبَأَ عَنكُمْ أَيْتِ اللَّهِ مَبِيتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝١١

wo rasool ke tum par allah ki raushan aayaten padhta hai taki unhen jo imaan laye aur acche kaam kiye andheriyon se ujale ki taraf le jaye aur jo allah par imaan laye aur accha kaam kare wo use baagho me le jayega jinke neechे nehere bahe jinme hamesha hamesha rahe beshak allah ne unkile liye acchi rozi rakhi (11)

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۖ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِيَتَلَعَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝١٢

allah hai jisne saat (7) aasman banaye aur unhi ki barabar zameene hukm unke darmiyaan utarta hai taki tum jaan lo ki allah sab kuchh kar sakta hai aur allah ka ilm har cheez ko muheet hai (12)

Surah Tehreem

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat wala

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿١﴾

ay gaib batane wale (nabi) tum apne upar kyu haram kiye lete ho wo cheezen jo allah ne tumhare liye halaal ki apni biwiyon ki marzi chahte ho aur allah bakhshne wala meharban hai (1)

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْبَانِكُمْ ۗ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۗ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

beshak allah ne tumhare liye tumhari qasmo ka utaar muqarrar farma diya aur allah tumhara maula hai aur allah ilm wa hikmat wala hai (2)

وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ

بُعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا ۗ قَالَ نَبَّأَنِي

الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ﴿٣﴾

aur jab nabi ne apni ek biwi se ek raaz ki baat farmayi fir jab wo uska zikr kar baithi aur allah ne use nabi par zahir kar diya to nabi ne use kuchh jataya aur kuchh se chashm poshi farmayi fir jab nabi ne use uski khabar di boli huzoor ko kis ne bataya farmaya mujhe ilm wale khabardar ne bataya (3)

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۗ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ
جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝

nabi ki dono biwiyo agar allah ki taraf tum ruju' karo to zaroor tumhare dil raah se kuchh hatt gaye hain aur agar un par zor bandho to beshak allah unka madadgar hai aur jibril aur nek imaan wale aur uske baad firishte madad par hai (4)

عَسَى رَبُّهُ أَنْ يَبَدِّلَهُ آزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسَلِّمًا مَوْمِنًا قُتِلَتْ
تَيْبَتٍ عِبْدَتٍ لَيْبَحَتْ تَيْبَتٍ وَآبَكَارًا ۝

unka rabb qareeb hai agar wo tumhen talaq de den ke unhen tum se behtar biwiyen badal de ita'at waliyaan imaan waliyaan adab waliyaan tauba waliyaan bandagi waliyaan rozadare byahiyaan aur kuwariyan (5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اقْوُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَظُ شِدَادٍ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

ay imaan walo apni jaano aur apne ghar walo ko us aag se bachao jiske indhan aadmi aur patthar hain us par sakht karre firishte muqarrar hain jo allah ka hukm nahi taalte aur jo unhen hukm ho wahi karte hain (6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۗ إِنَّمَا تُجْرُونَ ۗ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

ay kafiron aaj bahane na banao tumhein wahi badla milega jo tum karte the (7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ۗ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا
لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾

ay imaan walon allah ki taraf aisi tauba karo jo aage ko nasihat ho jaye qareeb hai ke tumhara rabb tumhari buraiyan tum se utar de aur tumhen baagho me le jaye jinke neechे nehre bahe jis din allah ruswa na karega nabi aur unke sath ke imaan walo ko unka noor daudta hoga unke aage aur unke dahine arz karenge ay hamare rabb hamare liye hamara noor poora kar de aur hame bakhsh de beshak tujhe har cheez par qudrat hai (8)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ
بِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٩﴾

ay ghaib batane wale(nabi) kafiron par aur munafiqo par jihaad karo aur un par sakhti farmao aur unka thikana jahannam hai aur kya hi bura anjaam (9)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتِ نُوحٍ وَامْرَأَاتِ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ
مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتْهُمَا فَلَمَّ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا
النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ﴿١٠﴾

allah kafiron ki misaal deta hai nooh ki aurat aur looth ki aurat wo hamare bando me do sazaaware qurb bando ke nikah me thi fir unhone unse dagha ki to wo allah ke samne unhen kuchh kaam na aaye aur farmaya diya gaya ke tum dono aurate jahannam me jao jane walon ke sath (10)

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ
بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١١﴾

aur allah musalmano ki misaal bayan farmata hai
firaun ki biwi jab usne arz ki ay mere rabb mere liye
apne paas jannat me ghar bana aur mujhe firaun aur
uske kaam se najaat de aur mujhe zalim logon se
najaat bakhsh (11)

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ
بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنِينِ ﴿١٢﴾

aur imran ki beti maryam jisne apni paarsayi ki hifazat
ki to humne usme apni taraf ki rooh phoonki aur usne
apne rabb ki baaton aur uski kitabon ki tasdeeq ki aur
farmabardaro me hui (12)

Untiswa Paarah

Surah Mulk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾

badi barakat wala hai wo jiske qabze me sara mulk aur
aur wo har cheez par qaadir hai (1)

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْغَفُورُ ﴿٧﴾

wo jisne maut aur zindagi paida ki ke tumhari jaanch ho tum me kiska kaam zyada accha hai aur wahi hai izzat wala bakhshish wala hai (2)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ

الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٨﴾

jisne saat(7) aasman banaye ek ek upar dusra, to rahman ke banane me kya farq dekhta hai tu nigaah utha kar dekh tujhe koi rakhna nazar aata hai (3)

ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٩﴾

fir dubara nighah utha nazar teri taraf nakaam palat aayegi thaki maandi (4)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ

عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

aur beshak humne neeche ke aasman ko charago se aarasta kiya aur unhe shaitano ke liye maar kiya aur unke liye bhadakti aag ka azaab taiyar farmaya (5)

وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أَبْرَبَّهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

aur jinhone apne rabb ke sath kufr kiya unke liye jahannam ka azaab hai aur kya hi bura anjaam (6)

إِذَا الْقُؤُوقِبِهَا سَمِعُوا لِهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ﴿١٢﴾

jab usme dale jayenge uska renkna sunenge ki josh marti hai (7)

تَكَادُ تَبِيرُ مِنَ الْغَيْظِ طُكَّيَا لَتَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿٨﴾

maloom hota hai ke shiddate ghazab me fat jayegi jab kabhi koi giroh usme dala jayega uske darogha unse puchhenge kya tumhare paas koi darr sunane wala na aaya tha (8)

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۖ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ؕ إِنْ أَنْتُمْ

إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾

kahenge kyu nahi beshak hamare paas darr sunane wale tashreef laye fir hamne jhuthlaya aur kaha allah ne kuchh nahi utara tum to nahi magar badi gumrahi me (9)

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١٠﴾

aur kahenge agar hum sunte ya samajhte to dozakh walo me na hote (10)

فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۖ فَسُحِقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿١١﴾

ab apne gunah ka iqrar kiya to fitkar ho dozakhiyon ko (11)

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾

beshak wo jo be-dekhe apne rabb se darte hain unke liye bakhshish aur bada sawab hai (12)

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٣﴾

aur tum apni baat aahista kaho ya aawaz se wo to dilon ki janta hai (13)

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

kya wo na jane jisne paida kiya aur wahi hai har bareeki janta khabardar (14)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

wahi hai jisne tumhare liye zameen raam kar di to uske rasto me chalo aur allah ki rozi me se khao aur usi ki taraf uthna hai (15)

ءَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

kya tum usse nidar ho gaye jiski saltanat aasman me hai ke tumhen zameen me dhansa de jabhi wo kaapti rahe (16)

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾

ya tum nidar ho gaye usse jiski saltanat aasman me hai ke tum par pathraw bheje to ab janoge kaisa tha mera darana (17)

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾

aur beshak unse aglo ne jhuthlaya to kaisa hua mera inkar (18)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ طَافَتْ وَيَقْبِضْنَ ۗ ۗ مَا يُبْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۗ
إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

aur kya unhone apne upar parinde na dekhe par failaate aur sametate unhen koi nahi rokta siwa rahman ke beshak wo sab kuchh dekhta hai (19)

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصَرُّكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ۗ إِنَّ الْكُفْرُونَ إِلَّا فِي

عُرُورٍ ۞

ya wo kaun sa tumhara lashkar hai ki rahman ke muqabil tumhari madad kare kafir nahi magar dhokhe me (20)

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرُزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ۞

ya kaun sa aisa hai jo tumhen rozi de agar wo apni rozi rok le balki wo sarkash aur nafrat me dheet bane hue hain (21)

أَفَمَنْ يَبْشَىٰ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَبْشَىٰ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞

to kya wo jo apne muh ke bal aundha chale zyada raah par hai ya wo jo seedha chale seedhi raah par (22)

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ ۞

tum farmao wahi hai jisne tumhen paida kiya aur tumhare liye kaan aur aankh aur dil banaye kitna kam haqq maante ho (23)

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞

tum farmao wahi hai jisne zameen me tumhen failaya aur usi ki taraf uthaye jaoge (24)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۞

aur kehte hain ye waada kab aayega agar tum sacche ho (25)

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞

tum farmao ye ilm to allah ke paas hai aur mai to yahi

saaf darr sunane wala hun (26)

فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

تَدْعُونَ ﴿٢٦﴾

fir jab use paas dekhenge kafir ke muh bigad jayenge
aur unse farmaya diya jayega ye hai jo tum maangte
the (27)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكُفْرِينَ مِنْ

عَذَابِ الْيَوْمِ ﴿٢٧﴾

tum farmao bhala dekho to agar allah mujhe aur mere
sath walon ko halaak kar de ya hum par raham
farmaye to wo kaun sa hai jo kafiro ko dukh ke azaab
se bacha lega (28)

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَتَعَلَّمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨﴾

tum farmao wahi rahman hai hum us par imaan laye
aur usi par bharosa kiya to ab jaan jaoge kaun khuli
gumrahi me hai (29)

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٢٩﴾

tum farmao bhala dekho to agar subah ko tumhara
paani zameen me dhans jaye to wo kaun hai jo tumhen
paani la de nigah ke saamne behta (30)

Surah Qalam

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝

qalam aur unke likhe ki qasam (1)

مَا أَنْتَ بِمَجْنُونٍ ۝

tum apne rab ke fazl se majnoon nahin (2)

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝

aur zaroor tumhare liye be inteha sawaab hai (3)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

aur beshak tumhari khu bu badi shaan ki hai (4)

فَسَتُبْصَرُ وَيُبْصَرُونَ ۝

to ab koi dum jaata hai ke tum bhi dekh loge aur wo
bhi dekh lenge (5)

بِأَبْيِكُمُ الْمُفْتُونُ ۝

ke tum mein kaun majnoon tha (6)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

beshak tumhara rab khoob jaanta hai jo uski raah se
behke aur wo khoob jaanta hai jo raah par hai (7)

فَلَا تَطْعَمِ الْمُكْذِبِينَ ۝

to jhutlane waalo ki baat na sunna (8)

وَدُّوْا لَوْ تَدُهْنُ فَيُدْهِنُوْنَ ⑩

wo to is aarzu mein hain ke kisi tarah tum narmi karo
to wo bhi narm pad jaayein (9)

وَلَا تُطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ⑩

aur har aise ki baat na sunna jo bada qasmein khane
waala zaleel (10)

هَبَّاكَ مَشَاءٍ بِنَيْمٍ ⑩

bahut taane dene waala bahut idhar ki udhar lagata
phirne waala (11)

مَنْعًا لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَتَيْمٍ ⑩

bhalai se bada rokne waala hadd se badhne waala
gunahgar (12)

عُتِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٍ ⑩

durusht khuwas sab turra ye ke uski asal mein khata
(13)

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنَ ⑩

us par kuchh maal aur bete rakhta hai (14)

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑩

jab us par humari aayatein padhi jaayein kehta hai aglo
ki kahaniya hain (15)

سَنَسِيْبُهُ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ⑩

qareeb hai ke hum uske suwar ki si thothni par daagh
laga denge (16)

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرُنَّهَا مُصْبِحِينَ ⑩

beshak hum ne unhein jaancha jaisa us baagh waalo ko jaancha tha jab unhone qasam khai ke zaroor subah hote iske khet kaat lenge (17)

وَلَا يَسْتَتِنُونَ ﴿١٧﴾

aur insha allah na kaha (18)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿١٨﴾

to is par tere rab ki taraf se ek pheri karne waala phera kar gaya aur wo sote the (19)

فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿١٩﴾

to subah reh gaya jaise phal toota hua (20)

فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ﴿٢٠﴾

phir unhone subah hote aapas mein ek dusre ko pukara (21)

أَنْ اَعْدُوا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ﴿٢١﴾

ke tadke apni kheti ko chalo agar tumhein kaatni hai (22)

فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿٢٢﴾

to chale aur aapas mein aahista aahista kehte jaate the (23)

اَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ﴿٢٣﴾

ke hargiz aaj koi miskeen tumhare baagh mein aane na paaye (24)

وَعَدُوا عَلٰى حَزْدٍ قَدِيْرِيْنَ ﴿٢٤﴾

aur tadke chale apne is irada par qudrat samajhte (25)

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴿٢٦﴾

phir jab use dekha bole beshak hum rasta behak gaye
(26)

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾

balki hum be naseeb hue (27)

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تَسْبِحُونَنِي ﴿٢٨﴾

un mein jo sab se ghaneemat tha bola kya main tumse
nahin kehta tha ke tasbeeh kyun nahin karte (28)

قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾

bole paaki hai humare rab ko beshak hum zalim the
(29)

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْا وَمُونَ ﴿٣٠﴾

ab ek dusre ki taraf malamata karta mutawajje hua (30)

قَالُوا أَلَيْسَ لَنَا خَيْرٌ مِّنْهَا إِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ﴿٣١﴾

bole haaye kharabi humari beshak hum sarkash the
(31)

عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رٰغِبُونَ ﴿٣٢﴾

ummeed hai ke humein humara rab isse behtar badal
de hum apne rab ki taraf raghbat laate hain (32)

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۗ وَ لَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ ۗ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

maar aisi hoti hai aur beshak aakhirat ki maar sabse
badi kya achha tha agar wo jaante (33)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾

beshak dar waalo ke liye unke rab ke paas chain ke
baagh hain (34)

أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾

kya hum musalmano ko mujrim sa kar dein (35)

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

tumhein kya hua kaisa hukm lagate ho (36)

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٦﴾

kya tumhare liye koi kitab hai jis mein padhte ho (37)

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٧﴾

ke tumhare liye us mein jo tum pasand karo (38)

أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٨﴾

ya tumhare liye hum par kuchh qasmein hain qiyamat
tak pahunchti hui ke tumhein milega jo kuchh daawa
karte ho (39)

سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿٣٩﴾

tum unse puchho un mein kaunsa iska zaamin hai (40)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ ۖ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿٤٠﴾

ya unke paas kuchh shareek hain to apne shareeko ko
le kar aayein agar sachhe hain (41)

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤١﴾

jis din ek saaq kholi jayegi (jiske maana allah hi jaanta
hai) aur sajda ko bulaye jayenge to na kar sakenge (42)

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ

سَالِمُونَ ﴿٤٢﴾

neechi nigahein kiye hue un par khwari chadh rahi hogi
aur beshak dunya mein sajda ke liye bulaye jaate the
jab tandrust the (43)

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۖ

to us baat ko jhutlata hai use mujh par chhod do
qareeb hai ke hum unhein aahista aahista le jayenge
jahan se unhein khabar na hogi (44)

وَأُمْلِي لَهُمْ ۗ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۖ

aur main unhein dheel dunga beshak meri khufya
tadbeer bahut pakki hai (45)

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ۗ

ya tum unse ujrati maangte ho ke wo chatti ke bojhi
mein dabe hain (46)

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ۖ

ya unke paas ghaib hai ke wo likh rahe hain (47)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۗ

to apne rab ke hukm ka intezaar karo aur us machhli
waale ki tarah na hona jab is haal mein pukara ke uska
dil ghut raha tha (48)

لَوْ لَا أَن تَذَرِكَةَ نِعْمَةٍ مِنْ رَبِّهِ لَذَبَدَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۖ

agar uske rab ki nemat uski khabar ko na pahunch jaati
to zaroor maidan par phenk diya jaata ilzaam diya hua
(49)

فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ

to use uske rab ne chun liya aur apne qurbe khaas ke
sazawaaro mein kar liya (50)

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ
لَمَجْنُونٌ ﴿٥٠﴾

aur zaroor kafir to aise maloom hote hain ke goya apni
bad nazar laga kar tumhein gira denge jab quran sunte
hain aur kehte hain ye zaroor aql se door hain (51)

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾

aur wo to nahin magar naseehat saare jahaan ke liye
(52)

Surah Haaqah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

الْحَاقَّةُ ﴿١﴾

wo haqq hone wali (1)

مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾

kaisi wo haqq hone wali (2)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾

aur tumne kya jana kaisi wo haqq hone wali (3)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾

samood aur aad ne us sakht sadma dene wali ko

jhuthlaya (4)

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝

to samood to halaak kiye gaye hadd se guzri hui
chinghaad se (5)

وَأَمَّا عَادُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝

aur rahe aad wo halaak kiye gaye nihayat sakht garajti
aandhi se (6)

سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَلَاثِينَ أَيَّامٍ ۝ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۝

كَانَهُمْ أُعْجَازٌ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝

wo un par quwwat se laga di saat(7) raate aur aath(8)
din lagatar to us logon ko unme dekho bichhade hue
goya wo khajoor ke dund hain gire hue (7)

فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝

to tum unne kisi ko bacha hua dekhte ho (8)

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكِثُ بِالْخَاطِئَةِ ۝

aur firaun aur usse aglo aur ulatne wali bastiyan
khataa laye (9)

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَةً رَّابِيَةً ۝

to unhone apne rabb ke rasoolo ka hukm na mana to
usne unhen badhi chadhi girift se pakda (10)

إِنَّا لَنَبَّاظِعًا الْمَاءَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝

beshak jab paani ne sar uthaya tha humne tumhne
kashti me suwar kiya (11)

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أذُنٌ ۝ وَاعْيَةٌ ۝

ke use tumhare liye yaadgar kare aur use mahfooz rakhe wo kaan ke sun kar mehfooz rakhta ho (12)

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٢﴾

fir jab soor phoonk diya jaye ek dum (13)

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ﴿١٣﴾

aur zameen aur pahaad utha kar daf'atan choora kar diye jayen (14)

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٤﴾

wo din hai ke ho padegi hone wali (15)

وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٥﴾

aur aasman fat jayega to us din uska patla haal hoga (16)

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۗ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثِينَ ﴿١٦﴾

aur firishte uske kinare par khade honge aur us din tumhare rabb ja arah apne upar aath(8) firishte uthayenge (17)

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٧﴾

us din tum sab pesh honge ke tum me koi chhupe wali jaan chhup na sakegi (18)

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِبَيِّنَاتٍ ۖ فَيَقُولُ هَذَا مَا أُرْءُو ۗ اكْتَلَبْتَهُ ﴿١٨﴾

to wo jo apna naama e aa'mal dahine hath me diya jayega kahega lo mere namaye aamal padho (19)

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَةٌ ﴿١٩﴾

mujhe yaqeen tha ke mai apne hisab ko pahuchunga

(20)

فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢٠﴾

to wo mann mante chain me hain (21)

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢١﴾

buland baagh me(22)

فُطُوْفَهَا دَانِيَةً ﴿٢٢﴾

jiske khoshe jhuke hue (23)

كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا هٰنِيْٓٔاۙ بِمَاۙ اَسْلَفْتُمْ فِيۙ الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٣﴾

khao aur piyo rachta hua sila uska jo tum ne guzre
dino me aage bheja (24)

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِشِمٰلِهٖ ۖ فَيَقُوْلُ لِيَلَيِّنِيْ لِمَ اُوْتِ كِتٰبِيْهِ ﴿٢٤﴾

aur wo jo apna naama e aa'mal baye hath me diya
jayega kahega haye kisi tarah mujhe apna nawishta na
diya jata (25)

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيْهِ ﴿٢٥﴾

aur mai na janta ke hisab kya hai (26)

يَلَيِّنُهَاۙ كَاَنَّتِ الْقَا۟ضِيَةُ ﴿٢٦﴾

haaye kisi tarah maut hi qissa chuka jati (27)

مَاۙ اَغْنٰۙ عَنِّيۙ مَاۙ لِيْهِ ﴿٢٧﴾

mere kuchh kaam na aaya mera maal (28)

هَلٰكَ عَنِّيۙ سُلٰطِنِيْهِ ﴿٢٨﴾

mera sab zor jata raha (29)

خٰذُوْهُۙ فَعَلُوْهُ ﴿٢٩﴾

use pakdo fir use tauq daalo (30)

ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ ۝

fir use bhadakti aag me dhansao (31)

ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝

fir aisi zanjeer me jiska naap sattar hath hai use piro do
(32)

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝

beshak wo azmat wale allah par imaan na lata tha (33)

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

aur miskeen ko khana dene ki ragbat na deta (34)

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيبٌ ۝

to aaj yahan uska koi dost nahi (35)

وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝

aur na kuchh khane ko magar dozakhiyon ka peep (36)

لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

use na khayenge magar khatakar (37)

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصَرُونَ ۝

to mujhe qasam un cheezo ki jinhen tum dekhte ho
(38)

وَمَا لَا تُبْصَرُونَ ۝

aur jinhen tum nahi dekhte (39)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

beshak ye qur'an ek karam wale rasool se baaten hain

(40)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤٠﴾

aur wo kisi shayar ki baat nahi kitna kam yaqeen rakhte ho (41)

وَلَا يَقُولُ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكَّرُونَ ﴿٤١﴾

aur na kis kahin ki baat kitna kam dhyaan karte ho (42)

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٢﴾

usne utara hai jo sare jahan ka rabb hai (43)

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٣﴾

aur agar wo hum par ek baat bhi bana kar kehte (44)

لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٤﴾

zaroor hun unse baquwwat badla lete (45)

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٥﴾

fir hum unki rage dil kaat dete (46)

فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٦﴾

fir tum me koi unka bachaane wala na hota (47)

وَإِنَّهُ لَتَذَكَّرٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٧﴾

aur beshak ye qur'an darr walon ko naseehat hai (48)

وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٨﴾

aur zaroor hum jante hain ki tum me kuchh jhuthlane wale hain (49)

وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٤٩﴾

aur beshak wo kafiron par hasrat hai (50)

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾

aur beshak wo yaqeeni haqq hai (51)

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

to ay mehboob tum apne azmat wale rabb ki paaki
bolo (52)

Surah Ma'aarij

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾

ek maangne waala wo azaab maangta hai (1)

لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢﴾

jo kafiro par hone waala hai use koi taalne waala nahin
(2)

مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾

wo hoga allah ki taraf se jo bulandiyo ka malik hai (3)

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

malaika aur jibreel uski bargah ki taraf urooj karte hain
wo azaab us din hoga jiski miqdaar pachaas hazaar
baras hai (4)

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِينًا ﴿٥﴾

to tum achhi tarah sabr karo (5)

إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بَعِيدًا ۝

wo use door samajh rahe hain (6)

وَتَرَاهُ قَرِيبًا ۝

aur hum use nazdeek dekh rahe hain (7)

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِ ۝

jis din aasman hoga jaisi gali chandi (8)

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝

aur pahaad aise halke ho jayenge jaise oon (9)

وَلَا يَسْأَلُ حَيْمًا حَيْمًا ۝

aur koi dost kisi dost ki baat na puchhega (10)

يُبْصِرُونَهُمْ ۝ يُؤَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ۝

honge unhein dekhte hue mujrim aarzu karega kaash
is din ke azaab se chhutne ke badle mein de de apne
bete (11)

وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۝

aur apni joru aur apna bhai (12)

وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۝

aur apna kumba jis mein uski jagah hai (13)

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝

aur jitne zameen mein hain sab phir badla dena use
bacha le (14)

كَلَّا ۝ إِنَّهَا لَظَى ۝

hargiz nahin wo to bhadakti aag hai (15)

نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوْىِ ۝۱۶

khaal utaar lene waali (16)

تَدْعُوا مَنۢ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ۝۱۷

bula rahi hai usko jisne peeth di aur moonh phera (17)

وَجَمَعَ فَأَوْعَى ۝۱۸

aur jod kar sent rakha (18)

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝۱۹

beshak aadmi banaya gaya hai bada be sabra harees

(19)

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝۲۰

jab use burai pahunche to sakht ghabrane waala (20)

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝۲۱

aur jab bhalai pahunche to rok rakhne waala (21)

إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝۲۲

magar namazi (22)

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝۲۳

jo apni namaz ke paband hain (23)

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝۲۴

aur wo jin ke maal mein ek maloom haq hai (24)

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۝۲۵

uske liye jo maange aur jo maang bhi na sake to

mahroom rahe (25)

وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝۲۶

aur wo jo insaaf ka din sach jaante hain (26)

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٦﴾

aur wo jo apne rab ke azaab se dar rahe hain (27)

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَا مُونَ ﴿٢٧﴾

beshak unke rab ka azaab nidar hone ki cheez nahin
(28)

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حِفْظُونَ ﴿٢٨﴾

aur jo apni sharmgaho ki hifazat karte hain (29)

إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٢٩﴾

magar apni bibiyo ya apne haath ke maal kaneezo se
ke un par kuchh malammat nahin (30)

فَمَنْ ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿٣٠﴾

to jo un do ke siwa aur chahe wahi hadd se badhne
waale hain (31)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿٣١﴾

aur wo jo apni amanato aur apne ahad ki hifazat karte
hain (32)

وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٢﴾

aur wo jo apni gawahiyo par qaaim hain (33)

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٣﴾

aur wo jo apni namaz ki muhafizat karte hain (34)

أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٤﴾

ye hain jinka baagho mein aizaz hoga (35)

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾

to un kafiro ko kya hua tumhari taraf tez nighah se dekhte hain (36)

عَنِ الْيَبِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾

dahine aur baayein giroh ke giroh (37)

اِيَطْعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾

kya un mein har shakhs ye tama karta hai ke chain ke baagh mein dakhil kiya jaaye (38)

كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

hargiz nahin beshak humne unhein us cheez se banaya jise jaante hain (39)

فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ ﴿٤٠﴾

to mujhe qasam hai uski jo sab purabo sab pachhimo ka malik hai zaroor hum qadir hain (40)

عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۗ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾

ke unse achhe badal dein aur humse koi nikal kar nahin ja sakta (41)

فَدَرَّهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾

to unhein chhod do unki behoodgiyo mein pade aur khelte hue yahan tak ke apne din se milein jiska unhein waada diya jaata hai (42)

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾

jis din qabro se niklenge jhapte hue goya wo nishano ki taraf lapak rahe hain (43)

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾

aankhe nichi kiye hue un par zillat sawaar ye hai unka
wo din jiska unse waada tha (44)

Surah Nooh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١﴾

beshak humne nooh ko uski qaum ki taraf bheja ke
unke dara isse pehle ke un par dardnak azaab aaye (1)

قَالَ لِقَوْمِ إِيَّايَ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾

usne farmaya aye meri qaum main tumhare liye
sareeh dar sunane waala hoon (2)

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

ke allah ki bandagi karo aur usse daro aur mera hukm
maano (3)

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا

يُؤَخَّرُ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

wo tumhare kuchh gunah bakhsh dega aur ek
muqarrar miyaad tak tumhein muhlat dega beshak
allah ka waada jab aata hai hataya nahin jaata kisi
tarah tum jaante (4)

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝

arz ki aye mere rab maine apni qaum ko raat din
bulaya (5)

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ۝

to mere bulane se unhein bhagna hi badha (6)

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَ

أَصْرَوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝

aur maine jitni baar unhein bulaya tu un ko bakhsh
unhone apne kaano mein ungliya de li aur apne kapde
odh liye aur hat ki aur bada ghuroor kiya (7)

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۝

phir maine unhein alaniya bulaya (8)

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝

phir maine unse ba ailan bhi kaha aur aahista khufya
bhi kaha (9)

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝

to maine kaha apne rab se muaafi maango beshak wo
bada muaaf farmane waala hai (10)

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝

tum par sharrate ka meenh bhejega (11)

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

aur maal aur beto se tumhari madad karega aur wo
tumhare liye baagh bana dega aur tumhare liye
nehrein banayega (12)

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۖ

tumhein kya hua allah se izzat haasil karne ki ummeed nahin karte (13)

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۖ

halanki usne tumhein tarah tarah banaya (14)

الَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ

kya tum nahin dekhte allah ne kyunkar saat aasman banaye ek par ek (15)

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۖ

aur un mein chand ko raushni kiya aur suraj ko chiragh (16)

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۖ

aur allah ne tumhein sabze ki tarah zameen se ugaya (17)

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۖ

phir tumhein usi mein le jayega aur dobara nikalega (18)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ

aur allah ne tumhare liye zameen ko bichhona banaya (19)

لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۖ

ke uske wasee rasto mein chalo (20)

قَالَ نُوحٌ رَبِّ انَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۖ

nooh ne arz ki aye mere rab unhone meri nafarmani ki

aur aise ke pichhe ho liye jise uske maal aur awlaad ne nuqsan hi badhaya (21)

وَمَكْرُؤًا كَبِيرًا ۝

aur bahut bada daaon khele (22)

وَقَالُوا لَا تَنْزِيلٌ إِلَيْهِمْ وَلَا تَنْزِيلٌ وَدًّا وَلَا سَوَاءًا ۚ وَلَا يَعْثُوتُ وَيَعُوقُ وَ

نَسْرًا ۝

aur bole hargiz na chhodna apne khudao ko aur hargiz na chhodna wadd aur na suwaa aur yaghoos aur yaoq aur nasr ko (23)

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝

aur beshak unhone bahuto ko behkaya aur tu zalimo ko zyada na karna magar gumrahi (24)

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَذْخَلْنَا نَارًا ۚ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

أَنْصَارًا ۝

apni kaisi khatao par duboye gaye phir aag mein dakhil kiye gaye to unhone allah ke muqabil apna koi madadgaar na paaya (25)

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِينَ دَيَّارًا ۝

aur nooh ne arz ki aye mere rab zameen par kafiro mein se koi basne waala na chhod (26)

إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

beshak agar tu unhein rehne dega to tere bando ko gumrah kar denge aur unke awlaad hogi to wo bhi na hogi magar badkaar badi nashukr (27)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا
تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

aye mere rab mujhe bakhsh de aur mere maa baap ko aur use jo imaan ke saath mere ghar mein hai aur sab musalman mardo aur sab musalman aurato ko aur kafiro ko na badha magar tabahi (28)

Surah Jinn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝

tum farmao mujhe wahih hui ke kuchh jinno ne mera padhna kaan laga kar suna to bole humne ek ajeeb quran suna (1)

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۗ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

ke bhalai ki raah batata hai to hum us par imaan laaye aur hum hargiz kisi ko apne rab ka shareek na karenge (2)

وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝

aur ye ke humare rab ki shaan bahut buland hai na usne aurat ikhteyar ki aur na bachha (3)

وَأَنَّهُ كَانَ يَفْقُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ سَطَطًا ۝

aur ye ke hum mein ka bewuqoof allah par badh kar

baat kehta tha (4)

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

aur ye ke humein khayal tha ke hargiz jinn aur aadmi allah par jhoot na bandhenge (5)

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝

aur ye ke aadmiyo mein kuchh mard jinno ke kuchh mardo ki panah lete the to usse aur bhi unka takabbur badha (6)

وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝

aur ye ke unhone gumaan kiya jaisa tumhein gumaan hai ke allah hargiz koi rasool na bhejega (7)

وَأَنَا لَبَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُرْتَجَةً حَرًّا شَدِيدًا وَشُهَبًا ۝

aur ye ke humne aasman ko chhua to use paaya ke sakht pehre aur aag ki chingariyo se bhar diya gaya hai (8)

وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ۝

aur ye ke hum pehle aasman mein sunne ke liye kuchh mauqo par baitha karte the phir ab jo koi sune wo apni taak mein aag ka lokaa paaye (9)

وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِبَنِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝

aur ye ke humein nahin maloom ke zameen waloo se koi burai ka irada farmaya gaya hai ya unke rab ne koi bhalai chahi hai (10)

وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ۖ كُنَّا ظَرَائِقَ قَدَدًا ۝

aur ye ke hum mein kuchh nek hain aur kuchh dusri tarah ke hain hum kai raahein phate hue hain (11)

وَأَنَا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ۝

aur ye ke humko yaqeen hua ke hargiz zameen mein allah ke qaabu se na nikal sakenge aur na bhaag kar uske qabza se baahar ho (12)

وَأَنَّا لَبَا سِعْنَا الْهُدَىٰ أَمَنَّا بِهِ ۖ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۝

aur ye ke jab humne hidayat suni us par imaan laaye to jo apne rab par imaan laaye use na kisi kami ka khauf na zayadati ka (13)

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

aur ye ke hum mein kuchh musalman hain aur kuchh zalim to jo islam laaye unhone bhalai sochi (14)

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝

aur rahe zalim wo jahannam ke indhan hue (15)

وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا ۝

aur farmao ke mujhe ye wahi hui ke agar wo raah par seedhe rehte to zaroor hum unhein wafir paani dete (16)

لِنَقْتَبَهُمْ فِيهِ ۖ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝

ke us par unhein jaanchein aur jo apne rab ki yaad se moonh phere wo use chadhte azaab mein daalega (17)

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

aur ye ke masjid mein allah hi ki hain to allah ke saath kisi ki bandagi na karo (18)

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۖ

aur ye ke jab allah ka banda uski bandagi karne khada hua to qareeb tha ke wo jinn us par thath ke thath ho jaayein (19)

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۖ

tum farmao main to apne rab hi ki bandagi karta hoon aur kisi ko uska shareek nahin thehrata (20)

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۖ

tum farmao main tumhare kisi bhale bure ka malik nahin (21)

قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۚ وَلَنْ أجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۖ

tum farmao hargiz mujhe allah se koi na bachayega aur hargiz uske siwa koi panah na paunga (22)

إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا

فِيهَا أَبَدًا ۗ

magar allah ke payaam pahunchana aur uski risalatein aur jo allah aur uske rasool ka hukm na maane to beshak unke liye jahannam ki aag hai jis mein humesha humesha rahein (23)

حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۖ

yahan tak ke jab dekhenge jo wada diya jaata hai to ab jaan jayenge ke kiska madadgaar kamzor aur kiski ginti kam (24)

قُلْ إِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبُ مِمَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۖ

tum farmao main nahin jaanta aaya nazdeek hai wo tumhein jiska waada diya jaata hai ya mera rab use kuchh waqfa dega (25)

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝

ghaib ka janne waala to kisi ko apne ghaib par musallat nahin karta (26)

إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝

siwaye apne pasandeeda rasoolo ke ke unke aage pichhe pehredar muqarrar kar deta hai (27)

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

taaki dekh le ke unhone apne rab ke payaam pahuncha diye aur jo kuchh unke paas sab uske ilm mein hai aur usne har cheez ki ginti shumaar kar rakhi hai (28)

Surah Muzammil

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ ۝

aye jhurmut maarne waale (1)

قُمْ الْبَيْتَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

raat mein qiyaam farmao siwaye kuchh raat ke (2)

نُصْفَةٌ أَوْ انْقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ۝

aadhi raat ya usse kuchh kam karo (3)

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

ya us par kuchh badhao aur quran khoob thehar
thehar kar padho (4)

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝

beshak anqareeb hum tum par ek bhaari haat dalenge
(5)

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ۝

beshak raat ka uthna wo zyada dabao daalta hai aur
baat khoob seedhi nikalti hai (6)

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝

beshak din mein to tum ko bahut se kaam hain (7)

وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

aur apne rab ka naam yaad karo aur sabse toot kar usi
ke ho raho (8)

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

wo purab ka rab aur pachhim ka rab uske siwa koi
mabood nahin to tum usi ko apna karsaaz banao (9)

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

aur kafiro ki baato par sabr farmao aur unhein achhi
tarah chhod do (10)

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهْلُومٌ قَلِيلًا ۝

aur mujh par chhodo un jhutlane waale maldaro ko
aur unhein thodi mohlat do (11)

إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ۝

beshak humare paas bhaari bediyaan hain aur
bhadakti aag (12)

وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ۝

aur gale mein phansta khana aur dardnak azaab (13)

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ۝

jis din thartharayenge zameen aur pahaad ho jayenge
rete ka teela behta hua (14)

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۝ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۝

beshak humne tumhari taraf ek rasool bheje ke tum
par haazir nazir hain jaise humne firaun ki taraf rasool
bheje (15)

فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ

to firaun ne us rasool ka hukm na maana to humne
use sakht giraft se pakda (16)

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝

phir kaise bachoge agar kufr karo us din se jo bachho
ko boodha kar dega (17)

السَّمَاءِ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝

aasman uske sadma se phat jayega allah ka waada ho
kar rehna (18)

إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝

beshak ye naseehat hai to jo chahe apne rab ki taraf
raah le (19)

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ
مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا
مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا
مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ
اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

beshak tumhara rab janta hai ke tum qiyaam karte ho
kabhi di tihai raat ke qareeb kabhi aadhi raat kabhi
tihai aur ek jama'at tumhare saath waali aur allah raat
aur din ka andaza farmata hai use maloom hai ke aye
musalmano tumse raat ka shumaar na ho sakega to
usne apni mehar se tum par ruju farmai ab quran
mein se jitna tum par aasan ho utna padho use
maloom hai anqareeb tum mein kuchh beemar honge
aur kuchh zameen mein safar karenge allah ka fazl
talash karne aur kuchh allah ki raah mein ladte honge
to jitna quran muyassar ho padho aur namaz qaaim
rakho aur zakaat do aur allah ko achha qarz do aur
apne liye jo bhalai aage bhejoge use allah ke paas
behtar aur bade sawaab ki paoge aur allah se
bakhshish mangoge beshak allah bakhshne waala

meharbaan hai (20)

Surah Muddassir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝

aye baala posh odhne waale (1)

قُمْ فَأَنْذِرْ ۝

khade ho jaaoo phir dar sunao (2)

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

aur apne rab hi ki badai bolo (3)

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

aur apne kapde paak rakho (4)

وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

aur buto se door raho (5)

وَلَا تَمُنُّنَ تَسْتَكْبِرُونَ ۝

aur zyada lene ki niyyat se kisi par ehsan na karo (6)

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

aur apne rab ke liye sabr kiye raho (7)

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝

phir jab soor phoonka jayega (8)

فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ۝

to wo din karra din hai (9)

عَلَى الْكُفْرَيْنِ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿٩﴾

kafiro par aasan nahin (10)

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١٠﴾

use mujh par chhod jise maine akela paida kiya (11)

وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١١﴾

aur use wasee maal diya (12)

وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٢﴾

aur bete diye saamne haazir rehte (13)

وَمَهَدْتُ لَهُ تَنْهِيدًا ﴿١٣﴾

aur maine uske liye tarah tarah ki tayyariya ki (14)

ثُمَّ يَطَّعُ أَنْ أَرِيدَ ﴿١٤﴾

phir ye tama karta hai ke main aur zyada doon (15)

كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا ﴿١٥﴾

hargiz nahin wo to meri aayato se inaad rakhta hai (16)

سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا ﴿١٦﴾

qareeb hai ke main use aag ke pahaad suood par chadhau (17)

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٧﴾

beshak wo socha aur dil mein kuchh baat thehrai (18)

فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٨﴾

to us par lanat ho kaisi thehrai (19)

ثُمَّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾

phir us par lanat ho kaisi thehrai (20)

ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢٠﴾

phir nazar utha kar dekha (21)

ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢١﴾

phir tewari chadhai aur moonh bigada (22)

ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٢﴾

phir peeth pheri aur takabbur kiya (23)

فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٣﴾

phir bola ye to wahi jaadu hai aglo se seekha (24)

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٤﴾

ye nahin magar aadmi ka kalaam (25)

سَأُضِلُّ بِهِ سَقَرٌ ﴿٢٥﴾

koi dum jaata hai ke main use dozakh mein dhansata
hoon (26)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٦﴾

aur tumne kya jaana dozakh kya hai (27)

لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ﴿٢٧﴾

na chhode na lagi rakhe (28)

لَوْ أَحَاطَ لِلْبَشَرِ ﴿٢٨﴾

aadmi ki khaal utaar leti hai (29)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٢٩﴾

us par unnees darogha hain (30)

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۖ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ

كَفَرُوا لَيْسَتَيْنِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَزِتَاب
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ
الْكُفْرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن
يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

aur humne dozakh ke darogha na kiye magar firishte
aur hum ne unki ye ginti na rakhi magar kafiro ki
jaanch ko isliye ke kitab waalo ko yaqeen aaye aur
imaan waalo ka imaan badhe aur kitab waalo aur
musalmano ko koi shak na rahe aur dil ke rogi aur kafir
kahin is achambe ki baat mein allah ka kya matlab hai
yunhi allah gumrah karta hai jise chahe aur hidayat
farmata hai jise chahe aur tumhare rab ke lashkaro ko
uske siwa koi nahin jaanta aur wo to nahin magar
aadmi ke liye naseehat (31)

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢﴾

haan haan chand ki qasam (32)

وَاللَّيْلِ إِذَا دُبَّرَ ﴿٣٣﴾

aur raat ki jab peeth phere (33)

وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤﴾

aur subah ki jab ujala daale (34)

إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكُبْرَى ﴿٣٥﴾

beshak dozakh bahut badi cheezo mein ki ek hai (35)

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾

aadmiyo ko darawa (36)

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧﴾

use jo tum mein chahe ke aage aaye ya pichhe rahe
(37)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾

har jaan apni karni mein girwi hai (38)

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ ﴿٣٩﴾

magar dahni taraf waale (39)

فِي جَنَّتٍ ۖ يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿٤٠﴾

baagho mein puchhte hain (40)

عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٤١﴾

mujrimo se (41)

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾

tumhein kya baat dozakh mein le gai (42)

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿٤٣﴾

wo bole hum namaz na padhte the (43)

وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿٤٤﴾

aur miskeen ko khana na dete the (44)

وَ كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاطِيْئِيْنَ ﴿٤٥﴾

aur behuda fikr waalo ke saath behuda fikrein karte
the (45)

وَ كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤٦﴾

aur hum insaf ke din ko jhutlate rahe (46)

حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِيْنَ ﴿٤٧﴾

yahan tak ke humein maut aai (47)

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشُّفَعَاءِ ۖ ﴿٤٧﴾

to unhein sifarshiyo ki sifarish kaam na degi (48)

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ۖ ﴿٤٨﴾

to unhein kya hua naseehat se moonh pherte hain (49)

كَانَهُمْ حُبْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ۖ ﴿٤٩﴾

goya wo bhadke hue gadhe ho'n (50)

فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۖ ﴿٥٠﴾

ke sher se bhage ho'n (51)

بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً ۖ ﴿٥١﴾

balki un mein ka har shakhs chahta hai ke khule saheefe uske haath mein de diye jaayein (52)

كَلَّا ۚ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۖ ﴿٥٢﴾

hargiz nahin balki unko aakhirat ka dar nahin (53)

كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ۖ ﴿٥٣﴾

haan haan wo beshak naseehat hai (54)

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۖ ﴿٥٤﴾

to jo chahe usse naseehat le (55)

وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْبُغْفِرَةِ ۖ ﴿٥٥﴾

aur wo kya naseehat maanein magar jab allah chahe wahi hai darne ke laaiq aur usi ki shaan hai maghfirat farmana (56)

Surah Qiyamah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۝

roze qiyamat ki qasam yaad farmata hoon (1)

وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝

aur us jaan ki qasam jo apne upar bahut malammat kare
(2)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۝

kya aadmi ye samajhta hai ke hum hargiz uski haddiya
jama na farmayenge (3)

بَلَىٰ قَدِيرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوَّىٰ بُنَائِهِ ۝

kyun nahin hum qadir hain ke uske poor theek bana
dein (4)

بَلَىٰ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۝

balki aadmi chahta hai ke uski nigah ke saamne badi
kare (5)

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ۝

puchhta hai qiyamat ka din kab hoga (6)

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝

phir jis din aankh chaundhyayegi (7)

وَحَسَفَ الْقَبْرُ ۝

aur chand kahega (8)

وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

aur suraj aur chand mila diye jayenge (9)

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ ۝

us din aadmi kahega kidhar bhaag kar jaaun (10)

كَلَّا لَا وَزَرَ ۝

hargiz nahin koi panah nahin (11)

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝

us din tere rab hi ki taraf ja kar theharna hai (12)

يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝

us din aadmi ko uska sab agla pichhla jata diya jayega
(13)

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝

balki aadmi khud hi apne haal par poori nigah rakhta
hai (14)

وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝

aur agar uske paas jitne bahane ho sab la daale jab bhi
na suna jayega (15)

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۝

tum yaad karne ki jaldi mein quran ke saath apni
zuban ko harkat na do (16)

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

beshak uska mahfooz karna aur padhna humara
zimma hai (17)

فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝

to jab hum use padh chukein us waqt us padhe hue ki
itteba karo (18)

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۝

phir beshak uski bareekiyo ka tum par zaahir farmana
humara zimma hai (19)

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۝

koi nahin balki aye kafiro tum paaon tale ki dost rakhte
ho (20)

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۝

aur aakhirat ko chhode baithe ho (21)

وَجُودُهُ يَوْمَ مَبْدِئِ نَازِرَةٍ ۝

kuchh moonh us din taro taaza honge (22)

إِلَى رَبِّهَا نَازِرَةٍ ۝

apne rab ko dekhte (23)

وَوَجُودُهُ يَوْمَ مَبْدِئِ بَاسِرَةٍ ۝

aur kuchh moonh us din bigde hue honge (24)

تَنْظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۝

samajhte honge ke unke saath wo ki jayegi jo kamar ko
tod de (25)

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۝

haan haan jab jaan gale ko pahunch jayegi (26)

وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۝

aur log kahenge ke hai koi jhaad phoonk kare (27)

وَوَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝

aur wo samajh lega ke ye judai ki ghadi hai (28)

وَالْتَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝

aur pindli se pindli lipat jayegi (29)

إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۝

us din tere rab hi ki taraf haankna hai (30)

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ۝

usne na to sach maana aur na namaz padhi (31)

وَالْكَفْرُ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۝

haan jhutlaya aur moonh phera (32)

ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۝

phir apne ghar ko akadta chala (33)

أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝

teri kharabi aa lagi ab aa lagi (34)

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۝

phir teri kharabi aa lagi ab aa lagi (35)

أَيُّحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝

kya aadmi is ghamand mein hai ke aazad chhod diya
jayega (36)

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۝

kya wo ek boond na tha us mani ka ke girayi jaaye (37)

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۝

phir khoon ki phatak ho to usne paida farmaya phir
theek banaya (38)

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝

to usse do jode banaye mard aur aurat (39)

أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۝

kya jisne ye kuchh kiya wo murde na jila sakega (40)

Surah Dahr (Al Insan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝

beshak aadmi par ek waqt wo guzara ke kahin uska
naam bhi na tha (1)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيْعًا بَصِيرًا ۝

beshak humne aadmi ko paida kiya mili hui mani se ke
use jaanche to use sunta dekhta kar diya (2)

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝

beshak humne use raah batai ya haq maanta ya
nashukri karta (3)

إِنَّا آخَذْنَا لِكُفْرَيْنٍ سَلْسَلًا ۖ أَعْلَىٰ وَسَعِيرًا ۝

beshak humne kafiro ke liye tayyar kar rakhi hai
zanjeerein aur tauq aur bhadakti aag (4)

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۝

beshak nek piyenge us jaam mein se jiski milooni ka
faur hai (5)

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۝

wo kafoor kya? ek chashma hai jis mein se allah ke
nihayat khaas bande piyenge apne mahlo mein use
jahan chahein bahaa kar le jayenge (6)

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝

apni mannatein पूरी karte hain aur us din se darte
hain jiski burai phaili hui hai (7)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝

aur khana khilate hain uski muhabbat par miskeen aur
yateem aur aseer ko (8)

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لِرُؤُوفِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝

unse kehte hain hum tumhein khaas allah ke liye
khana dete hain tum se koi badla ya shukr guzari nahin
maangte (9)

إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبَّنَا يَوْمًا عَبَّوْ سَاءً قَنَطَرِيًّا ۝

beshak humein apne rab se ek aise din ka dar hai jo
bahut tursh nihayat sakht hai (10)

فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّعَهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝

to unhein allah ne us din ke shar se bacha liya aur

unhein taazgi aur shadmani di (11)

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝

aur unke sabr par unhein jannat aur reshmi kapde sila
mein diye (12)

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۚ لَا يَرُونَ فِيهَا شَيْئًا وَلَا زُمُورًا ۝

jannat mein takhto par takya lagaye honge na us mein
dhoop dekhenge na thithur (13)

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۝

aur uske saaye un par jhuke honge aur uske guchhe
jhuka kar niche kar diye gaye honge (14)

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝

aur un par chandi ke bartano aur koozo ka daur hoga
jo sheeshe ke misl ho rahe honge (15)

قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝

kaise sheeshe chandi ke saaqiyo ne unhein poore
andaza par rakha hoga (16)

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرْجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝

aur us mein wo jaam pilaye jayenge jismi milooni adrak
hogi (17)

عَيْنًا فِيهَا تُسْمَىٰ سَلْسَبِيلًا ۝

wo adrak kya hai jannat mein ek chashma hai jise
salsabeel kehte hain (18)

وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ۝

aur unke aas paas khidmat mein phirenge humesha

rehne waale ladke jab tu unhein dekhe to unhein samjhe ke moti hain bikhre hue (19)

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾

aur jab tu udhar nazar uthaye ek chain dekhe aur badi saltanat (20)

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿٢١﴾

unke badan par hain kareb ke sabz kapde aur qanadeez ke aur unhein chandi ke kangan pehnaye gaye aur unhein unke rab ne suthri sharab pilai (21)

إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٢٢﴾

unse farmaya jayega ye tumhara sila hai aur tumhari mehnat thikane lagi (22)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿٢٣﴾

beshak humne tum par quran batadreej utara (23)

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٢٤﴾

to apne rab ke hukm par sabir raho aur un mein kisi gunahgar ya nashukre ki baat na suno (24)

وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٢٥﴾

aur apne rab ka naam subah wa shaam yaad karo (25)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٦﴾

aur kuchh raat mein use sajda karo aur badi raat tak uski paaki bolo (26)

إِنَّ هُوَ لَآءٍ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾

beshak ye log paaon tale ki azeez rakhte hain aur apne pichhe ek bhari din ko chhode baithe hain (27)

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۚ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٧﴾

humne unhein paida kiya aur unke jod band mazboot kiye aur hum jab chahein un jaise aur badal dein (28)

إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٢٨﴾

beshak ye naseehat hai to jo chahe apne rab ki taraf raah le (29)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٩﴾

aur tum kya chahoge magar ye ke allah chahe beshak wo ilmo hikmat waala hai (30)

يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٠﴾

apni rahmat mein leta hai jise chahe aur zalimo ke liye usne dardnak azaab tayyar kar rakha hai (31)

Surah Mursalaat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾

qasam un ki jo bheji jaati hain lagataar (1)

فَالْعَصْفِ عَصْفًا ﴿٢﴾

phir zor se jhonka dene waaliya (2)

وَالنُّشْرَاتِ نَشْرًا ۝

phir ubhaar kar uthane waaliya (3)

فَالْفُرْقَاتِ فَرَقًا ۝

phir haq nahaq ko khoob juda karne waaliya (4)

فَالْمُبْقَاتِ ذِكْرًا ۝

phir unki qasam jo zikr ka ilqa karti hain (5)

عُدْرًا أَوْ نُذْرًا ۝

hujjat tamam karne ya darane ko (6)

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ۝

beshak jis baat ka tum waada diye jaate ho zaroor honi
hai (7)

فَإِذَا النُّجُومُ طُيَسَتْ ۝

phir jab taare mahw kar diye jaayein (8)

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝

aur jab aasman mein rukhne padein (9)

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۝

aur jab pahaad ghubaar kar ke uda diye jaayein (10)

وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَتْ ۝

aur jab rasoolo ka waqt aaye (11)

لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝

kis din ke liye thehraye gaye the (12)

لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝

roze faisla ke liye (13)

وَمَا آذْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۝

aur tu kya jaane wo roze faisla kaisa hai (14)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

jhutlane waalo ki us din kharabi (15)

أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝

kya humne aglo ko halaak na farmaya (16)

ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ۝

phir pichhlo ko unke pichhe pahunchayenge (17)

كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝

mujrimo ke saath hum aisa hi karte hain (18)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

us din jhutlane waalo ki kharabi (19)

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝

kya humne tumhein ek be qadr paani se paida na farmaya (20)

فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝

phir use ek mahfooz jagah mein rakha (21)

إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

ek maloom andaza tak (22)

فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝

phir humne andaza farmaya to hum kya hi achhe qadir
(23)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

us din jhutlane waalo ki kharabi (24)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞

kya humne zameen ko jama karne waali na kiya (25)

أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۞

tumhare zindo'n aur murdo'n ki (26)

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْاسِيَ شُهْبَاتٍ وَأَسْقَيْنُكُمْ مَاءً فُرَاتًا ۞

aur humne is mein oonche oonche langar daale aur humne tumhein khoob meetha paani pilaya (27)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞

us din jhutlane waalo ki kharabi (28)

انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞

chalo uski taraf jise jhutlate the (29)

انْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۞

chalo us dhuwein ke saaye ki taraf jiski teen shakhein (30)

لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۞

na saaya de na lipat se bachaye (31)

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَاصِرِ ۞

beshak dozakh chingariya udaati hai jaise unche mahal (32)

كَأَنَّهُ جِلْدُ صُفْرٍ ۞

goya wo zard rang ke oont hain (33)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞

us din ko jhutlane waalo ki kharabi (34)

هُذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٤﴾

ye din hai ke wo na bol sakenge (35)

وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٥﴾

aur na unhein ijazat mile ke uzr karein (36)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

us din jhutlane waalo ki kharabi (37)

هُذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾

ye hai faisla ka din humne tumhein jama kiya aur sab aglo ko (38)

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُوا ﴿٣٨﴾

ab agar tumhara koi daanw ho to hum par chal lo (39)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٩﴾

us din jhutlane waalo ki kharabi (40)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿٤٠﴾

beshak dar waale saayo aur chashmo mein hain (41)

وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤١﴾

aur mewo mein se jo kuchh unka jee chahe (42)

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٢﴾

khao aur piyo rachta hua apne aamaal ka sila (43)

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٣﴾

beshak neko ko hum aisa hi badla dete hain (44)

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾

us din jhutlane waalo ko kharabi (45)

كُلُّوْا وَتَمَتَّعُوا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

kuchh din kha lo aur barat lo zaroor tum mujrim ho
(46)

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٦﴾

us din jhutlane waalo ko kharabi (47)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوْا لَا يِرْكَعُوْنَ ﴿٤٧﴾

aur jab unse kaha jaaye ke namaz padho to nahin
padhte (48)

وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٨﴾

us din jhutlane waalo ko kharabi (49)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٤٩﴾

phir uske baad kaunsi baat par imaan layenge (50)

Teeswa Paarah

Surah An Naba

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿١﴾

ye aapas mein kaahe ki puchh guchh kar rahe hain (1)

عَنِ النَّبِیِّ الْعَظِیْمِ ﴿٢﴾

badi khabar ki (2)

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝

jis mein wo kai raah hain (3)

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝

haan haan ab jaan jayenge (4)

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۝

phir haan haan jaan jayenge (5)

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۝

kya humne zameen ko bichhona na kiya (6)

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝

aur pahaado ko meekhein (7)

وَوَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝

aur tumhein jode banaya (8)

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝

aur tumhari neend ko aaram kiya (9)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝

aur raat ko parda posh kiya (10)

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

aur din ko rozgar ke liye banaya (11)

وَوَبَّيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝

aur tumhare upar saat mazboot chinaiya chini (12)

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۝

aur un mein ek nihayat chamakta chiragh rakha (13)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۝

aur bhari badliyo se zor ka paani utaara (14)

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝

ke usse paida farmayein anaaj aur sabza (15)

وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۝

aur ghane baagh (16)

إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝

beshak faisle ka din thehra hua waqt hai (17)

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَأْتُونَ أَفْوَاجًا ۝

jis din soor phoonka jayega to tum chale aaoge faujo ki
faujein (18)

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝

aur aasman khola jayega ke darwaze ho jayega (19)

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

aur pahaad chalaye jayenge ke ho jaayenge jaise
chamakta reta door ae paani ka dhoka deta (20)

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝

beshak jahannam taak mein hai (21)

لِلطَّاغِيَتِينَ مَأْبَأًا ۝

sarkasho ka thikana (22)

لِبِئْسَ لِمَنِ فِيهَا أَخْقَابًا ۝

us mein qarno rahenge (23)

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝

us mein kisi tarah ki thandak ka maza na payenge aur
na kuchh peene ko (24)

إِلَّا حَيْبًا وَغَسَاقًا ۝

magar khaulta paani aur dozakhiyo ka jalta peep (25)

جَزَاءً وَفَاكًا ۝

jaise ko taisa badla (26)

إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝

beshak unhein hisab ka khauf na tha (27)

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ۝

aur humari aayatein had bhar jhutlaai (28)

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۝

aur humne har cheez likh kar shumaar kar rakhi hai
(29)

فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۝

ab chakho ke hum tumhein na badhayenge magar
azaab (30)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝

beshak dar waalo ko kamyabi ki jagah hai (31)

حَدَائِقٍ وَأَعْنَابًا ۝

baagh mein aur angoor (32)

وَكَوَاعِبِ أُنْثَرٍ أَبَابًا ۝

aur uthte jauban waaliya ek umr ki (33)

وَكَأْسٍ مِّنْ دِهَانٍ أَهْلًا ۝

aur chhalakta jaam (34)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِدَابًا ۗ

jis mein na koi behuda baat sunein aur na jhutlana (35)

جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ۖ

sila tumhare rab ki taraf se nihayat kaafi ata (36)

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَنْكُرُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۗ

wo jo rab hai aasmano ka aur zameen ka aur jo kuchh unke darmiyan hai rahman ke usse baat karne ka ikhteyar na rakhenge (37)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا ۗ لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَن اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ

قَالَ صَوَابًا ۗ

jis din jibreel khada hoga aur sab firishte para bandhe koi na bol sakega magar jise rahman ne izn diya aur usne theek baat kahi (38)

ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا ۗ

wo sachha din hai ab jo chahe apne rab ki taraf raah le (39)

اِنَّا اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۗ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكٰفِرُ

اِلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ

hum tumhein ek azaab se darate hain ke nazdeek aa gaya jis din aadmi dekhega jo kuchh uske haatho ne aage bheja aur kafir kahega haaye main kisi tarah khaak ho jaata (40)

Surah Naziaat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالنُّعُوتِ غَرْقًا ۝

qasam unki ke sakhti se jaan kheenchein (1)

وَالنَّشِيطِ نَشْطًا ۝

aur narmi se band kholein (2)

وَالسُّبْحِ سَبْحًا ۝

aur aasani se pairein (3)

فَالسَّبِقِ سَبْقًا ۝

phir aage badh kar jald pahunchein (4)

فَالْمَدْبَرِ مَدْرًا ۝

phir kaam ki tadbeer karein ke kafiro par zaroor azaab
hoga (5)

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝

jis din thartharayegi thartharane waali (6)

تَتَّبِعَهَا الرّادِفةُ ۝

uske pichhe aayegi pichhe aane waali (7)

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝

kitne dil us din dhadakte honge (8)

أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝

aankh upar na utha sakege (9)

يَقُولُونَ عَائِنَا لَمْزِدُوهُمْ فِي الْكَافِرَةِ ۝

kafir kehte hain kya hum phir ulte paaon paltenge (10)

عَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝

kya jab gali haddiya ho jayenge (11)

قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝

bole yun to ye palatna nira nuqsan hai (12)

فَأَنبَأَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝

to wo nahin magar ek jhidki (13)

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

jabhi wo khule maidan mein aa pade honge (14)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝

kya tumhein moosa ki khabar aai (15)

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝

jab use uske rab ne paak jungle tawa mein nida farmai
(16)

إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۝

ke firauun ke paas ja usne sar uthaya (17)

فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَى أَنْ تَزْكُمِي ۝

usse keh kya tujhe raghat is taraf hai ke suthra ho
(18)

وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ۝

aur tujhe tere rab ki taraf raah bataaun to dare (19)

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۖ

phir moosa ne use bahut badi nishani dikhai (20)

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۖ

is par usne jhutlaya aur nafarmani ki (21)

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۖ

phir peeth di apni koshish mein laga (22)

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۖ

to logon ko jama kiya phir pukara (23)

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۖ

phir bola main tumhara sabse uncha rab hoon (24)

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۖ

to allah ne use dunya wa aakhirat dono ke azaab mein pakda (25)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۖ

beshak is mein seekh milta hai use jo dare (26)

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ طَبَٰئِهَٰ ۖ

kya tumhari samajh ke mutabiq tumhara banana mushkil ya aasman ka allah ne use banaya (27)

رَفَعَ سَنَكَهَا فَسَوْبَهَٰ ۖ

uski chhat oonchi ki phir use theek kiya (28)

وَاعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ

uski raat andheri ki aur uski raushni chamkai (29)

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ

aur uske baad zameen phailai (30)

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعُهَا ۝

us mein se us ka paani aur chaara nikala (31)

وَالْجِبَالِ أَرْسَهَا ۝

aur pahado ko jamaya (32)

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

tumhare aur tumhare chaupayo ke faida ko (33)

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۝

phir jab aayegi wo aam musibat sabse badi (34)

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۝

us din aadmi yaad karega jo koshish ki thi (35)

وَبُرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ ۝

aur jahannam har dekhne waale par zaahir ki jayegi
(36)

فَأَمَّا مَنْ ظَنَىٰ ۝

to wo jisne sarkashi ki (37)

وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

aur dunya ki zindagi ko tarjeeh di (38)

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

to beshak jahannam hi uska thikana hai (39)

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

aur wo jo apne rab ke huzoor khade hone se dara aur
nafs ko khwahish se roka (40)

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ

to beshak jannat hi thikana hai (41)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسُهَا ۖ

tumse qiyamat ko puchhte hain ke wo kab ke liye
thehri hui hai (42)

فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۖ

tumhein uske bayaan se kya talluq (43)

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۖ

tumhare rab hi tak uski inteha hai (44)

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا ۖ

tum to faqat use darane waale ho jo usse dare (45)

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۖ

goya jis din wo use dekhenge dunya mein na rahe the
magar ek shaam ya uske din chadhe (46)

Surah Abas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ

tewari chadhai aur moonh phera (1)

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَىٰ ۖ

is par ke uske paas wo nabina haazir hua (2)

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ۝

aur tumhein kya maloom shayad wo suthra ho (3)

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝

ya naseehat le to use naseehat faida de (4)

أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ ۝

wo jo be parwa banta hai (5)

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ۝

tum uske to pichhe padte ho (6)

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۝

aur tumhara kuchh ziaa nahi is mein ke wo suthra
na ho (7)

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۝

aur wo jo tumhare huzoor malakta aaya (8)

وَهُوَ يَخْشَىٰ ۝

aur wo dar raha hai (9)

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۝

to use chhod kar aur taraf mashghool hote ho (10)

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

yun nahin ye to samjhana hai (11)

فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۝

to jo chahe use yaad kare (12)

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝

un saheefo mein ke izzat waale hain (13)

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

bulandi waale paaki waale (14)

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝

aiso ke haath likhe hue (15)

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

jo karam waale nikoi waale (16)

قَتَلَ الْإِنْسَانَ مَا أَكْفَرَهُ ۝

aadmi maara jaaiyo kya nashukr hai (17)

مِنْ أَمِّي شَيْءٍ خَلَقَهُ ۝

use kaahe se banaya (18)

مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۝

paani ki boond se use paida farmaya phir use tarah tarah ke andazo par rakha (19)

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۝

phir use rasta aasan kiya (20)

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۝

phir use maut di phir qabr mein rakhwaya (21)

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ۝

phir jab chaha use baahar nikala (22)

كَلَّا لَبَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۝

koi nahin usne ab tak poora na kiya jo use hukm hua tha (23)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۝

to aadmi ko chahiye apne khaano ko dekhe (24)

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝

ke humne achhi tarah paani daala (25)

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝

phir zameen ko khoob cheera (26)

فَأُنْبِتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝

to us mein ugaya anaaj (27)

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝

aur angoor aur chaara (28)

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝

aur zaitoon aur khajoor (29)

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝

aur ghane bagheeche (30)

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝

aur mewe aur doob (31)

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

tumhare fayede ko aur tumhare chaupayo ke (32)

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۝

phir jab aayegi wo kaan phaadne waali chinghaad (33)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۝

us din aadmi bhagega apne bhai (34)

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۝

aur maa aur baap (35)

وَصَاحِبْتَهُ وَبَيْنِيهِ ۝

aur joru aur beto se (36)

لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝

un mein se har ek ko us din ek fikr hai ke wahi use bas
hai (37)

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝

kitne moonh us din raushan honge (38)

صَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرَةٌ ۝

hanste khushiya manate (39)

وَجُودًا يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۝

aur kitne moonho par us din gard padi hogi (40)

تَرْهَقَهَا قَتَرَةٌ ۝

un par siyahi chadh rahi hai (41)

أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفٰجِرَةُ ۝

ye wahi hain kafir badkaar (42)

Surah Takweer

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝

jab dhoop lapeti jaaye (1)

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۝

aur jab taare jhad padein (2)

وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝

aur jab pahaad chale jaayein (3)

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝

aur jab thulki untniya chhoti padein (4)

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

aur jab wahshi janwar jama kiye jaayein (5)

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

aur jab samundar sulgaye jaayein (6)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

aur jab janwar ke jode banein (7)

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُبِّكَتْ ۝

aur jab zinda dabai hui se puchha jaaye (8)

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝

kis khata par maari gai (9)

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

aur jab naama -e- aamaal khole jaayein (10)

وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝

aur jab aasman jagah se kheench liya jaaye (11)

وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝

aur jab jahannam ko bhadkaya jaaye (12)

وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝

aur jab jannat paas laai jaaye (13)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۝

har jaan ko maloom ho jayega jo haazir laai (14)

فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنْثِ ۝

to qasam hai unki jo ulte phirein (15)

الْجَوَارِ الْكُنْثِ ۝

seedhe chalein tham rahein (16)

وَالْيَلِ إِذَا عَسَّسَ ۝

aur raat ki jab peeth de (17)

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝

aur subah ki jab dum le (18)

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝

beshak ye izzat waale rasool ka padhna hai (19)

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝

jo quwwat waala hai malike arsh ke huzoor izzat waala
(20)

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

wahan uska hukm maana jaata hai amanatdar hai (21)

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۝

aur tumhare saahib majnoon nahin (22)

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْبَيْتِ ۝

aur beshak unhone use raushan kinara par dekha (23)

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝

aur ye nabi ghaib batane mein bakheel nahin (24)

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾

aur quran mardood shaitan ka padha hua nahin (25)

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾

phir kidhar jaate ho (26)

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

wo to naseehat hi hai saare jahaan ke liye (27)

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾

uske liye jo tum mein seedha hona chahe (28)

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾

aur tum kya chaho magar ye ke chahe allah saare
jahaan ka rab (29)

Surah Infitar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾

jab aasman phat pade (1)

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ﴿٢﴾

aur jab taare jhad padein (2)

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾

aur jab samundar baha diye jaayein (3)

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾

aur jab qabrein kuredi jaayein (4)

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۗ

har jaan jaan legi jo usne aage bheja aur jo pichhe (5)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۙ

aye aadmi tujhe kis cheez ne fareb diya apne karam
waale rab se (6)

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّبَكَ فَعَدَلَكَ ۙ

jisne tujhe kiya phir theek banaya phir hamwaar
farmaya (7)

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۗ

jis soorat mein chaha tujhe tarkeeb diya (8)

كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّبِّينَ ۙ

koi nahin balki tum insaf hone ko jhutlate ho (9)

وَأِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۙ

aur beshak tum par kuchh nighban hain (10)

كِرَامًا كَاتِبِينَ ۙ

muazzaz likhne waale (11)

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۙ

ke jaante hain jo kuchh tum karo (12)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۙ

beshak nikokaar zaroor chain mein hain (13)

وَأِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۙ

aur beshak badkaar zaroor dozakh mein hain (14)

يَصْلُوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

insaf ke din us mein jayenge (15)

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝

aur usse kahin chhup na sakege (16)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

aur tu kya jaane kaisa insaf ka din (17)

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

phir tu kya jaane kaisa insaf ka din (18)

يَوْمَ لَا تَهْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

jis din koi jaan kisi jaan ka kuchh ikhteyar na rakhegi
aur saara hukm us din allah ka hai (19)

Surah Mutaffifeen

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝

kam taulne walo ki kharabi hai (1)

الَّذِيْنَ اِذَا كَتَبُوْا عَلٰی النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝

wo ke jab auro se maap lein poora lein (2)

وَ اِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

aur jab unhein maap ya taul kar dein kam kar dein (3)

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝

kya un logon ko gumaan nahin ke unhein uthna hai (4)

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

ek azmat waale din ke liye (5)

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

jis din sab log rabbul aalameen ke huzoor khade honge
(6)

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَن فِي سَجِّينٍ ۝

beshak kafiro ki likhat sabse nichhi jagah sijjeen mein
hai (7)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ۝

aur tu kya jaane sijjeen kaisi hai (8)

كِتَابٍ مَّرْقُومٍ ۝

wo likhat ek muhar kiya nawishta hai (9)

وَيْلٌ لِّیَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝

us din jhutlane waalo ki kharabi hai (10)

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝

jo insaf ke din ko jhutlate hain (11)

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝

aur use na jhutlayega magar har sarkash gunahgar (12)

إِذَا تَنَادَىٰ عَلَيْهِ الْإِتْنَا قَالَ أَصَاطِيرُ الْأُولِينَ ۝

jab us par humari aayatein padhi jaayein kahe aglo ki
kahaniya hain (13)

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

koi nahin balki unke dilo par zang chadha diya hai unki kamaiyo ne (14)

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

haan haan wo beshak us din apne rab ke deedar se mahroom hain (15)

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

phir beshak unhein jahannam mein dakhil hona (16)

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

phir kaha jayega ye hai wo jise tum jhutlate the (17)

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

haan haan beshak neko ki likhat sabse oonche mehal illiyyeen mein hai (18)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

aur tu kya jaane illiyyeen kaisi hai (19)

كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

wo likhat ek muhar kiya hua nawishta hai (20)

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

ke muqarrab jiski ziyarat karte hain (21)

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

beshak nikokaar zaroor chain mein hain (22)

عَلَى الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ﴿٢٣﴾

takhto par dekhte hain (23)

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

to un ke chehro mein chain ki tazgi pahunchaye (24)

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

nithri sharab pilaye jayenge jo muhar ki hui rakhi hai
(25)

خِتْمُهُ مِسْكَ ۗ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾

uski muhar mushk par hai aur usi par chahiye ke
lalchayein lalchane waale (26)

وَمِرْآةٍ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾

aur uski milooni tasneem se hai (27)

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

wo chashma jisse muqarrabane bargaah peete hain
(28)

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾

beshak mujrim log imaan waalo se hansa karte the (29)

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿٣٠﴾

aur wo jab un par guzarte to ye aapas mein un par
aankho se ishare karte (30)

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾

aur jab apne ghar palat'te khushiya karte palat'te (31)

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾

aur jab musalmano ko dekhte kehte beshak ye log
behke hue hain (32)

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ﴿٣٣﴾

aur ye kuchh un par nigehban bana kar na bheje gaye
(33)

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٣﴾

to aaj imaan waale kafiro se hanste hain (34)

عَلَى الْأَرْيَافِ يَنْظُرُونَ ﴿٣٤﴾

takhto par baithe dekhte hain (35)

هَلْ تُؤْتِيهِم الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٥﴾

kyun kuchh badla kafiro ko apne kiye ka (36)

Surah Inshiqaq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ﴿١﴾

jab aasman shaq ho (1)

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

aur apne rab ka hukm sune aur use sazawaar hi ye hai
(2)

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

aur jab zameen daraaz ki jaaye (3)

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

aur jo kuchh us mein hai daal de aur khaali ho jaaye (4)

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾

aur apne rab ka hukm sune aur use sazawaar hi ye hai
(5)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلِقِيهِ ۗ

aye aadmi beshak tujhe apne rab ki taraf yaqeeni
daudna hai phir usse milna (6)

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنَاتٍ ۗ

to wo jo apna naama -e- aamaal dahine haath mein
diya jayega (7)

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۗ

usse anqareeb sehal hisab liya jayega (8)

وَيُنْقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۗ

aur apne ghar waalo ki taraf shaad shaad lautega (9)

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وِرَاءَ ظَهْرِهِ ۗ

aur wo jiska naama -e- aamaal uski peeth ke pichhe
diya jayega (10)

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۗ

wo anqareeb maut mangega (11)

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۗ

aur bhadakti aag mein jayega (12)

إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۗ

beshak wo apne ghar mein khush tha (13)

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۗ

wo samjha ke use phirna nahin (14)

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۗ

haan kyun nahin beshak uska rab use dekh raha hai
(15)

فَلَا أَقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝

to mujhe qasam hai shaam ke ujale ki (16)

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝

aur raat ki aur jo cheezein us mein jama hoti hain (17)

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝

aur chand ki jab poora ho (18)

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝

zaroor tum manzil ba manzil chadhoge (19)

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

to kya hua imaan nahin laate (20)

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝

aur jab quran padha jaaye sajda nahin karte (21-sajda)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكْذِبُونَ ۝

balki kafir jhutla rahe hain (22)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝

aur allah khoob jaanta hai jo apne jee mein rakhte hain
(23)

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝

to tumhein dardnak azaab ki basharat do (24)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

magar jo imaan laaye aur achhe kaam kiye unke liye
wo sawaab hai jo kabhi khatm na hoga (25)

Surah Burooj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

qasam aasman ki jis mein burj hain (1)

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝

aur us din ki jiska waada hai (2)

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

aur jis din ki jo gawah hai aur us din ki jis mein haazir
hote hain (3)

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ۝

khaai waalo par lanat ho (4)

النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ ۝

wo us bhadakti aag waale (5)

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۝

jab wo uske kinaro par baithe the (6)

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۝

aur wo khud gawah hain jo kuchh musalmano ke saath
kar rahe hain (7)

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

aur unhein musalmano ka kya bura laga yahi na ke wo

imaan laaye allah izzat waale sab khoobiyo sarahe par
(8)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

ke usi ke liye aasmano aur zameen ki saltanat hai aur
allah har cheez par gawah hai (9)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ۖ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلْحَرِيْقِ ۝

beshak jinhone iza di musalman mardo aur
musalman aurato ko phir tauba na ki unke liye
jahannam ka azaab hai aur unke liye aag ka azaab (10)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ
ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝

beshak jo imaan laaye aur achhe kaam kiye unke liye
baagh hain jin ke niche nehrein rawaan yahi badi
kamyabi hai (11)

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝

beshak tere rab ki giraft bahut sakht hai (12)

إِنَّهُ هُوَ يُبَدِّلُ وَيُعِيدُ ۝

beshak wo pehle kare aur phir kare (13)

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝

aur wahi hai bakhshne waala apne nek bando par
pyaara (14)

دُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝

arsh ka malik izzat waala (15)

فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ۝

humesha jo chahe karne waala (16)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝

kya tumhare paas lashkaro ki baat aai (17)

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝

wo lashkar kaun firoun aur samood (18)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝

balki kafir jhutlane mein hain (19)

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝

aur allah un ke pichhe se unhein ghere hue hai (20)

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝

balki wo kamaal sharf waala quraan hai (21)

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝

lauhe mahfooz mein (22)

Surah Tariq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝

aasman ki qasam aur raat ko aane waale ki (1)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝

aur kuchh tumne jaana wo raat ko aane waala kya hai
(2)

النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

khoob chamakta taara (3)

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝

koi jaan nahin jis par nighban na ho (4)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝

to chahiye ke aadmi ghaur kare ke kis cheez se banaya
gaya hai (5)

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝

jast karte paani se (6)

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝

jo nikaalta hai peeth aur seeno ke beech se (7)

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

beshak allah uske wapas kar dene par qadir hai (8)

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝

jis din chhupi baato ki jaanch hogi (9)

فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ۝

to aadmi ke paas na kuchh zor hoga na koi madadgar
(10)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

aasman ki qasam jis se meenh utarta hai (11)

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

aur zameen ki jo usse khulti hai (12)

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَضْلٌ ﴿١٢﴾

beshak quran zaroor faisla ki baat hai (13)

وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ﴿١٣﴾

aur koi hansa ki baat nahin (14)

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٤﴾

beshak kafir apna sa daaon chalte hain (15)

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٥﴾

aur main apni khufya tadbeer farmata hoon (16)

فَمَهِّلِ الْكُفْرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٦﴾

to tum kafiro ko dheel do unhein kuchh thodi mohlat do (17)

Surah Aala

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾

apne rab ke naam ki paaki bolo jo sabse buland hai (1)

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾

jisne bana kar theek kiya (2)

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾

aur jis ne andaza par rakh kar raah di (3)

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۖ

aur jisne chaara nikala (4)

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۖ

phir use khushk siyaah kar diya (5)

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۖ

ab hum tumhein padhayenge ke tum na bhoologe (6)

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۖ

magar jo allah chahe beshak wo jaanta hai har khule
aur chhupe ko (7)

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۖ

aur hum tumhare liye aasani ka samaan kar denge (8)

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۖ

to tum naseehat farmao agar naseehat kaam de (9)

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ ۖ

anqareeb naseehat maanega jo darta (10)

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ۖ

aur usse wo bada bad bakht door rahega (11)

الَّذِي يَصُلَىٰ النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۖ

jo sabse badi aag mein jayega (12)

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ

phir na us mein mare aur na jiye (13)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ

beshak muraad ko pahuncha jo suthra hua (14)

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝

aur apne rab ka naam le kar namaz padhi (15)

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝

balki tum jeeti dunya ko tarjeeh dete ho (16)

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝

aur aakhirat behtar aur baaqi rehne waali (17)

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝

beshak ye agle saheefo mein hai (18)

صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ۝

ibrahim aur moosa ke saheefo mein (19)

Surah Ghashiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ۝

beshak tumhare paas us museebat ki khabar aai jo
chha jayegi (1)

وَجُودَ يَوْمَ مَدْيَنَ خَاشِعَةً ۝

kitne hi moonh us din zaleel honge (2)

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝

kaam karein mashaqqat jhelein (3)

تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ۝

jaayein bhadakti aag mein (4)

تُسْقَى مِنْ عَيْنِ أُنْيَةٍ ۝

nihayat jalte chashma ka paani pilaye jaayein (5)

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ ۝

unke liye kuchh khana nahin magar aag ke kaante (6)

لَا يُسِينُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۝

ke na farbahi laayein aur na bhook mein kaam dein (7)

وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ۝

kitne hi moonh us din chain mein hain (8)

لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ۝

apni koshish par raazi (9)

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

buland baagh mein (10)

لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝

ke us mein koi behuda baat na sunenge (11)

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

us mein rawaan chashma hai (12)

فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝

us mein buland takht hain (13)

وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ۝

aur chune hue kooze (14)

وَنَبَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ ۝

aur barabar barabar bichhe hue qaleen (15)

وَزَرَانِي مَبْنُوتَةً ۝

aur phaili hui chandniya (16)

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝

to kya oont ko nahin dekhte kaisa banaya gaya (17)

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝

aur aasman ko kaisa uncha kiya gaya (18)

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝

aur pahaado ko kaise qaaim kiye gaye (19)

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

aur zameen ko kaise bichhai gai (20)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝

to tum naseehat sunao tum to yahi naseehat sunane
waale ho (21)

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِضَافِرٍ ۝

tum kuchh un par kadoda nahin (22)

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۝

haan jo moonh phere aur kufr kare (23)

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۝

to use allah bada azaab dega (24)

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۝

beshak humari hi taraf unka phirna hai (25)

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

phir beshak humari hi taraf unka hisab hai (26)

Surah Fajr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالْفَجْرِ ۝

us subah ki qasam (1)

وَلَيْالٍ عَشْرِ ۝

aur dus raato ki (2)

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

aur juft aur taaq ki (3)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ۝

aur raat ki jab chal de (4)

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حَجْرِ ۝

kyun is mein aqlmand ke liye qasam hui (5)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

kya tumne na dekha tumhare rab ne aad ke saath
kaisa kya (6)

إِزْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

wo iram hadd se zyada tool waale (7)

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

ke un jaisa shehro mein paida na hua (8)

وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

aur samood jinhone waadi mein patthar ki chattanein
kaati (9)

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝

aur firaun ke chumekha karta (10)

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

jinhone shehro mein sarkashi ki (11)

فَأَسْرَفُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝

phir un mein bahut fasaad phailaya (12)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

to un par tumhare rab ne azaab ka kooda baquwwat
maara (13)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۝

beshak tumhare rab ki nazar se kuchh ghaaib nahin
(14)

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝

lekin aadmi to jab use uska rab aazmaye ke usko jaah
aur nemat de jab to kehta hai mere rab ne mujhe izzat
di (15)

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۝

aur agar aazmaye aur uska rizq us par tang kare to
kehta hai mere rab ne mujhe khwaar kiya (16)

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝

yun nahin balki tum yateem ki izzat nahin karte (17)

وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۝

aur aapas mein ek dusre ko miskeen ke khilane ki
raghbat nahin dete (18)

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا ۝

aur meeraas ka maal hap hap khate ho (19)

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

aur maal ki nihayat muhabbat rakhte ho (20)

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

haan haan jab zameen takra kar paash paash kar di
jaaye (21)

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

aur tumhare rab ka hukm aaye aur firishte qataar
qataar (22)

وَجَاءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى ۝

aur us din jahannam laai jaaye us din aadmi sochega
aur ab use sochne ka waqt kahan (23)

يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۝

kahega haaye kisi tarah maine jeete jee neki aage bheji
hoti (24)

فِيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۝

to us din uska sa azaab koi nahin karta (25)

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ۝

aur uska sa bandhna koi nahin baandhta (26)

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝

aye itmenan waali jaan (27)

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝

apne rab ki taraf wapas ho yun ke tu usse raazi wo
tujhse raazi (28)

فَادْخُلِي فِي عِبْدِي ۝

phir mere khaas bando mein dakhil ho (29)

وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۝

aur meri jannat mein aa (30)

Surah Balad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

mujhe is shehar ki qasam (1)

وَأَنْتَ جِلُّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

ke aye mahboob tum is shehar mein tashreef farma ho
(2)

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ ۝

aur tumhare baap ibrahim ki qasam aur uski awlaad ki
ke tum ho (3)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

beshak humne aadmi ko mashaqqat mein rehta paida

kiya (4)

أَيْحُسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝

kya aadmi ye samajhta hai ke hargiz us par koi qudrat
na payega (5)

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا بُدَّ أَ ۝

kehta hai maine dhero maal fana kar diya (6)

أَيْحُسِبُ أَنْ لَمْ يَرَ أَحَدٌ ۝

kya aadmi ye samajhta hai ke use kisi ne na dekha (7)

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝

kya humne uski do aankhein na banai (8)

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝

aur zubaan aur do honth (9)

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

aur use do ubhri cheezo ki raah batai (10)

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

phir be taammul ghaati mein na kooda (11)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

aur tune kya jaana wo ghaati kya hai (12)

فَأَكْرَبْتَهُ ۝

kisi bande ki gardan chhudana (13)

أَوْ اطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝

ya bhook ke din khana dena (14)

يَتَّبِعُنَا إِذَا مَقَرَّبْتَهُ ۝

rishta daar yateem ko (15)

أَوْ مُسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

ya khaak nasheen miskeen ko (16)

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

phir hua unse jo imaan laaye aur unhone aapas mein
sabr ki wasiyatein ki aur aapas mein meharbani ki
wasiyatein ki (17)

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝

ye dahini taraf waale hain (18)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

aur jinhone humari aayato se kufr kiya wo baayein
taraf waale (19)

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝

un par aag hai ke us mein daal kar upar se band kar di
gai (20)

Surah Shams

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝

suraj aur uski raushni ki qasam (1)

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝

aur chand ki jab uske pichhe aai (2)

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝

aur din ki jab use chamkaye (3)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝

aur raat ki jab use chhupaye (4)

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَدَهَا ۝

aur aasman aur uske banane waale ki qasam (5)

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ۝

aur zameen aur iske phailane waale ki qasam (6)

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝

aur jaan ki aur uski jisne use theek banaya (7)

فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝

phir uski badkari aur uski parhezgari dil mein daali (8)

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝

beshak muraad ko pahuncha jisne use suthra kiya (9)

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝

aur namuraad hua jisne use masiyat mein chhupaya
(10)

كَذَّابَتْ تَبُودُ بِطُغْيَاهَا ۝

samood ne apni sarkashi se jhutlaya (11)

إِذَا نُبِعَتْ أَشْقَاهَا ۝

jabki uska sabse badbakht uth khada hua (12)

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝

to unse allah ke rasool ne farmaya allah ke naaqa aur

uski peene ki baari se bacho (13)

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهُمَا ۗ فَمَدَّ مَرَّ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۗ

to unhone use jhutlaya phir naaqa ki koochein kaat di
to un par unke rab ne unke gunah ke sabab tabahi
daal kar wo basti barabar kar di (14)

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۗ

aur uske pichha karne ka use khauf nahin (15)

Surah Lail

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۗ

aur raat ki qasam jab chhaye (1)

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۗ

aur din ki jab chamke (2)

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ

aur uski jisne nar wa maada banaye (3)

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۗ

beshak tumhari koshish mukhtalif hai (4)

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۗ

to wo jisne diya aur parhezgari ki (5)

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۗ

aur sabse achhi ko sach maana (6)

فَسَنِّيَسِرُهُ إِلَىٰ سِرَىٰ ۗ

to bahut jald hum use aasani muhayya kar denge (7)

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۖ

aur wo jisne bukhl kiya aur be parwa bana (8)

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ

aur sabse achhi ko jhutlaya (9)

فَسَنِيَّسِرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ ۖ

to bahut jald hum use dushwari muhayya kar denge

(10)

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۖ

aur uska maal use kaam na aayega jab halakat mein
padega (11)

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۖ

beshak hidayat farmana humare zimma hai (12)

وَإِن لَّنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۖ

aur beshak aakhirat aur dunya dono ke humi malik hai
(13)

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۖ

to main tumhein darata hoon us aag se jo bhadak rahi
hai (14)

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْاَشْقَىٰ ۖ

na jayega us mein magar bada badbakht (15)

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ

jis ne jhutlaya aur moonh phera (16)

وَسَيَجْزِيهَا الْاَتَقَىٰ ۖ

aur bahut jald usse door rakha jayega jo sabse bada
parhezgar (17)

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝

jo apna maal deta hai ke suthra ho (18)

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ۝

aur kisi ka us par kuchh ehsaan nahin jiska badla diya
jaaye (19)

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝

sirf apne rab ki raza chahta jo sabse buland hai (20)

وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

aur beshak qareeb hai ke wo raazi hoga (21)

Surah Ad Duha

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالضُّحَىٰ ۝

chasht ki qasam (1)

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝

aur raat ki jab parda daale (2)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

ke tumhein tumhare rab ne na chhoda aur na
makrooh jaana (3)

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝

aur beshak pichhli tumhare liye pehli se behtar hai (4)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

aur beshak qareeb hai ke tumhara rab tumhein itna dega ke tum raazi ho jaoge (5)

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝

kya usne tumhein yateem na paaya phir jagah di (6)

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝

aur tumhein apni muhabbat mein khud rafta paaya to apni taraf raah di (7)

وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ۝

aur tumhein hajatmand paaya phir ghani kar diya (8)

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

to yateem par dabao na daalo (9)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

aur mangta ko na jhidko (10)

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

aur apne rab ki nemat ka khoob charcha karo (11)

Surah Alam Nashrah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

الْمُ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۝

kya humne tumhare liye seena kushada na kiya (1)

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝

aur tum par se tunhara bojh utaar liya (2)

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۝

jisne tumhari peeth todi thi (3)

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

aur humne tumhare liye tumhara zikr buland kar diya

(4)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

to beshak dushwari ke saath aasani hai (5)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

beshak dushwari ke saath aasani hai (6)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝

to jab tum namaz se farigh ho to dua mein mehnat
karo (7)

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

aur apne rab ki taraf raghbat karo (8)

Surah Teen

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالزَّيْتُونَ ۝

injeer ki qasam aur zaitoon (1)

وَطُورِ سَيْنِينَ ۝

aur toore seena (2)

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝

aur us amaan wale shehar ki (3)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

beshak humne aadmi ko achhi surat par banaya (4)

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

fir use har neeche se neeche si haalat ki taraf fer diya
(5)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝

magar jo imaan laaye aur acche kaam kiye ke unhen
be-hadd sawab hai (6)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ۝

to ab kya cheez tujhe insaaf ke jhuthlane par baaes hai
(7)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكِمِينَ ۝

kya allah sab haakimo se badh kar hakim nahi (8)

Surah Alaq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝

padho apne rabb ke naam se jisne paida kiya (1)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

aadmi ko khoon ki futak se banaya (2)

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝

padho aur tumhara rabb se sabse bada kareem hai (3)

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝

jisne qalam se likhna sikhaya (4)

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

aadmi ko sikhaya jo na janta tha (5)

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَيِّطٍ ۝

haan haan beshak aadmi sarkashi karta hai (6)

أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَىٰ ۝

is par ke apne aapko ghani samjh liya (7)

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝

beshak tumhare rabb hi ki taraf firna hai (8)

أَرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۝

bhala dekho to jo mana karta hai (9)

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۝

bande ko jab wo namaz padhe (10)

أَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَىٰ الْهُدَىٰ ۝

bhala dekho to agar wo hidayat par hota (11)

أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ۝

ya parhezgari batata to kya khoob tha (12)

أَرَعَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ

bhala dekho to agar jhuthlaya aur moonh fera (13)

أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ۖ

to kya haal hoga kya na jana ke allah dekh raha hai (14)

كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ ۖ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۖ

haan haan agar baaz na aaya to hum zaroor peshani
ke bal pakad kar kheenchenge (15)

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۖ

kaisi peshani jhothi khatakar (16)

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۖ

ab pukare apni majlis ko (17)

سَنَدْعُ رَبَّنَا ۖ

abhi hum sipahiyon ko bulate hain (18)

كَلَّا لَا تَطَّعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

haan haan uski na suno aur sajda karo aur hun se
qareeb ho jao (19-sajda)

Surah Al Qadr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝

beshak hamne use shabe qadr me utara (1)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝

aur tum ne kya jana kya shabe qadr (2)

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

shabe qadr hazar maheeno se behtar (3)

تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۝ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝

usme firishte aur jibril utarte hain apne rabb ke hukm
se har kaam ke liye (4)

سَلَامٌ ۝ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

wo salamati hai subah chamakne tak (5)

Surah Bayyinah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ ۝

kitabi kafir aur mushrik apna deen chhodne ko na the
jab tak unke paas raushan daleel na aaye (1)

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝

wo kaun wo allah ka rasool ke paak sahife padhata hai
(2)

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

unme seedhi baaten likhi hain (3)

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَةُ ۗ

aur phoot na padi kitab walon me magar baad iske ke wo raushan daleel unke paas tashreef laye (4)

وَمَا أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

aur un logon ko to yahi hukm hua ke allah ki bandagi karen nire usi par aqeeda laate ek taraf ke ho kar aur namaz qaeem karen aur zakat den aur yahi seedha deen hai (5)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ

أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ

beshak jitne kafir hain kitabi aur mushrik sab jahannam ki aag me hain hamesha usme rahenge wahi tamam makhloq me badtar hain (6)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

beshak jo imaan laye aur acche kaam kiye wahi tamam makhloq me behtar hain (7)

جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

unka sila unke rabb ke paas basne ke baagh hain jinke neeche nehre bahe unme hamesha rahe allah unse razi aur wo usse razi ye uske liye hai jo apne rabb se dare (8)

Surah Zilzaal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

jab zameen tharthara di jaaye uska thartharana thehra
hai (1)

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

aur zameen apne bojh baahar phenk de (2)

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا

aur aadmi kahe ise kya hua (3)

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

us din wo apni khabrein batayegi (4)

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

isliye ke tumhare rab ne use hukm bheja (5)

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّ النَّاسُ أُمَّتَاتًا ۖ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

us din log apne rab ki taraf phirenge kai raah ho kar
taaki apna kiya dikhaye jaayein (6)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

to jo ek zarra bhar bhalai kare use dekhega (7)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

aur jo ek zarra bhar burai kare use dekhega (8)

Surah Aadiyaat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَالْعُدَايَاتِ ضَبْحًا ۝

qasam un ki jo daudte hain seene se aawaz nikalti hui
(1)

فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۝

phir pattharo se aag nikaalte hain sum maar kar (2)

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۝

phir subah hote taraaj karte hain (3)

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا ۝

phir us waqt ghubaar udaate hain (4)

فَوَسَطْنَ بِهِ جَنَاعًا ۝

phir dushman ke beech lashkar mein jaate hain (5)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۝

beshak aadmi apne rab ka bada nashukr hai (6)

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكِ لَشَهِيدٌ ۝

aur beshak wo is par khud gawah hai (7)

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝

aur beshak wo maal ki chahat mein zaroor karra hai (8)

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ۝

to kya nahin jaanta jab uthaye jayenge jo qabro mein
hain (9)

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝

aur khol di jayenge jo seeno mein hai (10)

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۝

beshak unke rab ko us din un ki sab khabar hai (11)

Surah Qaariah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

الْقَارِعَةُ ۝

dil hilane waali (1)

مَا الْقَارِعَةُ ۝

kya wo dahlane waali (2)

وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

aur tune kya jaana kya hai dehlane waali (3)

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ ۝

jis din aadmi honge jaise phaile patange (4)

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝

aur pahaad honge jaise dhunki oon (5)

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۝

to jiski taulein bhaari hui (6)

فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

wo to man maante aish mein hain (7)

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۝

aur jiski taulein halki padi (8)

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۝

wo nicha dikhane waali god mein hai (9)

وَمَا آذْرَبَكَ مَا هَيْبَةٌ ۝

aur tune kya jaana kya nicha dikhane waali (10)

نَارٍ حَامِيَةٍ ۝

ek aag shole maarti (11)

Surah Takasur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

الْهَكْمُ التَّكَاثُرُ ۝

tumhein ghafil rakha maal ki zyada talabi ne (1)

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

yahan tak ke tumne qabro ka moonh dekha (2)

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

haan haan jald jaan jaoge (3)

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

phir haan haan jald jaan jaoge (4)

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝

haan haan agar yaqeen ka janna jaante to maal ki muhabbat na rakhte (5)

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۝

beshak zaroor jahannam ko dekhoge (6)

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝

phir beshak zaroor use yaqeeni dekhna dekhoge (7)

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

phir beshak zaroor us din tumse nemato se pursish hogi (8)

Surah Asr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat waala

وَالْعَصْرِ ۝

us zamana -e- mahboob ki qasam (1)

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ۝

beshak aadmi zaroor nuqsan mein hai (2)

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۝ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝

magar jo imaan laaye aur achhe kaam kiye aur ek dusre ko haq ki takeed ki aur ek dusre ko sabr ki wasiyat ki (3)

Surah Humaza

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

kharabi hai uske liye jo logon ke moonh par aib kare
peeth pichhe badi kare (1)

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝

jisne maal joda aur gin gin ke rakha (2)

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

kya ye samajhta hai ke uska maal use dunya mein
humesha rakhega (3)

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْبَةِ ۝

hargiz nahin zaroor wo raundne waali mein phenka
jayega (4)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطْبَةُ ۝

aur tune kya jaana kya raundne waali (5)

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝

allah ki aag ke bhadak rahi hai (6)

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝

wo jo dilo par chadh jayegi (7)

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَدَةٌ ۝

beshak wo un par band kar di jayegi (8)

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

lambe lambe sutoono mein (9)

Surah Feel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝

ay mehboob kya tumne na dekha tunhare rabb ne un
hathi walon ka kya haal kiya (1)

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝

kya unka daanw tabaahi me na dala (2)

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

aur un par parindon ki tukdiyaan bheji (3)

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝

ki unhen kankar ke pattharo se maarte (4)

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝

to unhen kar dala jaise khayi kheti ki pattiyan (5)

Surah Quresh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝

isliye ke quraish ko mail dilaya (1)

الْفِهْمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝

unke jaade aur garmi dono ke kooch me mail dilaya (2)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝

to unhen chahiye is ghar ke rabb ki bandagi karen (3)

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۙ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

jisne unhen bhook me khana diya aur unhen ek bade
khauf se amaan bakhsha (4)

Surah Maaoon

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
wala

أَرَعَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۝

bhala dekho to ji deen ko jhuthlata hai (1)

فَذَلِكِ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝

fir wo, wo hai jo yateem ko dhakke deta hai (2)

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

aur miskeen ko khana dene ki raghbat nahi deta (3)

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝

to un nnamaziyon ki kharabi hai (4)

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

jo apni namaz se bhoole baithe hain(5)

الَّذِينَ هُمْ يُرْءَاؤُونَ ۝

wo jo dikhawa karte hain (6)

وَيَنْعُونَ الْمَاعُونَ ۝

aur baratne ki cheez mange nahi dete (7)

Surah Kausar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝

ay mehboob humne tumhen be-shumar khoobiyon
ataa farmayi (1)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۝

to tum apne rabb ke liye namaz padho aur qurbani
karo (2)

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

beshak jo tumhara dushman hai wahi har khair se
mehroom hai (3)

Surah Kafiroon

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝

tum farmao ay kafiron (1)

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝

na mai poojta hun jo tum poojte ho (2)

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

aur na tum poojte ho jo mai poojta hun (3)

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝

aur na mai poojunga jo tumne pooja (4)

وَلَا أَنْتُمْ عِبَادُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

aur na tum poojoge jo mai poojta hun (5)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝

tumhen tumhara deen aur mujhe mera deen (6)

Surah Nasr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝

jab allah ki madad aur fatah aaye (1)

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝

aur logon ko tum dekho ke allah ke deen me fauj fauj
dakhil hote hain (2)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

to apne rabb ki sana karte hue uski paaki bolo aur usse
bakhshish chaho beshak wo bahut tauba qubool karne
wala hai (3)

Surah Lahab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝

tabaah ho jaye abu lahab ke dono hath aur wo tabaah
ho hi gaya (1)

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝

use kuchh kaam na aaya uska maal aur na jo kamaya
(2)

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

ab dhasta hai lapat marti aag me wo (3)

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝

aur uski joru lakadiyon ka gattha sar par uthati (4)

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

uske gale me khajoor ki chhal ka rassa (5)

Surah Ikhlâas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

tum farmao wo allah hai wo ek hai (1)

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

allah beniyaz hai (2)

لَمْ يَلِدْ ۖ وَلَمْ يُولَدْ ۝

na uski koi aulad aur na wo kisi se paida hua (3)

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

aur na uske jod ka koi (4)

Surah Falaq

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝

tum farmao me uski panaah leta hun jo subah ka paida
karne wala hai (1)

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝

uski sab makhlooq ke shar se (2)

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝

aur andheri dalne wale ke shar se jab wo doobe (3)

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝

aur un auraton ke shar se jo girho me phoonkti hain (4)

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

aur hasad wale ke shar se jab wo mujh se jale (5)

Surah Naas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah ke naam se shuru jo bahut meharban rahmat
waala

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

tum kaho mai uski panah me aaya jo sab logon ka rabb
(1)

مَلِكِ النَّاسِ ۝

sab logon ka baadshah (2)

إِلَهِ النَّاسِ ۝

sab logon ka khuda (3)

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

uske shar se jo dil me bure khatre daale aur dubak
rahe (4)

الَّذِي يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝

wo jo logon ke dilon me waswase dalte hain (5)

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

jinn aur aadami (6)

AMO



DONATE

ABDE MUSTAFA OFFICIAL

Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through electronic and print media. We're working in various departments.

Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. You can read hundreds of articles in multiple languages on our blog.

amo.news/blog

Sabiya Virtual Publication

This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple languages. Have a look on our library **amo.news/books**

E Nikah Matrimonial Service

E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. If you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform for you.

www.enikah.in

E Nikah Again Service

E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage means a man can marry four women at once, By E Nikah Again Service, we want to promote this culture in our Muslim society.

Roman Books

Roman Books is our department for publishing Islamic literature in Roman Urdu Script which is very common on Social Media.

read more about us on **amo.news**

For futher inquiry: info@abdemustafa.com

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION

enikah

niii

BOOKS

SCAN HERE



BANK DETAILS

Account Details :

Airtel Payments Bank

Account No.: 9102520764

(Sabir Ansari)

IFSC Code : AIRP0000001

 PhonePe  G Pay  Paytm

9102520764

or open this link | amo.news/donate

PS
graphics



Kanzul Imalan

A

Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working since 2014 on the Aim to propagate Quraan and Sunnah through electronic and print media. We're working in various departments.

Blogging : We have a collection of Islamic articles on various topics. You can read hundreds of articles in multiple languages on our blog.

blog.abdemustafa.com

Sabiya Virtual Publication

This is our core department. We are publishing Islamic books in multiple languages. Have a look on our library **books.abdemustafa.com**

E Nikah Matrimonial Service

E Nikah Service is a Matrimonial Platform for Ahle Sunnat Wa Jama'at. If you're searching for a Sunni life partner then E Nikah is a right platform for you. **www.enikah.in**

E Nikah Again Service

E Nikah Again Service is a movement to promote more than one marriage means a man can marry four women at once, By E Nikah Again Service, we want to promote this culture in our Muslim society.

Roman Books

Roman Books is our department for publishing Islamic literature in Roman Urdu Script which is very common on Social Media.

read more about us on **www.abdemustafa.com**

For futher inquiry: info@abdemustafa.com

M

O

AMO
ABDE MUSTAFA OFFICIAL

SABIYA
VIRTUAL PUBLICATION



ISBN (N/A)